


www.KitaboSunnat.com

اللہ
رسول
محمد

تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ



نفس اک اُردو بازار کراچی طبعی

علامہ حفظہ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر دمشقی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

*** تنبیہ ***

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

تاریخ ابن کثیر

شہرہ آفاق عربی کتاب

الْبِدَايَةُ وَالْآخِرَةُ

کا اردو ترجمہ

جلد نمبر ۱۶

قیامت کے بعد کے مفصل احوال، مردوں کا جلاء پانا، میدان حشر کی ہولناکی، حساب و کتاب کی آزمائش، پل صراط کی تفصیل، حوض کوثر سے سیرابی اور جنت کے حسین و جمیل مناظر کی منظر کشی اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں

تصنیف * علامہ حَافِظُ أَبُو الْفَدَا عِمَادُ الدِّينِ ابْنِ كَثِيرٍ (۷۰۱ھ-۷۷۴ھ)

ترجمہ * حافظ عبدالمنان فاضل جامعہ مدنیہ لاہور

نفسِ اکیسی

اُردو بازار، کراچی طبعی

البداية والنهاية

مصنف علامہ حافظ ابوالفدا عماد الدین ابن کثیر کے جلد نمبر ۱۵-۱۶ کے اردو ترجمے کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت، تصحیح و ترتیب و ہیویب قانونی بحق

طارق اقبال گاہندری

مالک نفیس اکیڈمی کراچی محفوظ ہیں

www.KitaboSunnat.com

تاریخ ابن کثیر (جلد نمبر ۱۶)	نام کتاب
علامہ حافظ ابوالفدا عماد الدین ابن کثیر	مصنف
حافظ عبدالمنان فاضل جامعہ مدنیہ لاہور	ترجمہ
نفیس اکیڈمی - کراچی	ناشر
۲۲۲ صفحات	ضخامت
۰۲۱-۷۷۲۲۰۸۰	ٹیلیفون

فہرست عنوانات
www.KitaboSunnat.com

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۶	آخرت میں کوئی حصہ نہیں		پروردگار عزوجل کا قیامت کے دن لوگوں سے
۱۷	گناہ گار مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ	۹	ہمکلامی کا بیان
۱۸	فصل	//	قیامت کے دن امت محمدیہ کی دوسری امتوں پر شہادت
	جنت و جہنم کا ظاہر ہونا، میزان عدل کا قائم ہونا اور	۱۰	قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی آدم سے ہمکلامی
//	حساب کتاب کا شروع ہونا	//	دیگر امتوں کے مقابلہ میں امت محمدیہ کی تعداد
۱۹	میدان محشر میں جہنم کا لایا جانا اور لوگوں پر ظاہر ہونا		رسول اللہ ﷺ کا خیال کہ میری امت اہل جنت
	جہنم سے ایک گردن کا نکلنا اور اس کا کلام کرنا اور سرکش	۱۱	میں نصف تعداد میں ہوگی
//	مشرکین اور ناحق جان لیوا قاتلین کو جہنم رسید کرنا		قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوح علیہ السلام سے
//	کیا جہنم کی آنکھیں ہوں گی؟	//	کلام فرمانا
۲۰	میزان عدل کا قائم ہونا		قیامت کے دن امت محمدیہ کی دوسری امتوں پر شہادت
۲۱	حساب اور فیصلے کے بعد اعمال کا وزن	۱۲	(اس امت کے لیے یہ عدالت اور شرافت کا پروانہ ہے)
۲۲	میزان کے دو مجسم پلڑے ہونے کا بیان	//	یوم حشر کو ابراہیم علیہ السلام کی حاضرین پر فضیلت اور برتری
//	”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پر کوئی شے بھاری نہیں ہو سکتی		قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے
//	کیا قیامت کے دن عمل کے ساتھ عامل کا وزن بھی کیا	//	کلام فرمانا
//	جائے گا؟		قیامت کے روز خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کا مقام
	قیامت کے دن ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی	۱۳	جس تک کسی اول و آخر کی رسائی نہ ہوگی
//	شہادت میزان میں گناہوں پر بھاری ہو جائے گی	۱۵	مقام محمود
	قیامت کے دن بندے کے اعمال میں حسن اخلاق		فیصلہ کے وقت اللہ عزوجل کا اہل علم سے کلام فرمانا اور
۲۳	سب سے بھاری شے ہوگی	//	اہل علم کا اکرام
۲۴	جامع روایت	//	اللہ عزوجل کا مومنین سے پہلا کلام
	عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا سے روایت کا دوسرا	۱۶	فصل
۲۵	طریق		جس نے اللہ کی امانت اور عہد میں خیانت کی اس کا

۴۸	قیامت کے دن ظالموں سے قصاص لیا جائے گا	۲۶	قیامت کے روز حضور ﷺ کہاں کہاں ہوں گے؟
//	خداے ساتھ ترک معاف نہیں ہوگا	//	شقی یا سعید
//	بند۱۰ پر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا	۲۸	فصل
۴۹	خدا کی راہ میں جہاد سوائے امانت کے ہر چیز کو بخشش دیتا ہے	//	میزان کے متعلق علماء کے اقوال
۵۰	قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ	۲۹	میزان ہر شخص کے لیے قائم نہیں ہوگی
۵۱	اللہ تعالیٰ کا بندہ کی جانب سے مصالحت کروانا	۳۰	کیا آخرت میں کافر سے عذاب کی تخفیف ہوگی؟
۵۲	فصل		فصل
۵۶	فصل		اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی صحائف اعمال کا اڑنا اور
۵۷	حوض کوثر سے کچھ لوگوں کا دفع کیا جانا	//	اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب لینا
۵۸	اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا کی روایت	۳۲	جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا
۵۸	نومولود کو دودھ پلانے والی ماں سے زیادہ اللہ پاک اپنے بندے پر رحم فرماتے ہیں	۳۳	فصل
۵۸	امت محمدیہ میں سے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے ستر ہزار سے متعلق ایک اور حدیث	۳۵	فصل
۵۹	میدان حساب سے لوگوں کے منتشر ہونے کی کیفیت	۳۹	فصل
۶۱	ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں		قیامت کے دن (بندوں کے اعمال میں) پہلی شے
۶۳	جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص	//	جس کا حساب کیا جائے گا وہ خون (ناحق) ہوگا
۶۸	پہل صراط کا ذکر		قیامت کے روز تمام امتوں میں سب سے پہلے امت
۷۳	فصل		محمدیہ کا حساب کتاب ہوگا
۷۴	جہنم پر سے ہر شخص کو گزرتا ہوگا		قیامت کے دن جن چیزوں کا پہلے حساب کیا جائے
۷۸	فصل		گا اور کس سے حساب میں احتساب کیا جائے گا کس
۸۳	فصل		سے چشم پوشی سے کام لیا جائے گا
//	اہل جنت کی بعض صفات اور بعض نعمتوں کا ذکر	۴۰	جس نے زمین کا ٹکڑا غضب کیا اسے سات زمینوں
۸۴	اہل جنت کی عمر کے بارے میں احادیث	۴۱	تک وہ ٹکڑا گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا
		//	قیامت کے روز مصورین اور مجسمہ گروں کو عذاب
			وہ پانچ باتیں جن کا جواب دیئے بغیر قیامت کے دن
		۴۲	بندے کے قدم زمین سے ہل نہ سکیں گے
		۴۶	قیامت کے روز (اعمال میں) پہلے نماز کی پرسش ہوگی

۱۰۴	جنہیوں کی لمبی چوڑی جسامت کا بیان	۸۴	جنہم کی صفات
۱۰۵	سدر کے جنہم ن جانے کا ذکر		ایک انصاری نے دانتوں کے جنہم کے خوف نے ہنک کر ڈالا
//	جنہم کے دروازوں اور اس کے داروں کا ذکر	۹۵	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جنہم سے خوف
	پل صراط کی صفت اور اسے پار کرنے میں لوگوں کی	//	جنہم کا ذکر اور شدت تہمت
//	رفتار کے مختلف ہونے کا بیان	۹۶	جنہم کی آگ دنیا کی آگ سے سترگناہ تیز ہوگی
۱۰۷	جنہم کی دیوار اور آلات عذاب	//	جنہم کی آگ تین ہزار سال جلائی گئی حتیٰ کہ سیاہ
۱۰۸	جنہم کے عذابوں کی چند انواع و اقسام		تاریک ہوگئی
۱۱۰	اہل جنہم کا کھانا پینا	۹۷	جنہم کی آگ کی تپش کبھی کم نہ ہوگی اور نہ اس کے شعلے
۱۱۲	جنہم کے ناموں سے متعلق روایات اور ان کی وضاحت		بھڑکنے بند ہوں گے
۱۱۳	حب الخزن یعنی غم کی واوی	۹۷	اہل جنہم میں سے سب سے کم عذاب حضرت
	جنہم کی نہر کا ذکر جس میں جنہیوں کے میل کچیل اور لہو		ابوطالب کو ہوگا
۱۱۴	پیپ وغیرہ جمع ہوں گے	۹۸	جنہم کی ہولناکی
	جنت میں شراب کا عادی رشتہ ناطق قطع کرنے والا اور	۹۹	جنہم کی اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت
//	جادوگر کی تصدیق کرنے والا داخل نہیں ہو سکتے	//	گرمی کی شدت جنہم کے سانس کی لپٹ سے ہے
//	واوی لم لم کا ذکر	//	جنت و جنہم کو ملاحظہ کرنے والوں کی حالت
//	ایک واوی کا ذکر	۱۰۰	اگر کافر کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ اپنی جان کے
//	ویل اور صعود کا ذکر		عوض اس کو فدیہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائیگا
۱۱۵	صعود کے معنی	//	دوسرا طریق
//	جنہم کے سانپ بچھوؤں کا ذکر اللہ اپنی پناہ میں رکھے	۱۰۱	قیامت کے روز مؤمن کی تمنا کہ دنیا کو لوٹے اور راہ
۱۱۷	عبرت انگیز خطبہ		خدا میں جہاد کرے اور شہید ہو
	جو خلوص دل کے ساتھ جنہم کی گرمی و سردی سے خدا کی	//	جنہم کی صفات و وسعت اور اہل جنہم کی جسامت (اللہ
۱۱۸	پناہ مانگے خدا کی رحمت اس کے قریب ہے		محفوظ فرمائے)
//	فصل	۱۰۲	بغیر سوچے سمجھے کہے جانے والی بری بات کا قائل جنہم
//	جنہم کے درجات کا بیان (اللہ پناہ میں رکھے)		میں مشرق و مغرب جتنی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے
۱۱۹	جنہم کے بعض اثر و ہوں کا ذکر	//	جنہم کی گہرائی
//	اہل جنہم کی آہ و بکا اور چیخ و پکار	۱۰۳	

۱۳۰	عبادہ بن الصامت کی حدیث	۱۲۰	جہنم اور اہل جہنم کی صفات سے متعلق مختلف احادیث
//	شفاعت سے تعلق ایک طویل روایت	۱۲۱	ایک غریب روایت
	شفاعت اور نصف امت کے جنت میں داخلہ کے	//	غریب روایات میں سے ایک روایت
۱۳۲	درمیان حضور ﷺ کا اختیار	۱۲۳	باب
//	اے محمد ﷺ ہم تجھے خوش کر دیں گے		قیامت میں رسول خدا ﷺ کی شفاعت اور اس کی
۱۳۳	ایک وفد کا قصہ	//	انواع و تعداد کا بیان
//	شفاعت کے اہل انبیاء پھر علماء اور پھر شہداء ہوں گے	//	شفاعت عظمیٰ کا بیان
۱۳۴	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۲۴	دیگر انبیاء و مرسلین کے مقابلہ میں حضور اکرم کی خصوصیات
//	حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت		شفاعت کی دوسری اور تیسری قسم، عام مسلمان لوگوں
//	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت		کے لیے حضور ﷺ کی شفاعت ہے جن کی نیکیاں
	اس حدیث پر مسند الصدیق میں طویل کلام ہو چکا ہے۔ از مصنف		اور بدیاں برابر ہوں گی تاکہ وہ جنت میں داخل
۱۳۵	حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۲۵	ہو جائیں اور ان لوگوں کے واسطے جن کے لیے دخول
//	جہنم میں مؤمنین کے ساتھ عظیم رعایت		جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا تاکہ وہ دخول جہنم سے بچ جائیں
۱۳۸	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۲۶	شفاعت کی چوتھی قسم
	قیامت کے دن مؤمنین شفاعت کریں گے سوائے		جنت میں بغیر حساب داخل کرنے والی اور گنہگار کے
۱۳۹	لعنت کرنے والوں کے	۱۲۷	عذاب میں تخفیف کرنے والی شفاعتوں کا بیان
//	مؤمنین کی اپنے اہل و عیال کی شفاعت	//	شفاعت کی پانچویں قسم
۱۴۱	پانی کے بدلہ شفاعت کا قصہ	//	شفاعت کی چھٹی قسم
//	اعمال کی شفاعت صاحب اعمال کے لیے (الحدیث)	//	شفاعت کی ساتویں قسم
//	ایک واقعہ	۱۲۸	شفاعت کی آٹھویں قسم
۱۴۴	فصل	//	مختلف شفاعتوں سے متعلق مختلف احادیث
//	اصحاب اعراف کا بیان	//	ابی بن کعب کی روایت
	سب سے پہلے جو شخص جہنم سے نکل کر جنت میں داخل	//	انس بن مالک کی روایت
۱۴۵	ہوگا		قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی شفاعت ان
۱۴۶	سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا شخص	۱۲۹	لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان ہلاکت میں ڈالی
		۱۳۰	دیگر انبیاء کی شفاعت

۱۶۶	ابن عباسؓ کی روایت اور کوثر کی ایک اور تفسیر	۱۶۷	فصل
۱۶۷	حضرت عائشہؓ کی روایت	۱۶۸	مسلمانوں کے نکلنے کے بعد کافریں کے ساتھ جیش آنے والے احوال
۱۶۸	جنت میں نہر بیدخ کا ذکر	۱۶۹	جنت کے دروازوں کے نام
۱۶۹	ایک صحابیہ عیسیٰؑ کے سچے خواب کا ذکر	۱۷۰	جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے
۱۷۰	جنت کے دروازے پر جاری نہر بارق کا ذکر اور جنت کی نہروں کے نام	۱۷۱	نیک اعمال اس چابی کے دندنے میں
۱۷۱	جنت کے درختوں کا بیان	۱۷۲	جنت کے محلات کی تعداد ان کی بلندی اور فراخی
۱۷۲	جنت کے ایسے درخت کا ذکر جس کے سائے تلے سو سال تک تیز رفتار گھوڑا بھاگتا ہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا	۱۷۳	و کشادگی کا بیان
۱۷۳	شجرہ طوبی	۱۷۴	اللہ کے راستے میں معمولی عمل اور جنت کی کمترین شے دونوں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے
۱۷۴	سدرۃ المنتہی	۱۷۵	فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ ہے۔ نماز اور روزہ اللہ کے مغفرت کا سبب ہیں
۱۷۵	جنت کے پھلوں کا ذکر	۱۷۶	جنت کی نہریں فردوس سے پھوٹتی ہیں
۱۷۶	اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بھی ان سے کھلائے گا	۱۷۷	اہل جنت میں سے ادنیٰ اور اعلیٰ جنتی کے لیے نعمتوں کا بیان
۱۷۷	فصل	۱۷۸	جنت کے بالا خانوں ان کی بلندی کشادگی اور فراخی کا ذکر
۱۷۸	اہل جنت کے کھانے پینے کا ذکر	۱۷۹	اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں کے محلات
۱۷۹	مذکورہ حدیث کی مؤید ایک دوسری روایت	۱۸۰	جنت کے سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ”وسیلہ“ جس میں حضور ﷺ کھڑے ہوں گے
۱۸۰	بعض جنتیوں کی خواہش کہ وہ کھیتی باڑی کریں ایک دیہاتی کا واقعہ	۱۸۱	وسیلہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا
۱۸۱	جنتیوں کے سب سے پہلے کھانے کا ذکر	۱۸۲	جنت کے خمیر کا ذکر کہ جس سے اس کی تعمیر ہوئی؟
۱۸۲	ایک یہودی کا آپ ﷺ سے مکالمہ	۱۸۳	قیام اللیل، کھانا کھانا اور کثرت صیام کی فضیلت
۱۸۳	اہل جنت کے لباس زیورات اور حسن و جمال کا ذکر	۱۸۴	جنت کے خمیوں کا ذکر
۱۸۴	اہل جنت کے بچھونوں کا ذکر	۱۸۵	جنت کی مٹی کا ذکر
۱۸۵	حور عین کی صفات اور بنات آدم کی ان پر فضیلت	۱۸۶	جنت کی نہروں اور درختوں کا بیان
۱۸۶	حوروں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟	۱۸۷	جنت کی مشہور ترین نہر کوثر کا بیان
۱۸۷	جنتی عورتوں کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوالات		

	۱۸۳	اپنی طاقت بھر جنت کی طلب کرو اور اپنی طاقت بھر	اور آنحضرت ﷺ کے جوابات
۲۰۴	۱۸۷	دوزخ کے بناؤ	جنت میں عورتوں کے گناہ کا بیان
	۱۸۸	جنت کو ناگواریوں نے گھیر رکھا ہے اور دوزخ کو	اہل جنت کے اپنی عورتوں سے ہم بستر ہونے کا بیان
۲۰۵	۱۸۹	شہوات نے گھیر رکھا ہے	اہل جنت کے لیے بچوں کا ہونا نہ ہونا
//	//	اللہ کی جنت میں حور کا گیت	جنت میں صغریٰ موت آئے گی اور نہ کبریٰ موت
۲۰۸	۱۹۱	جنت کے گھوڑے	اہل جنت کو کبھی نیند نہ آئے گی
	۱۹۱	اہل جنت کا ایک جگہ جمع ہونا ایک دوسرے کی زیارت	جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہونے کا بیان
۲۰۹	۱۹۲	کرنا اور اچھے برے اعمال کا تذکرہ کرنا	اللہ تعالیٰ کا اہل جنت کو اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا
۲۱۳		جنت کے متعلق ایک جامع باب اور مختلف احادیث	اس بات کا بیان کہ اہل جنت جمعہ کے دنوں میں حق تعالیٰ
۲۱۴		اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے آباء پر اللہ تعالیٰ کا فضل	کا دیدار ایسی جگہوں میں کریں گے جو خالص اس مقصد
//	۱۹۳	جنت اور دوزخ موجود ہیں	کے لیے تیار کی گئی ہوں گی۔
	۱۹۵	جنت والوں کی بعض صفات اور دوزخ والوں کی بعض	جمعہ کا دن یوم المزید ہے
۲۱۵	۱۹۸	صفات	جنت کے بازار کا ذکر
۲۱۷	۱۹۹	فصل	جنت کی زمین اور جنت کی خوشبو کی مہک
//		فقراء امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے	جنت کی ہوا اس کی خوشبو اس کا پھیلنا یہاں تک کہ وہ
	۲۰۰	جنت میں جانے کے لیے اول جن کو پکارا جائے گا وہ	خوشبو کی سال کی مسافت تک سونگھی جاسکے
۲۱۸		اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں گے غمی و خوشی میں	جنت کی روشنی اس کا حسن اس کے صحن کی خوبی اور صبح
۲۱۹	۲۰۲	امت محمدیہ کی جنت میں اکثریت اور بلند درجے اور مرتبے	و شام اس کا خوبصورت منظر
//		صحابہؓ کی پہلی جماعت اس امت کی بہترین جماعت ہے	حصول جنت کی کوشش کا حکم اللہ کا اپنے بندوں کو اس
		اس امت کی ایک بڑی تعداد بغیر حساب کے جنت	کی ترغیب دینا اور ایک دوسرے سے سبقت لے
//	۲۰۳	میں جائے گی	جانے کا حکم فرماتا
		جنت اور دوزخ موجود ہیں ان کو پیدا کیا جا چکا ہے نہ	جو آگ سے اللہ کی پناہ مانگے گا اللہ اس کو پناہ دیں
		یہ کہ وہ تانہود وجود میں نہیں آئیں جیسا کہ بعض اہل	گے اور جو جنت کا طلبگار ہوگا اللہ اس کو جنت میں
۲۲۰	۲۰۴	باطل کا خیال ہے	داخل فرمائیں گے بشرطیکہ نیت صادق اور علم صحیح ہو
		کئی شوہروں والی بیوی جنت میں اس کے ساتھ ہوگی	جنت اور دوزخ ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جن
۲۲۲	//	جس کا اخلاق اچھا تھا	کی شفاعت قبول کی گئی ہے

پروردگار عزوجل کا قیامت کے دن لوگوں سے ہم کلامی کا بیان

قیامت کے دن پروردگار اپنے بندوں سے کلام فرمائیں گے، امام بخاری نے اس موضوع پر ایک مستقل باب قائم فرمایا ہے چنانچہ باب التوحید کے ذیل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حدیث درج فرمائی ہے: ”تم میں سے ہر ایک شخص سے پروردگار عزوجل اس حال میں کلام فرمائے گا کہ اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی ترہمان نہ ہوگا۔“^①

اس موضوع پر بہت سی آیات قرآنیہ بھی شاہد ہیں، من جملہ فرمان باری تعالیٰ:

”وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے، جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں (لوگوں کو دعوت پر) کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔“ (الانکاد: 109)

www.KitaboSunnat.com

نیز فرمان باری تعالیٰ:

”پس جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان کی پریش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس روز (اعمال کی) میزان برحق ہے اور جن لوگوں کے (اعمال کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں اور جن کے وزن ہلکے ہوں تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو خسارے میں ڈالا۔ اس لیے کہ وہ ہماری آیات میں بے انصافی کرتے تھے۔“ (الاعراف: 92-93)

”اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنیں۔“ (البقرہ: 143)

”اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے۔ بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔“ (الحج: 6)

”تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پریش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔“ (الاعراف: 6)

قیامت کے دن امت محمدیہ کی دوسری امتوں پر شہادت:

ابن ابی الدین (ابن المبارک) راشد بن سعد ابن رقم المغافری بھلان بن ابی جبلہ) کی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ پروردگار آپ سے پوچھیں گے کیا تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ وہ عرض کریں گے جی پروردگار! پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام سے استفسار کیا جائے گا کیا تو نے اپنا عہد پیامبری پورا کر دیا؟ وہ عرض کریں گے جی پروردگار! میں نے رسولوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر پروردگار رسولوں سے دریافت فرمائیں گے: کیا جبرئیل نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ رسول عرض کریں گے جی پروردگار! پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی بری الذمہ کر دیا جائے گا۔

اس کے بعد رسولوں سے پوچھا جائے گا تم نے میرے عہد کا کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے ہم نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا لیکن

① بخاری (رقم الحدیث: ۶۵۲۹)۔ مسلم (رقم الحدیث: ۴۴۳۵)

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

کسی نے تصدیق کی اور کسی نے ہم کو جھٹلادیا۔ اس بات پر ہمارے پاس گواہ ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پروردگار رسولوں سے پوچھیں گے تم ہمارے گواہ کون ہیں؟ رسول عرض کریں گے: ”محمّدیہ۔“ پھر اسے ہم نے گواہ کو بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا میرے رسولوں نے میرا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ عرض کرے گی: ”ہی پروردگار! ہم شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس پر دوسرے رسولوں کی امتیں امتیاض کریں گی کہ جن لوگوں نے ہم کو دیکھا نہیں وہ ہم پر کس طرح شہادت دینے کی اہل ہیں؟ تب پروردگار امت محمدیہ سے فرمائیں گے تم کس طرح ان پر شہادت دے رہے ہو جب کہ تم نے ان کو پایا نہیں؟ امت محمدیہ عرض کرے گی: پروردگار! آپ نے ہمارے پاس اپنا رسول بھیجا اپنا عہد اور اپنی کتاب بھیجی۔ اس میں آپ نے خود فرمایا کہ ان رسولوں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو ہم نے آپ کے فرمان پر شہادت ہے۔ پروردگار فرمائیں گے امت محمدیہ سچ کہتی ہے۔ پس پروردگار کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے:

”اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزمان) تم پر گواہ بنیں۔“ (سورۃ البقرہ آیت: ۱۴۳)

ابن ارقم فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ امت محمدیہ تم میں سے ہر شخص شہادت دینے کی سعادت حاصل کرے گا مگر وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو۔

قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی آدم علیہ السلام سے ہم کلامی

دیگر امتوں میں امت محمدیہ کی تعداد:

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور (لوگوں سے) پوچھا گیا کیا یہ تمہارے والد آدم علیہ السلام ہیں (لوگوں کے اقرار کے ساتھ) حضرت آدم علیہ السلام بھی عرض کریں گے بے شک پروردگار! پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے: اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو! حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنا پروردگار! پروردگار فرمائیں گے: ہر سو میں سے نانوے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہر سو میں سے نانوے نکال لئے جائیں گے تو پیچھے ہم میں کیا رہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ”میری امت دیگر امتوں کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سیاہ پیل کے جسم پر ایک سفید بال“^① (یعنی ایک فی صد سے بھی بہت کم تعداد امت محمدیہ کی ہے کہ امت محمدیہ کا نانوے فی صد بھی تمام انسانیت کے ایک فی صد میں سے آرام سے آجائے گا اور پھر بھی امت محمدیہ کے جنت میں جانے والوں کے برابر دیگر امتوں کے لوگ جنت میں جائیں گے)۔

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو (میدان محشر) میں بلایا جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے۔ آپ کو آپ کی تمام اولاد دکھائی جائے گی اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ تمہارے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام (اللہ کی جناب میں) پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔“^②

① بخاری ۶۵۲۹/۲ مسند احمد ۳۷۸/۲-۳ کما مر۔

رسول اللہ ﷺ کا خیال کہ میری امت اہل جنت میں نصف تعداد میں ہوگی:

مسند احمد میں ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدم اٹھ کھڑا ہو اور جنم کا حصہ نکال آدم ﷺ عرض کریں گے بیک یا ربی! ہر نبی کے آپ ہی ناک ہیں۔ اب پروردگار! جنم کا کتنا حصہ ہے؟ پروردگار فرمائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے۔ آپ فرماتے ہیں اس موقع پر (ہوان تو ہوان) ہر بچہ (بھی مارے خوف کے) بوزھا ہو جائے گا اور لوگ تجھ کو مد ہوش نظر آئیں گے مگر وہ مد ہوش نہیں ہوں گے بلکہ (عذاب دیکھ کر ان کے رنگ اڑے ہوں گے) بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔“ (سورۃ الحج آیت: 2)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: وہ ایک (خوش بخت) کس میں سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا نو سو ننانوے یا جوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر لوگوں نے (خوشی سے) اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم مجھے امید ہے تم اہل جنت میں ایک چوتھائی تعداد میں ہو گے اللہ کی قسم مجھے امید ہے تم اہل جنت میں ایک تہائی تعداد میں ہو گے بلکہ اللہ کی قسم مجھے امید ہے تمام اہل جنت میں نصف تعداد میں ہو گے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر لوگوں نے (پھر خوشی سے) اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم تمام انسانیت میں ایسے ہو جیسے سیاہ فام تیل میں ایک سفید بال یا سفید تیل میں سیاہ بال۔“

بخاری و مسلم میں کئی طرق سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: ہم مقام فید میں رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد ایک چوتھائی ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہ تم جنت میں نصف تعداد میں ہو گے۔ یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا اور تم اہل شرک کی نسبت یوں ہو جیسے سیاہ فام تیل میں ایک سفید بال یا سرخ تیل میں سیاہ بال۔ (اخرجا بخاری رقم الحدیث 6528)

قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوح علیہ السلام سے کلام فرمانا

”پس جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔“

(سورۃ الاعراف آیت: 6)

مسند احمد میں ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”قیامت کے روز نوح کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم نے (میرا پیغام اپنی امت کو) پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی پروردگار! پھر نوح کی امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو (میرا پیغام) پہنچا دیا تھا؟ امت (مکر جائے گی) اور کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا اور نہ ہی کوئی اور (پیغمبر) آیا۔ پھر نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد اور اس کی امت۔ یہی مطلب ہے اس فرمان باری کا: ”اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزمان) تم پر گواہ بنیں۔“

(سورۃ البقرہ آیت: 143)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر تم کو بلایا جائے گا اور تم حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق گواہی دو گے کہ انہوں نے پیغام دعوت پہنچا دیا تھا

اور میں تمہارے متعلق (سچا ہونے کی) گواہی دوں گا۔“ (اخرج الامام احمد 32۱3)

مذکورہ آیتوں کو دیکھ کر اس کو روایت کیا ہے۔ امام احمد نے مذکورہ روایت کو مزید اضافہ کے ساتھ اس روایت کیا ہے کہ مسند احمد میں ابو سعید سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ دو امتی ہوں گے اور کسی کے ساتھ اس سے کچھ زیادہ۔ پس ہر ایک قوم کو (اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کیا اس (پیغمبر) نے تم تک (میرا) پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر اس پیغمبر سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان تک دعوت پہنچادی تھی؟ وہ عرض گزار ہوں گے بے شک پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ؟ وہ عرض کریں گے محمد اور اس کی امت۔ پھر محمد ﷺ کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا انہوں نے دعوت پہنچادی تھی؟ آپ بھی عرض کریں گے جی! پروردگار پھر امت محمدیہ ﷺ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی امت کو دعوت پہنچادی تھی؟ امت محمدی عرض کرے گی جی پروردگار! پھر ان سے کہا جائے گا یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ امت محمدیہ عرض کرے گی ہمارے پاس محمد ﷺ (پیغمبر بن کر آئے) انہوں نے ہم کو خبر دی کہ رسولوں نے دعوت کا فریضہ انجام دے دیا ہے۔“ پھر فرمایا یہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

”اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزمان) تم پر گواہ بنیں۔“

(سورۃ البقرہ ۱۴۳: ۱۴۳) (مسند الامام احمد 58/3)

ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

قیامت کے دن امت محمدیہ ﷺ کی دوسری امتوں پر شہادت

(اس امت کے لیے یہ عدالت اور شرافت کا پروانہ ہے)

مصنف ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امت محمدیہ ﷺ کی دوسری امتوں پر شہادت (دینا اور اس کا شرف قبولیت پانا) اس امت کے لیے عدالت اور شرافت کا پروانہ ہے۔ قیامت کے روز تمام اقوام کے نزدیک اس امت کے افراد عادل اور امانت دار ہوں گے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام اپنی امتوں پر اس امت کو گواہ بنائیں گے۔ اگر دیگر امتیں اس امت کی شرافت و برتری کا اعتراف نہ کرتیں تو ان کی گواہی سے ان پر الزام عائد نہ ہوتا۔ چنانچہ بہز بن حکیم اپنے والد حکیم اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا:

”تم ستر امتوں کے برابر ہو (بلکہ) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان سے زیادہ بہتر اور عزت دار ہو۔ (ابن ماجہ حدیث ۳۲۸۸۔ مسند احمد الامام ۵/۵)

یوم حشر کو ابراہیم علیہ السلام کی حاضرین پر فضیلت اور برتری

فرمان باری تعالیٰ ہے:

”اور ہم نے ان کو دنیا میں خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔“ (سورۃ النحل ۱۲۲)

بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ ہمارے بیچ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

”تم ننگے پاؤں ننگے بدن (میدان محشر میں) جمع کئے جاؤ گے“۔ (بخاری الحدیث 6527) پھر آپ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے

”جس طرح ہم نے (تم کو اور کائنات کو) پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے“۔ (سورۃ الانبیاء الآیہ: 104)

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اباس پہنایا جائے گا اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو بائیں طرف کر دیا جائے گا (اور حوض کوثر سے ان کو پینے نہ دیا جائے گا) میں عرض کروں گا یارب! یہ تو میرے اصحاب ہیں پروردگار فرمائے گا: تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا (فتنے کھڑے کئے) تب میں ایک نیک بندے کی طرح کہوں گا:

”اور جب تک میں ان میں رہا (ان کے حالات) کی خبر رکھتا رہا جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھالیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز

سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو (تیری مہربانی ہے) بے شک تو غالب

(اور) حکمت والا ہے۔ (سورۃ المائدہ الآیتان: 117، 118)

پروردگار فرمائے گا تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہ دن سے لے پاؤں پھر

گئے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و برتری کا بیان فرمایا اور ان کے متبعین کی کثرت اور ان کے اختلاف و انتشار کا ذکر بھی فرمایا۔

قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور

میری والدہ کو معبود بنا لو؟ اور وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر

میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا (کیونکہ) جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے

میں نہیں جانتا بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم خدا

کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان (کے حالات) کی خبر رکھتا رہا جب

تو نے مجھے دنیا سے اٹھالیا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر

بخش دے تو (تیری مہربانی ہے) بے شک تو غالب (اور) حکمت والا ہے۔ خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست

بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ابدالآباد ان میں بستے رہیں

گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے“۔ (سورۃ المائدہ الآیات 116، 119)

اللہ عزوجل کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز ایسی بات نہیں کہی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال

صرف گمراہ نصاریٰ کو زبردستی کر کے کرنے کے لیے فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکورہ جواب دے کر یوں بری ہو جائیں گے جیسے

ملائکہ ان لوگوں سے بری ہوں گے جو ان کے متعلق خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے اس کے متعلق فرمان باری ہے۔
 ”اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا آیا یہ دم کو پوچھا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے تو
 ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ۔ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر ان کو مانتے تھے“۔ (سورہ سآیت 40-41)
 نیز اسی طرح فرمان باری اسمہ ہے:

”اور جس دن (خدا) ان کو اور جنہیں یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا
 تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایاں نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے
 ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برستے کو نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ تو تھے ہی تباہ ہونے والی قوم۔ تو
 (کافرو!) انہوں نے تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا پس (اب) تم (عذاب کو) پھیر سکتے ہو نہ (کسی سے) مدد لے سکتے ہو
 اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ (سورہ الفرقان الآيات 18: 17)
 اسی کے مثل اور مشابہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

”اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں
 تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک (ان سے) کہیں گے کہ تم ہم کو نہیں پوجا کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان خدا
 بطور گواہ کافی ہے۔ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص (اپنے اعمال کی) جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے
 آزمائش کرے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا
 رہے گا“۔ (سورہ یونس الآيات 28: 30)

قیامت کے روز خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کا مقام

جس تک کسی اول و آخر پیغمبر کی رسائی نہ ہوگی

قیامت کے روز خاتم النبیین حضور ﷺ کا ایسا مقام ہوگا جس تک کسی کی پہنچ نہ ہوگی بلکہ اس کے قریب تک کوئی نہ آسکے گا۔ اول
 و آخر تمام مخلوقات آپ کی عظمت و برتری پر رشک کر رہی ہوگی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ سائر الانبیاء والمرسلین۔
 قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو خدا کے حضور سربسجود ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا وہ آپ ﷺ کی ذات مبارک ہوگی۔ قیامت کے
 دن سب سے پہلے جس کو شفاعت کرنے کا حق ملے گا اور اس کی شفاعت مقبول بھی ہوگی وہ آپ ﷺ کی ذات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کو دوسفید کپڑے پہنائے جائیں گے اور آپ ﷺ کو دوسبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرش خداوندی کے
 سامنے اور حضور ﷺ کو عرش خداوندی کے دائیں طرف بٹھایا جائے گا۔

پھر آپ ﷺ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور خداوندی میں گویا ہوں گے یارب! انہوں نے آپ کی
 طرف سے مجھے یہ خبر دی تھی کہ آپ نے ان کو میری طرف قاصد بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ عزوجل فرمائیں گے جبرئیل نے سچ کہا تھا:

مقام محمود:

کئی طرف سے حضرت مجاہدس مروی ہے کہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ﷺ کو اپنے ساتھ عرض پر شہنائیں گے۔ عبد اللہ بن عباسؓ نے بھی یونہی مروی ہے۔ ابو بکر مروزی نے اس بارے میں کافی اقوال جمع کئے ہیں۔ آپ کے مددہ کنی حضرات اور محدثین اللہ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ جیسے جمیل القدر بزرگوں نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حافظ ابوالحسن الدارقطنی نے (حضور ﷺ کی مدح میں کہے ہوئے) اپنے تصنیف میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس بات کا انکار یا اثبات مروی نہیں ہے۔ مصنف حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں: یہ حدیث یا وحی کے سوا قبول نہیں کی جاسکتی اور ایسی کوئی حدیث مروی نہیں ہے جس پر اس بات کا مدار ہو سکے۔ امام مجاہد کا قول لفظ اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتا اگرچہ دوسرے بعض محدثین نے اس کی تائید کی ہو۔

ابوبکر بن ابی الدیانی نے اپنی سند کے ساتھ علی بن الحسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب یوم حشر ہوگا زمین چڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ (بھیڑ کی وجہ سے) کسی انسان کے لیے پاؤں رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی۔ فرمایا: پھر پہلے مجھے بلایا جائے گا، جبرئیل رحمن کے حضور میں دائیں طرف ہوں گے۔ اللہ کی قسم جبرئیل نے اس سے پہلے رحمن عزوجل کو نہ دیکھا ہوگا۔ پھر میں عرض کروں گا: یارب! انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ ان کو آپ نے میرے پاس قاصد بنا کر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے سچ کہا تھا۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا یارب! تیرے بندے زمین کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں (اور حساب لئے جانے کے منتظر ہیں)“^①

فیصلہ کے وقت اللہ عزوجل کا اہل علم سے کلام فرمانا اور اہل علم کا اکرام

طبرانی میں ثعلبہ بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کے لیے کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے علماء سے فرمائیں گے: میں نے اپنا علم و حکم تم کو اس لیے عطا کیا تھا تاکہ میں تمہاری بخشش کروں اور مجھے کوئی پروا نہیں ہے۔“^②

اللہ عزوجل کا مؤمنین سے پہلا کلام

ابوداؤد میں معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کو فرمایا: ”اگر تم کہو تو میں تم کو وہ پہلی بات بتاؤں جو اللہ عزوجل مؤمنین سے فرمائیں گے اور جو مؤمنین اللہ عزوجل کی جناب میں عرض کریں گے،“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا بالکل یارسول اللہ! تب آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ مؤمنین کو فرمائیں گے کیا تم مجھ سے ملاقات پر راضی ہو؟ مؤمنین عرض کریں گے جی ہاں پروردگار! پروردگار فرمائیں گے کس چیز نے تم میں اس کی ہمت پیدا کی؟ وہ عرض کریں گے آپ کے عفو و درگزر اور آپ کی رحمت و خوشنودی نے۔ پروردگار فرمائیں گے پس آج میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت واجب کر دی۔“^③

① اس روایت کو امام ابن حجر نے المطالب العالیہ رقم الحدیث ۳۶۲۹ پر ذکر فرمایا ہے۔ کنز العمال ۳۹۰۹۳۔

② الکبیر للطبری الحدیث ۱۳۸/۲۔ ③ ابوداؤد الحدیث ۵۶۳۔

فصل

جس نے اللہ کی امانت اور عہد میں خیانت کی اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں
فرمان باری ہے:

”جو لوگ خدا کے عہد و پیمان اور قسموں (کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان) کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخر میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے خدا نہ کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا“۔ (سورۃ آل عمران الآیہ: 88)

اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے:

”جو لوگ (خدا کی) کتاب سے ان (آیتوں اور ہدایتوں) کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی منفعت) حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا۔ یہ آتش (جہنم) کو کیسے برداشت کرنے والے ہیں! یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں (آ کر نیکی سے) دور (ہو گئے) ہیں۔ (سورۃ البقرہ الآیات: 174، 176)

یعنی اللہ عزوجل بات کرنے کی طرف متوجہ ہوگا اور نہ ہی ان پر نظر رحمت فرمائے گا بلکہ وہ اس دن پروردگار سے حجاب میں ہوں گے۔ بات کرنے کا تو بے رخی سے اور حجاب میں کرے گا جیسے فرمان اسمہ ہے:

”بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار (کے دیدار) سے اوٹ میں ہوں گے“۔ (سورۃ لطفین الآیہ: 15)

جن وانس سے کلام کے بارے میں فرمان باری ہے:

”اور جس دن وہ سب (جن وانس) کو جمع کرے گا (اور فرمائے گا کہ) اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت (فائدے) حاصل کئے تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار! ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا فرمائے گا (اب) تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ اس میں (جلتے) رہو گے مگر جو خدا چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار رازدار اور ناخبردار ہے۔ (سورۃ الانعام الآیہ: 128)

اور فرمان خداوندی ہے:

”یہی فیصلہ کاوا ہے (جس میں) ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی مکر ہے تو مجھ سے کھیلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے“۔ (سورۃ الرسالت الآیات: 38-40)

اور فرمان خداوندی ہے:

”جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (اسی طرح) خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام نکل جائے گا۔ دیکھو! یہ جھوٹے (اور برسرِ غلط) ہیں۔“

(سورۃ الجہاد: آیت ۱۵)

اور فرمان خداوندی ہے:

”اور جس روز (خدا) ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ (تو) جن لوگوں پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے پروردگار! یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا (اب) ہم تیری طرف (متوجہ ہو کر) ان سے بیزار ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے امد کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور (جب) عذاب کو دیکھ لیں گے (تو تمنا کریں گے کہ) کاش وہ ہدایت یاب ہوتے اور جس روز (خدا) ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ بچھ نہ کر سکیں گے۔“ (سورۃ القصص: آیات 62، 66)

پھر آگے فرمایا:

”اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ حق بات خدا کی ہے اور جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔“ (سورۃ القصص: آیات 74، 75)

اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام فرمائے گا بہت سی آیات ہیں۔ صحیحین میں عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک سے پروردگار اس حال میں کلام فرمائے گا کہ اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ پس پروردگار ایک شخص سے ملاقات فرمائے گا اور (اپنے احسانات شمار کراتے ہوئے) اس کو کہے گا کیا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی؟ کیا تیری شادی نہیں کرائی؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ کو مسخر نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے نہیں چھوڑ رکھا تھا کہ تو سردار بنا خوشحالی سے پھرتا رہا؟ وہ عرض کرے گا: بے شک پھر پروردگار فرمائے گا: کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پس پروردگار فرمائے گا جا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا جیسے تو نے مجھ کو بھلا دیا تھا۔“^①

مذکورہ بالا کلام سے صراحتاً معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کافر بندوں سے بھی کلام فرمائیں گے۔

گناہ گار مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ

صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کو اس قدر اپنے قریب کر لیں گے کہ حتیٰ کہ اس پر چھان جائیں گے۔ پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ پروردگار اس کے گناہوں کو یاد دلائیں

① بخاری کتاب الرقاق الحدیث ۶۵۳۹، مسلم کتاب الزکاة الحدیث ۲۳۲۵۔

گے کہ فلاں دن میں تو نے یہ کیا، فلاں دن یہ کیا۔ بندہ اقرار کرے گا اور کہے گا ہاں پروردگار! حقیقی کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”دیکھ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اپس جا آج بھی میں نے تجھے بخش دیا۔“^۱

فصل

جنت و جہنم کا ظاہر ہونا، میزان عدل قائم ہونا اور حساب کتاب کا شروع ہونا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور جب دوزخ (کی آگ) بھڑکائی جائے گی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔“ (سورۃ التکویر ۱۲-۱۴)

دوسری جگہ فرمایا:

”اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھگتی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے؟ اور بہشت پر بیہزاروں کے قریب کر دی جائے گی (کہ مطلق) دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (یعنی) ہر رجوع کرنے والے حفاظت کرنے والے سے جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی (بہت کچھ) ہے۔“ (سورۃ نآیات: ۳۰-۳۵)

ایک اور جگہ فرمایا:

”اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔“ (سورۃ الانبیاء: ۴۷)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

”خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر نیکی (کی) ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں اجر عظیم بخشے گا بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا (حال بتانے کو) بطور گواہ طلب کریں گے اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔“ (سورۃ النساء: ۴۰-۴۲)

اسی طرح ایک جگہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا:

”لقمان نے یہ بھی کہا کہ) بیٹا! اگر کوئی عمل (بالفرض) رائی کے دانے برابر بھی (چھوٹا) ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں (مخفی ہو) یا زمین میں خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین (اور) خبر دار ہے۔“ (سورۃ لقمان: ۱۶)

۱ بخاری الحدیث ۲۳۳۱، مسلم الحدیث ۶۹۳۶، ابن ماجہ ۱۸۳۔

جزا، سزا کے بارے میں بہت سے آثار ہیں۔ واللہ الموفق للصواب۔

میدان محشر میں جہنم کا لایا جانا اور لوگوں پر ظاہر ہونا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر (اب) امتباہ (سے) اسے (ماندہ) کہاں (مل

سکے گا)؟ (سورۃ الفجر الآیہ 23)

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہنم کو لایا جائے گا اور اس دن جہنم کو ستر ہزار باگ ڈور ہوں گی ہر باگ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لارہے ہوں گے“^①۔
اس روایت کو امام ترمذیؒ نے مرفوعاً اور امام ابن ماجہ نے موقوفاً روایت کیا ہے۔

جہنم سے ایک گردن کا نکلنا اور اس کا کلام کرنا اور سرکش، مشرکین اور ناحق جان لیوا قاتلین کو جہنم رسید کرنا:

مسند احمد میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو باتیں کرتی ہوگی وہ کہے گی مجھے تین آدمیوں پر مقرر کیا گیا ہے سرکش، متکبر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا اور ناحق کسی کو قتل کرنے والا۔ پس وہ گردن ان کی طرف بڑھے گی اور ان کو اٹھا اٹھا کر جہنم کی تاریکیوں میں پھینک دے گی“^②۔
فرمان الہی ہے:

”جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو (غضب ناک ہو رہی ہوگی اور یہ) اس کے جوش (غضب) اور اس کے چیخنے

چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں (زنجیروں میں) جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں

گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو“۔ (سورۃ الفرقان الآیات: 12-14)

امام شعبیؒ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور اس کے چیخنے چلانے کو سنیں گے اس کا چیخنا چلانا مشرکین کے لیے ہوگا وہ ان پر انتہائی خوفناک طرح سے غضبناک ہو رہی ہوگی۔
العیاذ باللہ۔ حدیث میں ہے: ”جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا یا اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کی یا غیر آقاؤں کی طرف نسبت کی، پس وہ جہنم میں دور..... کہیں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔“

کیا جہنم کی آنکھیں ہوں گی:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جہنم کی آنکھیں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: کیا تم نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا:

① مسلم حدیث ۲۰۹۳ ترمذی الحدیث ۲۵۷۳۔

② ترمذی الحدیث ۲۵۷۳ مسند احمد ۳/۴۰۔

”جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو (غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ) اس کے جوش (غضب) اور اس کے چیخنے کو نہیں سمجھے“^①

ابن ابی قاسم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ نے فرمایا: ایک شخص کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو جہنم اس سے سسٹے گی اور بند ہونے لگے گی۔ جس عزوجل جہنم سے مخاطب ہو کر فرما میں گے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جہنم عرض کرے گی وہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تب پروردگار فرمائیں گے میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک شخص کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جا رہا ہو گا وہ کہے گا: یا رب میرا تو تیرے ساتھ ایسا گمان نہ تھا (کہ تو مجھے جہنم میں دھکیل دے گا) پروردگار فرمائیں گے: تیرا کیا گمان تھا؟ وہ عرض کرے گا میرا تو یہ گمان تھا کہ تیری رحمت مجھ پر حاوی ہو جائے گی۔ پروردگار فرمائیں گے میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک شخص کو جہنم کی طرف لایا جا رہا ہو گا جہنم اس کی طرف یوں پکارے گی جیسے خچر اونٹنی کو دیکھ کر نہناتا ہے (یعنی اس کی طرف تیزی سے چبھتی ہوئی لپکے گی) اور جہنم کی آگ یوں سانس لے گی گویا کسی کو اچکے بغیر نہیں چھوڑے گی۔^② اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ جہنم کی آگ خوفناک چنگھاڑ سے بھر پور یوں سانس لے گی کہ کوئی فرشتہ یا نبی بھی ایسا نہ بچے گا جو گرنہ جائے اور اس کا جسم کپکپا رہا ہو گا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام (جیسا جلیل القدر پیغمبر) گھٹنوں کے بل اٹھ کر فریاد کرے گا: یا رب! آج کے دن میں تجھ سے اپنی جان کی سلامتی کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ صور پھونکنے جانے والی حدیث میں آپ ﷺ کا فرمان ہے: پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم فرمائیں گے تو اس سے ایک انتہائی سیاہ اور دراز گردن ظاہر ہوگی (جو مشرکین، جبارین وغیرہ کی طرف لپکے گی اور) پھر پروردگار فرمائے گا:

”اے آدم کی اولاد! ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہیں پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی (سو) جو تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ (سورۃ یسین، الآیات: 60-64)

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خلائق پر گزر فرمائیں گے اور تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی یہ مطلب ذیل کے اس فرمان باری کا:

”اور تم ہر ایک امت کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی (اور) ہر ایک جماعت اپنی کتاب (اعمال) کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے، ہم لکھواتے جاتے تھے“۔ (سورۃ الجاثیہ، الآیات: 28/29)^③

میزان عدل کا قائم ہونا

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

① تفسیر سورۃ طبری سورۃ الفرقان الآیہ ۱۳ الحدیث ۱۰/۱۸۷۔ ② تفسیر طبری سورۃ الفرقان الآیہ ۱۲ الحدیث ۱۰/۱۸۷۔ ③ علامہ بیہقی نے اس حدیث کو البعث والنشور میں تخریج فرمایا ہے الحدیث ۶۶۹۔

”اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کس کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو راز وجود کریں گے اور ہم سب کو کافریں (اور انہیں نیا دنیا دہ) دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

”تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو خسارے میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔“ (سورۃ المؤمنون آیتان: 102-103)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان:

”اور اس روز (اعمال کا) تلسا برحق ہے تو جن لوگوں کے (عملوں کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔“ (سورۃ الاعراف آیتان: 8، 9)

سورۃ القارعہ میں فرمایا:

”تو جس کے (اعمال کے) وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ (وہ) دہکتی ہوئی آگ ہے۔“ (سورۃ القارعہ آیتان: 6-11)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”کہہ دو ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا۔ پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔“

(سورۃ الکہف آیتان: 103-105)

حساب اور فیصلے کے بعد اعمال کا وزن

ابو عبد اللہ قرطبی فرماتے ہیں: علماء نے کہا ہے کہ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا کیونکہ وزن بدلے دینے کے لیے ہوگا لہذا مناسب ہے کہ حساب کتاب کے بعد ہوا اس لیے کہ حساب کتاب اعمال کی جنس کے لیے ہوگا آیا نیک عمل ہیں یا بد۔ جب یہ حساب نمٹ جائے گا کہ نیک ہیں یا بد تب ان کا وزن ہوگا کہ ان کی مقدار کیا ہے؟

یہ جو فرمان الہی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی میزائیں قائم کریں گے۔^① میزان کی جمع استعمال کی گئی، ممکن ہے کہ قیامت کے روز کئی میزائیں قائم کی جائیں جن میں اعمال کا وزن کیا جائے۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ میزان کی بجائے موزون مراد ہو یعنی ترازوں کی بجائے تلنے والی اشیاء مراد ہوں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

① الانبیاء آیت ۲۷۔

میزان کے دو مجسم پلڑے ہونے کا بیان

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پر کوئی شیء بھاری نہیں ہو سکتی۔

مسند احمد میں عبد اللہ بن عمرو سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک فرد کو بلائیں گے اور اس کے سامنے (اس کے گناہوں کے) نانوے دفتر پھیلا دیئے جائیں گے ہر دفتر حدنگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کہ میرے نگہبان فرشتوں نے یونہی لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا: ”نہیں پروردگار! پروردگار فرمائیں کیا تیرے پاس کوئی عذر یا نیکی ہے؟ بندہ خوفزدہ ہو جائے گا اور کہے گا نہیں اے پروردگار! پروردگار فرمائیں گے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے آج تجھ پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں مکتوب: ”اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبده ورسوله“ پروردگار فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو بتا دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا: ”یارب! یہ کاغذ کا ایک پرزہ اتنے سارے گناہوں کے دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گا؟ پروردگار فرمائیں گے آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر وہ دفاتر میزان کے ایک پلہ میں اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلہ میں رکھ دیا جائے گا۔ اس کلمہ کے وزن سے دفاتر کا پلہ ہوا میں اڑنے لگے گا۔ یقیناً ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پر کوئی شیء بھاری نہیں ہو سکتی۔^① ترمذی، ابن ماجہ اور ابن ابی الدنیا نے لیث کی حدیث سے اس کو روایت کیا ہے۔

کیا قیامت کے دن عمل کے ساتھ عامل کا وزن بھی کیا جائے گا

مسند احمد میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن میزانیں قائم کی جائیں گی پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا اور ایک پلہ میں رکھ دیا جائے گا اور اس کے اعمال دوسرے پلہ میں رکھ دیئے جائیں گے۔ آدمی والا پلہ جھک جائے گا تو اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے گا تو رحمن عزوجل کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا جلدی مت کرو اس کا کچھ عمل باقی رہ گیا ہے۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ لایا جائے گا جس میں مکتوب ہوگا: ”لا الہ الا اللہ“ اس کو آدمی کے ساتھ دوسرے پلہ میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ اس پرزہ والا حصہ بھاری ہو جائے گا“۔^② لیکن اس روایت میں غرابت و اجنبیت ہے لیکن ایک فائدہ کا علم ہے کہ آدمی کو بھی اس کے عمل کے ساتھ تولا جائے گا۔

قیامت کے دن ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ کی شہادت میزان میں گناہوں پر بھاری

ہو جائے گی:

ابن ابی الدنیا میں عبد اللہ بن عمرو سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو میزان کی طرف لایا جائے گا اس کے

① ترمذی الحدیث ۲۶۳۹۔ ابن ماجہ الحدیث ۳۳۰۰۔ مسند احمد الحدیث ۲۲۱/۲۔ مسند احمد الحدیث ۲۲۱/۲۔

ننانوے رجسٹر نکالے جائیں گے، ہر ایک حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ ان میں سے اس کے گناہ ہوں گے۔ وہ ایک پلہ میں رکھ دیئے جائیں گے۔ پھر انگلی کے پورے تانکا تانکا ایک ٹونکا لایا جائے گا جس میں کتاب ہوگا "انسیدان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله" وہ دوسرے پلہ میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ پرزہ ان سب رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔^① ابو بکر بن ابی الدینا سنداً کہتے ہیں، ابن عبد اللہ بن سبابا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ: قیامت کے دن میزان میں اس کے اعمال بھاری ہوں گے جو دنیا میں حق کی اتباع کے ساتھ اپنے اعمال (کاپلہ) بھاری کرتا رہے اور وہ اعمال کرنے والے سے بھاری ہو جائیں۔ میزان کو لازم ہے کہ جب حق اس میں رکھا جائے تو وہ جھک جائے۔ اسی طرح قیامت کو میزان میں اس کے عمل ہلکے ہوں گے جو دنیا میں باطل کی اتباع کے ساتھ اپنے اعمال ہلکے کرتا رہا اور وہ باطل کے سامنے ہلکا ہو گیا اور میزان کو لازم ہے کہ جب کل قیامت کے دن باطل اس میں رکھا جائے تو وہ ہلکا ہو جائے۔

قیامت کے دن بندے کے اعمال میں حسن اخلاق سب سے بھاری شئی ہوگی

مسند احمد میں ابوالدرداء سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے بھاری شئی حسن اخلاق ہوگی"۔^② اس بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ اعمال کا بڑا بڑا وزن ہوگا جیسے صحیح مسلم میں آیا ہے ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "طہارت نصف ایمان ہے۔ الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ آسمان وزمین کے درمیان خلاء کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے۔ صدقہ برہان ہے۔ صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان صبح کرتا ہے اور اپنی جان کو بیچ دیتا ہے یا تو اس کو (جہنم سے) آزاد کر لیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے"۔^③

الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل بذات خود ایک جسمانی حیثیت سے قائم ہوگا۔ ورنہ تو عمل کے لیے عامل کا سہارا ضروری ہے لہذا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل کو جسم عطا کر دیں گے جو میزان میں رکھا جائے گا۔ ابن ابی الدینا میں مذکور روایت بھی اس پر دلیل ہے کہ ابوالدرداء سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "سب سے وزنی شئی جو میزان میں رکھی جائے گی وہ عمدہ اخلاق ہیں"۔^④ اسی طرح امام احمد نے الفاظ کی معمولی ترمیم کے ساتھ مزید کئی طرق سے اس کو نقل کیا ہے۔

مسند احمد میں ہی ابی سلام حضور ﷺ کے کسی آزاد کردہ غلام کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "واہ! واہ! میزان میں پانچ چیزیں کس قدر وزنی ہیں "لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ اور نیک بچہ جس کی وفات ہو جائے تو اس کا والد خدا سے ثواب کی امید رکھے (اور صبر کرے)۔ اور فرمایا: پانچ چیزوں کا کیا ہی کہنا! جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ان پانچ چیزوں پر

① التذکرہ ملق طبری ۲/۳۷۵۔ ② ترمذی الحدیث ۲۰۰۲ ابوداؤد کتاب الادب الحدیث ۹۹ مسند احمد الحدیث ۶/۲۳۲ والحدیث ۶/۳۳۶۔

③ مسلم کتاب الطہارۃ الحدیث ۵۳۳ ترمذی الحدیث ۳۵۱۷ مسند احمد ۵/۳۳۲۔

④ مسند احمد الحدیث ۶/۳۳۲۔ ابوداؤد الحدیث ۹۹۔ ترمذی الحدیث ۲۰۰۲۔

یقین کامل رکھتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ پر ایمان رکھے۔ یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ جنت پر ایمان رکھے۔ جہنم پر ایمان رکھے اور دوزخ کے بعد اٹھائے جائے اور حساب کتاب پر ایمان رکھے۔^① امام احمد اس روایت میں منظر ہیں۔ اس طرح دوسری روایت ب حسن سے پتا چلتا ہے کہ اعمال محسم ہو جائیں گے: سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے روز سائبان کی طرح آئیں گی اور ان کے دو پر ہوں گے جس سے وہ اپنے پر ہنے والوں کا دفاع کر رہی ہوں گی۔^② یعنی وہ ان سورتوں کی ستاروں کا ثواب قیامت کے روز مجسم شکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مکتوب کاغذ میزان میں رکھا جائے۔ جیسے مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا اور یہ بھی آیا ہے کہ عامل کا وزن کیا جائے گا جیسے بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن انتہائی فریہ جسم شخص کو پیش کیا جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ پھر فرمایا: اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو جس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

”اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔“ (سورۃ الکہف الآیہ: 105)

بخاری و مسلم میں دوسری روایتوں سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ ابن ابی حاتم نے مذکورہ روایت اپنی سند کے ساتھ کچھ مختلف الفاظ میں یوں نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک بہت کھانے پینے والے شخص کو لایا جائے گا اور ایک رائی کے دانے کے ساتھ اس کو ہم وزن کیا جائے گا مگر وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس روایت کو بخاری کے الفاظ میں ابن جریر نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ مسند الہزار میں حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم ﷺ کے پاس حاضر تھے کہ ایک قریشی ایک جوڑے میں اکڑتا ہوا آیا۔ جب وہ رسول اکرم ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں یہ ارشاد ہے:

”اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔“ (سورۃ الکہف الآیہ: 105)^③

مسند احمد میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ میری ٹانگیں نازک سی تھیں تیز ہوا چلی تو میں ڈگمگا گیا اس پر حاضرین قوم ہنس دیئے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا تم کیوں ہنستے؟ وہ بولے یا رسول اللہ! اس کی کمزور ٹانگوں کی وجہ سے ہم کو ہنسی آ گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قسم اس ذات کی جس کے دست تصرف میں میری جان ہے! میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔“^④ امام احمد کی روایت میں منفرد ہیں لیکن پھر بھی اس کی سند جدید اور قوی ہے۔

جامع روایت:

اس طرح بہت سی روایات اس بارے میں آئی ہیں۔ مسند احمد کی کاغذ کے پرزے والی روایت میں وارد ہے کہ کاغذ کا عامل اس کے ساتھ وازن کیا جائے گا۔ اس روایت کے ساتھ سب روایتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے حسن سے مروی ہے کہ

① مسند احمد الحدیث ۳/۲۳۷۔ مجمع الزوائد للبیہقی الحدیث ۱۰/۳۹۔ ② مسلم الحدیث ۱۸۷۱۔ مسند احمد الحدیث ۳/۱۸۳ الحدیث ۵/۲۳۹۔ مسند الدارمی الحدیث

۲/۳۵۰۔ بخاری الحدیث ۲۹/۲۶۹۷۔ مسند احمد ۵/۱۵۳ الحدیث ۵/۱۷۷۔ ④ تفسیر الطبری سورۃ الکہف الآیہ ۱۰۳ الحدیث ۹/۳۵۔

⑤ مسند الہزار الحدیث ۲۹۵۶۔ ⑥ مسند احمد الحدیث ۱۱۳۳/۱۳۲۱۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل کو یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”(برجگ یاد رکھوں گا) لیکن تین جگہوں میں نہیں، کتاب میں ان اور بل صراط“^① کتاب کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ جب (مجموعی) کتاب الاعمال تمام امتوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جب لوگوں کے اعمال نامے اڑاؤ کران کے پاس پہنچیں گے نیک بخت اپنا نامل نامہ دائیں ہاتھ میں لے رہا ہوگا اور لوئی سیاہ بخت بائیں ہاتھ میں وہ وقت مراد ہے۔

یہی تہی میں حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا اے عائشہ! کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا مجھے اہل جہنم کا ذکر یاد آیا تو رونا آ گیا، کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ فرمایا: لیکن تین جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ایک تو جب میزان رکھی جائے گی اور جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کا عمل بھاری ہے یا ہلکا۔ دوسرا جب وہ کہے گا: آؤ اپنا نامہ (اعمال) پڑھو^② اس وقت اعمال نامے اڑے پھریں گے اس وقت کوئی بات چیت نہ کرے گا جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے اور تیسرا جب بل صراط کو جہنم پر رکھ دیا جائے گا۔^③ اس روایت کے راوی یونس کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ حضرت حسن نے مزید یہ بھی کہا تھا: جہنم کے آنکڑے اچک رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جس کو چاہے روک رہا ہوگا تو اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا حتیٰ کہ وہ جان لے نجات پا گیا ہوں یا نہیں۔

اس کے بعد امام بیہقی نے ایک اور سند سے دوسری روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جہنم کا ذکر یاد آیا تو آپ رو پڑیں۔ آگے وہی حدیث ذکر کی ہے صرف اس فرق کے ساتھ کتاب کے وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جس وقت کہا جائے گا: آؤ اپنا نامہ اعمال پڑھو اس وقت تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے اور بل صراط کے وقت جب جہنم پر اس کو بچھایا جائے گا۔

عائشہ بنت ابی الصدیق رضی اللہ عنہا سے روایت کا دوسرا طریق

مسند احمد میں دوسرے طریق سے مذکور ہے قائم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن دوست اپنے دوست کو یاد رکھے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! لیکن تین موقعوں پر (کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا) میزان کے وقت جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ بھاری ہے یا ہلکا؟ دوسرا صحیفوں کے اڑنے کے وقت جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے یہ صحیفہ عمل اس کا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں؟ تیسرا اس وقت جب جہنم سے گردن نکلے گی وہ لوگوں پر چھایا جائے گی۔ غیظ و غضب کے مارے ان پر چنگاڑے گی اور کہے گی: مجھے تین آدمیوں پر مامور کیا گیا ہے ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، دوسرا وہ جو ایمان نہیں لایا اور تیسرا ہر جا برو سرکش۔ پھر وہ ان میں قسم کے افراد کو اچک اچک کر جہنم کے اندھروں میں پھینک دے گی۔ اس دن جہنم پر بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ایک پل ہوگا اس پر نوک دار کھینچنے والے آنکڑے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اس کو کھینچ کھینچ کر جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوں گے۔ کوئی اس پل سے پلک جھکنے کی مانند گزر جائے گا“

① مسند احمد الحدیث ۶/۴۱۰۔ ② (سورۃ الحاقۃ آیت ۱۹) ③ ابوداؤد الحدیث ۴۷۵۵۔ مسند احمد الحدیث ۶/۲۱۹۔

فلاں بن فلاں بد بخت ہو گیا اب کبھی وہ فلاں نہیں پاسکے گا۔ یہ جنتی میں ہے ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے عرض کیا یا محمد (رسول اللہ) ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اس کے ملائکہ پاس کی کتابوں پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ جنت جنم میزان اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ جب تو نے یہ کر لیا تو بس مؤمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں (میں بھی ایمان لایا) یا کیا آپ نے سچ فرمایا۔^①

حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے کہ میزان عمل لے پاس لوگوں کا ازدام اور رش ہوگا۔ ابن ابی الدنیا میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میزان رکھی جائے گی۔ اس کے دو پلے ہوں گے اگر ایک پلہ میں آسمان د زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء رکھ دی جائیں تو وہ سب پلہ میں سا جائیں گی۔ ملائکہ عرض کریں گے یا رب! اس میں کس کا عمل تولا جائے گا؟ پروردگار فرمائے گا: اپنی مخلوق میں سے جس کا میں چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے پروردگار! ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔

ابن ابی الدنیا میں حماد بن ابراہیم آیت ذیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے“ (سورۃ الانبیاء الآیہ 47) کہ ایک آدمی کا عمل لایا جائے گا اور ترازو کے پلہ میں رکھ دیا جائے گا پھر بادل کی مثل کوئی شیء لائی جائے گی وہ دوسرے پلہ میں رکھ دی جائے گی بادل والا پلہ جھک جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا جانتا ہے یہ کیا شیء ہے؟ یہ وہ علم ہے جو تو نے پڑھا اور آگے پڑھایا انہوں نے پڑھ کر تیرے بعد اس پر عمل کیا۔ ابن ابی الدنیا میں سعید بن جبیر سے مروی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں: قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا جس کی نیکیاں بدیوں سے ایک نیکی میں بھی زیادہ ہوئیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس کی بدیاں نیکیوں سے ایک بدی بھی زیادہ ہوئیں وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”تو جن کے (عملوں کے) بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں

جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے“۔ (سورۃ المؤمنون الآیات 102-103)

پھر آپ نے فرمایا: میزان عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ظاہر کر دے گی یا تو اس سے اٹھ جائے گی یا جھک جائے گی۔ ابن ابی الدنیا میں حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم سے تین عذر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: اے آدم! اگر میں جھٹلانے والوں پر لعنت کرتا اور جھوٹ اور حلف سے بغض نہ رکھتا تو آج مجھے تیری ذریت پر شدت عذاب سے رحم آجاتا۔ (لیکن چونکہ مجھے ان چیزوں سے بغض ہے) اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ جس نے میرے رسولوں کو جھٹلایا اور میری نافرمانی کی میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم جان لے! میں تیری اولاد میں سے کسی کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا اور نہ کسی کو جہنم میں داخل کروں گا سوائے اس کے جس کے متعلق میرے علم میں یہ بات آچکی ہے کہ اگر میں اس کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دوں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شرکی طرف بڑھے گا۔ اے آدم! آج تو میرے اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنے والا ہے پس جا! میزان کے پاس کھڑا ہو جا! دیکھ ان کے اعمال میں کیا چیز وزنی ہے؟ اگر کسی کی بھلائی اس کی بدی سے بھی زیادہ ہے تو اس کے لیے جنت ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں ظالم کے سوا کسی کو عذاب نہیں دوں گا۔

① مسند احمد الحدیث ۱۱۴/۳ شعب اللیبھی الحدیث ۸۱۸۰۶۱۸۰۲۷۔

ابن ابی الدنیا میں ابوامامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کا ایک انبؤ کھڑا ہوگا جو اکثریت تعداد کی وجہ سے انفق کو بھردے گا۔ ان کا نوا آفتاب کی طرح ہوگا۔ اس کے ساتھ آواز دینے والے گے۔ یہ بنی اہلبے۔ یہ بن کر ہرنبی متحس ہو جائے گا تب کہا جائے یعنی محمد اور اس کی امت کا گروہ ہے۔ پھر دوسرا ایک جھٹھ کھڑا ہوگا جو (کثرت تعداد کی وجہ سے) انفق کو بھردے گا ان کا نور چودھویں کے ماہتاب کی طرح ہوگا۔ اس کے ساتھ آواز دی جائے گی یہ بنی امی کا ہے۔ یہ بن کر ہرنبی متحس ہو جائے گا تب کہا جائے گا یعنی محمد اور اس کی امت کا گروہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے: اے محمد! یہ میری طرف سے تیرے لیے (ہدیہ) ہے۔ یہ میری طرف سے تیرے لیے (ہدیہ) ہے۔ پھر میزان رکھی جائے گی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔“

فصل:

میزان کے متعلق علماء کے اقوال

امام قرطبیؒ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ میزان کے عظیم پلڑے ہیں۔ اگر کسی ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیئے جائیں تو وہ پلڑا دونوں کو کافی ہو جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا تو نور ہے اور دوسرا ظلمت ہے۔ یہ ترازو اللہ کے عرش کے سامنے نصب ہے۔ عرش کے دائیں طرف جنت ہے۔ نور کا پلڑا اس کی طرف ہے۔ عرش کے بائیں طرف جہنم ہے اور ظلمت کا پلڑا اس کی طرف ہے۔

معتزلہ نے میزان کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں احتمال عرض ہیں جن کا کوئی جسم نہیں تو ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت ابن عباسؓ نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعراض کو اجسام عطا فرمائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ اعمال کے رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا لیکن مصنف علامہ ابن سیر نے فرماتے ہیں: پہلے تصریح کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اعمال کو جسم مل کر وزن ہو سکتا ہے اسی طرح ان کے رجسٹروں کا وزن ہو سکتا ہے اور بذات خود عامل کا وزن کیا جانا بھی ممکن ہے۔ قرطبیؒ فرماتے ہیں مجاہدؒ ضحاک اور اعمش سے مروی ہے کہ میزان سے مراد عدل اور فیصلہ ہے اور وزن کا ذکر مثلاً کیا گیا ہے جیسے کہا جاتا ہے یہ بات اس وزن کی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ان علماء نے یہ تفسیر ذیل کی آیت کی وجہ سے کی ہو:

”اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔“ (سورۃ الرحمن: آیات ۷-۹)

ووضع المیزان سے مراد عدل ہے۔ اللہ نے بندوں کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ احادیث اور قرآن میں میزان کا ذکر شریعی محسوس کے لیے آیا جیسے فرمایا: ”فمن نقلت موازينه ومن خلقت موازينه“

میزان ہر شخص کے لیے قائم نہیں ہوگی

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں: میزان برحق ہے، لیکن ہر ایک کے حق میں نہیں ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ کا فرمان دلیل ہے: ”گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لئے جائیں گے تو پوشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لئے جائیں گے۔“

(سورۃ الرحمن: آیت ۴۱)

اسی طرح آپ ﷺ کا فرمان ہے: پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے محمد! اپنی امت میں سے جس پر حساب کتاب نہیں ہے اس کو جنت میں دائیں دروازے سے داخل کرے اور وہ باقی امور میں لوگوں کے شریک کار ہوں گے۔ مصنف فرماتے ہیں: ستر ہزار اشخاص کے بارے میں احادیث و اقوال کے ماتحت ثابت ہیں کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا اس میں کلام ہے کیونکہ اعمال نیکو کاروں کے بھی وزن کئے جائیں گے محض اس لیے کہ حاضرین محشر پر ان کی عظمت ظاہر ہو۔ اسی طرح کفار خواہ ان کے پاس کوئی سود مند نیکی نہ ہو تب بھی ان کے اعمال کا وزن ہوگا تاکہ ان کے کفر و بدبختی کا اندازہ کیا جاسکے اور حاضرین محشر پر ان کی شقاوت ظاہر ہو سکے۔

کیا آخرت میں کافر سے عذاب کی تخفیف ہوگی:

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک نیکی کا ظلم بھی نہیں فرماتے یعنی اگر کسی کافر سے کوئی نیکی سرزد ہو تو اس کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمادیتے ہیں اس طرح کہ دنیا میں اس کو عیش و عشرت سے نواز دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی لیکن التذکرۃ میں امام قرطبی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کافر کوئی صدقہ کرے یا صلہ رحمی وغیرہ نیکی کا کام کرے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ انہوں نے جناب ابی طالب کے قصہ سے اس پر دلیل لی ہے کہ ان کی نیکی اور حضور کی مدد کے صلہ میں ان پر عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور آگ کے صرف جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔

حضرت مصنف فرماتے ہیں ممکن ہے یہ خصوصیت صرف حضرت ابی طالب کے ساتھ کیونکہ انہوں نے حضور ﷺ کی بے انتہاء مدد و نصرت فرمائی تھی۔ امام قرطبی اپنی رائے پر اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں:

”اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے

کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو لا موجد کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں“۔ (سورۃ الانبیاء: ۴۷)

مصنف فرماتے ہیں یہ آیت عموم پر دلیل ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور کافرین پر بھی ظلم نہیں ہوگا اور ان کو ہم پہلے ہی دنیا میں ان کی نیکی کا بدلہ دے چکے ہوں گے لہذا کافروں کو اس آیت کے عموم سے خاص کر لیا جائے گا۔ اسی طرح آپ سے سوال کیا گیا کہ عبد اللہ بن جدعان مہمان نوازی کرتا تھا، صلہ رحمی سے پیش آتا تھا اور غلاموں کو آزاد کرتا تھا تو کیا یہ باتیں اس کے لیے سود مند ثابت ہوں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں! کیونکہ کبھی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اور جو انہوں نے عمل کئے ہوں گے ہم ان کی رطرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے“۔

(سورۃ الفرقان: ۲۳)

اسی طرح فرمایا:

”یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے گا تو اسے کچھ بھی نہ پائے گا اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے گا تو وہ اسے اس کا حساب

پورا پورا چکا دے اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے“۔ (سورۃ النور: ۳۹)

اور فرمایا:

”اور جس لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال (کی مثال ایسی ہے) جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا سے پانی سمجھے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور ندا جلاہل یاب کرنے والا ہے۔“ (سورۃ النور: ۳۹)

مترجم اصغر عرض کرتا ہے ناقص رائے میں مصنف ابن اثیر کی بات زیادہ قوی ہے کیونکہ انشاءً لخصوص اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

فصل

امام قرطبی فرماتے ہیں: جس کی نیکیاں برائیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ ہوئیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ ہوئیں وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا الا یہ کہ اللہ عزوجل اس کی بخشش فرمادیں اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں وہ اعراف میں داخل ہوگا۔ اس روایت کے مثل حضرت ابن مسعود سے بھی ایک روایت مروی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت بھی اس کی شاہد ہے:

”خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر نیکی (کی) ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔“ (سورۃ النساء: ۴۰)

لیکن اگر کسی کی نیکی اس کی برائیوں سے ایک نیکی میں زیادہ ہوئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو کیا اس کی تمام نیکیاں اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنیں گی یا نہیں اس کی برائیاں کا لہدم ہو جائیں گی یا نہیں اس کا کوئی علم نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، صحائف اعمال کا اڑنا اور اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب لینا:

فرمان الہی ہے:

”اور جس دن ہم پہاڑوں کو بلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان (لوگوں) کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے (تو ہم ان سے کہیں گے کہ) جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح آج) تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا ہم نے تمہارے لیے (قیامت کا) کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اور (عملوں کی) کتاب (کھول کر) رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو (کوئی بات نہیں) مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔“ (سورۃ الکہف: آیات 47-49)

ایک جگہ فرمایا:

”کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے (سب) ایک روز مقرر کئے وقت پر جمع کئے جائیں گے۔“ (سورۃ الواقعة: آیات 49-50)

اور فرمایا:

”اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک جائے گی۔ اور (اعمال کی) کتاب (سُھول کر) رکھی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کے بائیں گے اور ان میں انسان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انسانی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے جو عمل کیا ہو گا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔“ (سورۃ الزمر الآیات 69-70)

اور فرمان الہی ہے:

”اور جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی تم آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے اور جو (مال و متاع) ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے (شفیع اور ہمارے) شریک ہیں (آج) تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔“ (سورۃ الانعام الآیہ: 94)

اور فرمان الہی ہے:

”اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک (ان سے) کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے اور ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے۔ ہم تمہاری پرشش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص (اپنے اعمال کی) جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔“ (سورۃ یونس الآیات: 28-30)

اور فرمایا:

”اور جس دن وہ سب (جن و انس) کو جمع کرے گا (اور فرمائے گا کہ) اے گروہ جنات! تم نے انسانوں سے بہت (فائدے) حاصل کئے تو انسانوں میں جو ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار! ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا فرمائے گا (اب) تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہمیشہ اس میں (چلتے) رہو گے مگر جو خدا چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں اے جنوں اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ سنا تے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ (پروردگار!) ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور (اب) خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ (اے محمد) یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں (تو) اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں (کچھ بھی) خبر نہ ہو۔ اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے (مقرر) ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر

نہیں۔ (سورۃ النبی صافات: ۱۲۸-۱۳۲)

اس بارے میں بہت سی آیات وارد ہیں لہذا ہر موقعہ پر وہاں کی مناسبت سے ہم ان آیات کو ذکر کرتے چلیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر محتون ہو گے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ لوٹائیں جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی اس کے مثل مروی ہے۔ ابن ابی الدنیا میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی۔ دو میں تو بحث و جدال اور عذر معذرت ہوگی اور ایک پیش میں اعمال نامے اڑیں گے۔ سو جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملاوہ جنم میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا لیکن جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملاوہ جنم میں داخل ہوگا“۔^۱

مسند احمد میں ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی۔ دو میں تو بحث و جدال اور عذر معذرت ہوگی اور ایک پیشی میں اعمال نامے اڑیں گے۔ سو کوئی دائیں ہاتھ میں لینے والا ہوگا اور کوئی بائیں ہاتھ میں۔ ابن مبارکؒ اس ہولناک مرحلہ کے متعلق چند اشعار فرماتے ہیں جن کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے: صحائف اعمال اڑتے پھریں گے جو بھیدوں سے بھرے ہوں گے، نگاہیں پھٹی پھٹی ان کو دیکھ رہی ہوں گی۔ پس تو کیسے اس کو بھولے ہوئے ہے۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ چل جائے گا اور تجھے نہیں پتہ کہ کیا کیا رونما ہوگا؟ کیا جنت میں ٹھکانہ ہوگا جہاں نور ہی نور ہے۔ یا جہنم میں سڑنا ہوگا جہاں خلاصی ہے نہ آزادی۔ افسوس تیرے طور طریقے اسی کے باسیوں کے سے لگتے ہیں؟ تو خوب دیکھ لے گا جب جہنمی جنم کی عمیق وادیوں سے چھٹکارے کی کوشش کریں گے تو مزید گہرائیوں میں غوطہ زن ہو جائیں گے ان کا رونا بڑھ جائے گا لیکن وہ رونا دھونا ان کو کچھ سود مند نہ ہوگا پس جان لے کہ علم موت سے پہلے پہلے ہی اپنے عامل کو کچھ نفع دے سکتا ہے کیونکہ موت کے بعد تو واپسی ممکن نہیں۔

پروردگار اپنے کلام میں فرماتے ہیں:

”اے انسان! تو اپنے پروردگار کی طرف (پہنچنے میں) خوب کوشش کر، تو اس سے جا ملے گا۔ پس جس کا نامہ (اعمال) اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر میں خوش خوش آئے گا اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل (وعیال) میں مست رہتا تھا اور حیات کرتا تھا کہ (خدا کی طرف) پھر کرنے جائے گا۔ ہاں (ہاں) اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا“۔

(سورۃ الانشقاق صافات: ۱۵-۱۶)

جس سے حساب میں جانچ پڑتال

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن جس کسی سے بھی حساب کتاب

۱ بخاری الحدیث ۶۵۲۷۔ مسلم الحدیث ۷۱۲۷۔ الترمذی الحدیث ۲۰۸۳۔ مسند احمد الحدیث ۳/۵۔

کیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ خدا کا فرمان نہیں ہے؟
نوحس کا نامہ (امثال) اس نے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب اسان لیا جائے گا۔

(سورۃ الاحقاف: آیات 6-7)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو محض پیشی ہے حساب تو جس سے بھی کیا گیا وہ ہلاکت سے نہیں بچ سکتا“^① یعنی پروردگار بندوں سے حساب میں پوچھ کچھ شروع فرمائیں گے تو کوئی بھی حساب کتاب پر پورا نہیں اتر سکتا۔ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ بنتائے عذاب ہو کر رہے گا لیکن اس کے باوجود ظلم رتی بھر بھی نہ ہوگا۔ اس وجہ سے پروردگار عفودرگزر سے کام لیں گے اور جس طرح دنیا میں بندوں کی پردہ پوشی فرماتے رہے اسی طرح آخرت میں بہت سوں کے ساتھ ستاری و مغفرا کر کرشمہ فرمائیں گے جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کریں گے حتیٰ کہ اس پر چھا جائیں گے اور پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروائیں گے حتیٰ کہ جب اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”(دیکھ) میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا جا آج بھی تیری بخشش کرتا ہوں“^②

فصل

(دنیا میں نیک و بد سب ساتھ ہیں لیکن قیامت میں کافر اور مؤمن اچھے و برے سب الگ الگ کر دیئے جائیں گے مترجم
اصوغ) فرمان ایزدی ہے:

”اور تم لوگ تین قسم میں ہو جاؤ گے۔ داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (ہی چین میں) ہیں!! اور بائیں ہاتھ والے (افسوس!) بائیں ہاتھ والے کیا (ذلیل و خوار اور گرفتار عذاب) ہیں!! اور جو آگے بڑھنے والے (ہیں) ان کا کیا ہی کہنا (وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں!۔ وہی (خدا کے) مقرب ہیں۔ نعمت کی بہشتوں میں۔

(سورۃ الواقعة: آیات 7-12)

جب فیصلہ کے لیے پروردگار کی کرسی رکھ دی جائے گی تو کافر و مؤمنوں سے بائیں طرف ہٹا کر کھڑے کر دیئے جائیں گے۔ مؤمنین عرش کی دائیں جانب رہ جائیں گے۔ ان میں سے کچھ پروردگار کے سامنے ہوں گے۔ اس سے متعلق فرمائانات الہی ملاحظہ ہوں:
”اور گنہگارو! تم آج الگ ہو جاؤ“۔ (سورۃ یسین: آیت: 59)

”پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے“۔ (سورۃ یونس: آیت: 28)
”اور تم ہر فرقے کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا (اور) ہر ایک جماعت اپنی کتاب (اعمال) کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا“۔ (سورۃ الجاثیہ: آیت: 28)

① بخاری الحدیث ۶۵۳۷۔ مسلم الحدیث ۷۱۵۶۔ بخاری الحدیث ۳۶۸۵۔ مسلم الحدیث ۶۹۳۶۔ ابن ماجہ الحدیث ۱۸۳۔

”اور (عملوں) کی کتاب (کھول کر) رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور انہیں نے ہائے تہمت! یہ کیسی سب سے نہ نہ پھوٹی بات نہ پھوٹی بات نہ بڑی بات نہ بڑی بات نہ کسی نہیں) مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی برظلم نہیں کرے گا۔“

(سورۃ النبی: آیہ 49)

الغرض ساری خلق خدا خدا کے سامنے سرنگوں کھڑی ہوگی۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینہ میں غرق ہوگا۔ تمام لوگ گردن ڈالے ہوں گے۔ ہر طرف گھمبیر سناٹا چھایا ہوگا۔ مشیت ایزدی کے سوا کسی سے بات کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ انباء ہی بات چیت کر رہے ہوں گے۔ ہر نبی کے ارد گرد اس کی پریشان امت جمع ہوگی۔ اولین و آخرین پر مشتمل کتاب الاعمال رکھ دی جائے گی جو چھوٹی بات کو چھوڑے گی اور نہ بڑی بات کو بلکہ ہر ذرہ ذرہ اس میں محفوظ ہوگا۔ خلق خدا کے کئے ہوئے اعمال اس میں درج ہوں گے۔ نگہبان اور امانت دار فرشتوں نے نئی پرانی ہر بات اس میں لکھ رکھی ہوگی۔ فرمان الہی ہے: ”اس دن انسان کو انگی پچھلی ہر بات بتادی جائے گی۔“

”اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو (بصورت کتاب) اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز (وہ) کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ (کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔“

(سورۃ الاسراء: الآیاتان: 13-14)

حضرت بصری فرماتے ہیں: اے ابن آدم! پروردگار نے خود تجھے تیرا نگہبان بنا کر تیرے ساتھ کس قدر انصاف کیا ہے، پس سوچ لے! اس دن کیا عالم کیا ہوگا جب اچھے برے اعمال کے لیے میزان نصب کر دی جائے گی۔ پل صراط جہنم کی پشت پر بچھادی جائے گی۔ ملائکہ جن وانس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ جہنم ظاہر ہو جائے گی۔ نعمتوں کا جہان مزین ہو کر سامنے آجائے گا بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے پروردگار جلوہ افروز ہوں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ صحائف اعمال پڑھے جائیں گے۔ ملائکہ بنی آدم کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ زمین اپنی پشت پر کی جانے والی ہر بات کی گواہی دے گی۔ پس کوئی تو حقیقت کا اعتراف کر لے گا اور جو اپنے کئے سے منکر ہوگا اس کے منہ پر مہر سکوت ثبت کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا دن کے اجالے میں یارات کی اندھیری میں از خود سب کچھ بتادیں گے۔ فرمان الہی ہے:

”اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا (ہوگا) (سورۃ الزلزال: الآیاتان: 4-5)

فرمان الہی ہے:

”یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو وہ ان کے کان اور آنکھیں اور جلدیں (یعنی اعضاء) ان کے اعمال پر گواہی دیں گے وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی۔ اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور تم اس (بات کے خوف) سے تو پرواہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چہرے تمہارے خلاف شہادت

دیں گے بلکہ تم خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔ اور اسی گمان (بد) نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھے تھے تم کو ہدایت نہ دیا اور تم نے سارے دینوں سے ہٹ کر اپنے پروردگار سے تعلق کاٹ دیا اور تم نے اللہ سے تعلق ہی سے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ (سورۃ نفاثات آیات ۲۰-۲۲)

فرمان الہی ہے:

”یعنی قیامت کے روز) بس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے اس دن خدا ان کو (ان کے اعمال کا) پورا پورا (اور) ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق (اور حق) کو ظاہر کرنے والا ہے۔“ (سورۃ النور آیات: 24-25)

اور فرمان الہی ہے:

”آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور انکے ہاتھ میں جو کچھ عمل کرتے رہے تھے ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں (اس کی) گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا (کر اندھا) کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔“ (سورۃ یسین آیات: 65-67)

اور فرمان الہی ہے:

”اور اس زندہ قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا اور جو نیک کام کرتا تھا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ (سورۃ طہ آیات 111-112)

یعنی اس کی نیکیوں میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی کا برا عمل اس کے کندھوں پر ڈالا جائے گا۔

فصل

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انس و جن کے علاوہ بے زبان مخلوق کا فیصلہ فرمائیں گے اور ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ذیل کا فرمان خداوندی اس پر شاہد ہے:

”اور زمین پر جو چلنے پھرنے والا (حیوان) یا دوپروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی کی نہیں پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کئے جائیں گے۔“ (سورۃ الانعام آیات: 38)

اور اسی طرح فرمان الہی ہے:

”اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے۔“ (سورۃ التکویر آیات: 5)

عبداللہ بن امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن بغیر سینگوں والی بکری سینگوں والی سے اپنا بدل لے گی۔“^① مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے حقائق دلایے جائیں گے حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کا سینگا، والی بکری سے بدل لیا جائے گا۔“^②

اس روایت کی اسناد کے متعلق محنف امام ابن اثیر فرماتے ہیں کہ یہ سند صحیح علم کی شرائط پر پوری اترتی ہے تاہم انہوں نے اس کے ساتھ روایت نہیں فرمائی۔ مسند احمد میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”مخلوق میں سے ایک دوسرے سے قصاص لیا جائے گا حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کا سینگوں والی بکری سے قصاص لیا جائے

گا اور چوٹی تک کو قصاص دلا لیا جائے گا۔“^③

امام احمد اس کی روایت میں منفر وہیں۔ عبد اللہ امام احمد سند روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ تشریف فرما تھے دو بکریاں چارہ کھا رہی تھیں۔ ایک نے دوسری کو سینگ مارا اور اس پر حاوی ہو گئی۔ ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہنس دیئے۔ آپؐ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! کس چیز نے آپؐ کو ہنسایا؟ فرمایا: مجھے اس پر تعجب ہوا قسم ہے جان کے مالک کی! قیامت کے دن اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔“^④

مسند احمد میں منذر بن یعلیٰ سے سند مروی ہے وہ اپنے مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے (جیسا کہ گزر چکا)۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! جانتے ہو یہ بکریاں کس وجہ سے لڑ رہی تھیں۔ حضرت ابو ذرؓ نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ ان کے درمیان فیصلہ بھی فرمائے گا۔“^⑤

قرطبی میں حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو بکریوں کے پاس سے گزرے جو سینگوں سے لڑ رہی تھیں تو آپؐ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگوں والی کا بدلہ اس سینگوں والی سے دلائیں گے۔“^⑥ ابن وہب سند ذکر کرتے ہیں کہ ثابت بن ظریف نے حضرت ابو ذرؓ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آئے تو دیکھا آپؐ ہی تندر تندر تیز آواز سے فرما رہے ہیں: اللہ کی قسم! اگر قیامت کے دن کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا۔ میں نے عرض کیا کیا بات ہے ابو ذرؓ؟ اگر یہ (بکری) دوسری کو مار رہی ہے تو تم پر

① مجمع الزوائد الحدیث: ۳۵۲/۱۰۔ جمع الجوامع للسیوطی الحدیث: ۵۳۸۔ کنز العمال الحدیث: ۳۸۹۸۶۔

② مسلم الحدیث: ۶۵۲۳۔ ترمذی الحدیث: ۲۳۲۰۔ مسند احمد الحدیث: ۳۰۱/۲۔

③ مسند احمد الحدیث: ۳۶۳/۲۔

④ مسند احمد الحدیث: ۱۶۲/۵۔

⑤ مسند احمد الحدیث: ۱۶۲/۵۔

⑥ التذکرۃ للقرطبی الحدیث: ۳۳۲/۱۔

کوئی پکڑ نہیں۔ آپ نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (راوی کو شک ہے کہ یا پھر آپ نے یوں قسم کھائی) قسم ہے اس ذات کی جس نے ہاتھ میں حمد (سنتینہ) کی جان ہے! تمہیں ضرور سوائی کیا جائے گا کہ اس نے اس وجہ سے اپنی ساتھی کو مارا اور پتھر سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس نے کیوں آدمی کی انگلی توڑ دی؟^۱

مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی شاعت اور برائی کو بیان کیا۔ پھر فرمایا: دیکھو میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ کو لادے آئے اور وہ ہلبلا (کرفریادکر) رہا ہو پس وہ کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کو آئیے اور مجھے کہنا پڑے: میں اللہ کی طرف سے تم کو کسی چیز سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، میں تم کو بات پہنچا چکا تھا اور کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر بکری کو لائے اور وہ منمننا (کرفریادکر) رہی ہو پس وہ کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کو آئیے اور مجھے کہنا پڑے: میں اللہ کی طرف سے تم کو کسی چیز سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، میں تم کو بات پہنچا چکا تھا۔ اسی طرح کسی کہ نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر کوئی گھوڑے کا بار لے کر آئے جو نہ بنا رہا ہو پس وہ کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کو آئیے اور مجھے کہنا پڑے: میں اللہ کی طرف سے تم کو کسی چیز سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، میں تم کو بات پہنچا چکا تھا۔ اسی طرح کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر کسی جان کا بار لائے اور وہ چیخ رہی ہو پس وہ کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کو آئیے اور مجھے کہنا پڑے: میں اللہ کی طرف سے تم کو کسی چیز سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، میں تم کو بات پہنچا چکا تھا۔ اسی طرح کسی شے کا بار لائے پس وہ کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کو آئیے اور مجھے کہنا پڑے: میں اللہ کی طرف سے تم کو کسی چیز سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، میں تم کو بات پہنچا چکا تھا۔^۲

یہ حدیث خیانت سے متعلق ہے کہ جو شخص کسی چیز میں خیانت کرے گا جاندار ہو یا بے جان وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر چڑھی آئے گی اور اپنے سے متعلق خاص شخص کے خلاف فریاد کرے گی اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ سے متعلق ہر شے زندہ کر دی جائے گی جاندار ہو یا بے جان (مترجم)۔

صحیحین میں بھی ابو حیان کی روایت سے اس کی تخریج کی گئی ہے کہ کوئی اونٹ والا جو اپنے اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو اس کو قیامت کے دن ایک جگہ قید کر کے اونٹ کو اس پر چھوڑ دیا جائے گا وہ اس کو بار بار روندتا رہے گا۔^۳ اس کے بعد حدیث میں گائے اور بکری کا ذکر ہے۔ پس یہ احادیث اور سابقہ قرآنی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام حیوانات کو بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حدیث صورت میں ہے: پس اللہ تعالیٰ انس و جن کے سوا مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، حیوانات اور بہائم کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ جب اس سے فراغت ہو جائے گی اور کسی جانور کا کسی پر کوئی حق نہ

① التذکرہ للقرطبی الحدیث: ۱/۳۳۲۔

② بخاری الحدیث: ۳۰۷۳۔ مسلم الحدیث: ۱۱/۳۷۱۱۔

③ مسلم الحدیث: ۲۲۸۹۔ ابن ماجہ الحدیث: ۲۷۸۸۔

رہے گا تب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر حسرت کے مارے تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔

ابن ابی الدینا ہارون بن عبد اللہ سے وہ سیار سے روایت فرماتے ہیں کہ عمر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ابو عمران جوئی سے سنا وہ فرماتے تھے: قیامت کے دن جب حیوانات بنی آدم کو دو قسموں میں بیکھیں گے کہ کچھ لوگ تو جنت والے ہیں اور کچھ جہنم والے تو وہ پکاریں گے اے بنی آدم! اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری طرح نہیں بنایا پس ہمیں جنت لی آس ہے اور نہ جہنم کا خوف۔ شرح اسماء حسنیٰ میں ”المقطب الجامع“ کی شرح میں امام قرطبی ابو قاسم القشیری سے روایت کرتے ہیں فرمایا: درندے اور حیوانات قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے۔ وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے: یہ سجدہ کا دن نہیں ہے یہ توجز او سزا کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثواب و عقاب کے لیے نہیں اٹھایا بلکہ اس لیے اٹھایا ہے کہ تم بنی آدم کی رسوائیوں پر شہادت دے سکو۔

امام قرطبی نقل فرماتے ہیں کہ حیوانوں سے حساب کتاب کے بعد جب ان کو مٹی کر دیا جائے گا تو وہ مٹی بنی آدم کے گنہگاروں کے مونہوں پر اڑادی جائے گی۔ یہی مطلب ہے اس فرمان باری کا:

”اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی“۔ (سورہ یحس الآیہ: 40)



فصل

قیامت کے دن (بندوں کے اعمال میں) پہلی شے جس کا حساب کیا جائے گا وہ خون (ناحق) ہوگا

جب اللہ تعالیٰ بہائم اوچو پائیوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر خون کا فیصلہ فرمائیں گے حدیثِ صوری میں ہے:
فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ پس پہلی شے خون (ناحق) کا فیصلہ ہوگا۔
فرمان الہی ہے:

”اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا جائے گا جب ان کا پیغمبر آئے گا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور
ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا“۔ (سورہ یونس الآیہ: 47)
فیصلہ میں سب سے پہلے امت محمدیہ آئے گی۔

قیامت کے روز تمام امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب کتاب ہوگا:

پھر حضور ﷺ کی عزت و تکریم کے لیے سب سے پہلے آپ کی امت کا فیصلہ کیا جائے گا اور اسی کو سب سے پہلے پلِ صراط عبور
کرایا جائے گا اسی طرح سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی پہلی امت بھی آپ کی امت محمدیہ ہی ہوگی۔^① جیسا کہ صحیحین میں
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ہم (دنیا میں تو) آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پیش پیش ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: خلأئق
میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا ہی فیصلہ ہوگا۔“^②

ابن ماجہ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ہم امتوں میں سب سے آخر میں ہیں اور حساب کتاب میں سب سے پہلے ہوں گے۔ کہا جائے گا: امی امت اور اس کا نبی

① بخاری الحدیث: ۸۷۶۰۔ مسلم الحدیث: ۱۹۷۸۔ مستدرک الحدیث: ۲/۲۳۹ والحدیث: ۲/۲۷۴۔

② ابن ماجہ الحدیث: ۳۲۹۰۔ مستدرک الحدیث: ۳۹۲ والحدیث: ۱/۲۸۲۔

کہاں ہیں؟ پس ہم آ خرین واولین ہیں۔“

قیامت کے دن جن چیزوں کا پہلے حساب کیا جائے گا اور کس سے حساب میں احتساب کیا جائے گا اور

کس سے چشم پوشی سے کام لیا جائے گا۔

حدیث میں ہے: قیامت کے دن حقوق دلوائیں جائیں گے حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کا سینگوں والی بکری سے قصاص لیا جائے گا،^۱ مصنف امام ابن کثیر فرماتے ہیں: جب غیر مکلف جانوروں کے حقوق کا اس قدر لحاظ کیا جائے گا تو آدمیوں کے حقوق اور انصاف بطریق اولیٰ ملحوظ ہوں گے۔ پس ان میں سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا جیسا کہ صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: پہلی شے جس کا قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہوگا۔^۲ حدیث صورت میں ہے کہ مقتول قیامت کے دن آئے گا اس کی رگیں خون کا جوش مار رہی ہوں گی۔ بعض احادیث میں ہے کہ اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ قاتل کے ساتھ چمٹ جائے گا حتیٰ کہ اگر (کافر) مقتول خدا کی راہ میں کسی (مسلمان) کے ہاتھ قتل ہوا تو وہ بھی فریاد کرے گا کہے گا اے رب اس قاتل سے سوال کر کہ اس نے مجھے کیوں تہ تیغ کیا؟ پروردگار قاتل سے فرمائیں گے: تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ وہ عرض کرے گا: پروردگار میں نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ تیرا نام بلند ہو۔ پروردگار مائیں گے تو نے سچ کہا۔

ظلماً قتل کیا ہو شخص فریاد کرے گا اور کہے گا اے رب اس قاتل سے سوال کر کہ اس نے مجھے کیوں تہ تیغ کیا؟ پروردگار قاتل سے فرمائیں گے: تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میرے نام کا شہرہ ہو۔ ایک روایت میں ہے پروردگار اس سے فرمائیں گے تو نے بہت برا کیا۔ پھر اس سے اس بات کے مظلوم مقتولین کا حساب لیا جائے گا۔ پھر آگے خدا کی مشیت ہوگی چاہے اس کو بتلائے عذاب فرمائیں یا رحمت کا معاملہ فرمائیں۔

یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قاتل جہنم کا مستحق ضرور ہوگا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ اسلاف سے بھی منقول ہے حتیٰ کہ بعض نے نقل کیا ہے کہ قاتل کے لیے توبہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب قتل کا قصاص اور اس کا حق محض آدمیوں کو حاصل ہو۔ تب تو توبہ سے اس کا معاف ہونا واضح ہے لیکن اگر قتل کو اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے جس میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ننانوے قتل کئے پھر سو پورے کئے پھر بنی اسرائیل کے ایک عالم سے سوال کیا کہ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ عالم نے کہا تیری توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تو فلاں بستی میں جا! وہ نیلوں کی بستی ہے وہاں تجھے معافی مل جائے گی۔ پس جب وہ وہاں کے لیے نکلا اور ابھی عین درمیان میں تھا کہ موت نے اسے آ لیا اور ملائکہ رحمت نے اسے ڈھانپ لیا۔ الخ۔

۱ مسلم الحدیث: ۶۵۲۳، ترمذی الحدیث: ۲۳۲۰۔ مسند احمد الحدیث: ۲۸۲/۱۔

۲ بخاری الحدیث: ۶۵۲۳، مسلم الحدیث: ۲۳۵۷۔

اسی طرح فرمان الہی ہے

”جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے اور جس بات پر کفر کرنا انہوں نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر چار شرطیں ہیں (اور شریعت کے حکم) سے بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کو دگن

عذاب ہوگا اور ذات و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ (سورۃ انفقان: آیات 67-70)

مذکورہ حدیث اور آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کے حق میں تو یہ ممکن ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عمش شہر بن عطیہ سے وہ شہر بن حوشب سے وہ حضرت ابوالدرداءؓ سے نقل کرتے ہیں آپؓ نے فرمایا: قیامت کے دن مقتول آئے گا اور برسر راہ بیٹھ جائے گا۔ جب قاتل اس کے پاس سے گزرے گا تو مقتول کھڑا ہوگا اور اس کو گریبان سے پکڑ لے گا اور پروردگار کہے گا: یارب! اس سے سوال پوچھیں اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ کہے گا مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ پس آمر اور قاتل کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث صورت میں ہے: پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے حتیٰ کہ کسی کا کسی پر کوئی ظلم نہ رہے گا حتیٰ کہ دودھ میں پانی کی آمیزش کرنے والے کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ دودھ کو پانی سے جدا کرے۔ نیز فرمان باری ہے:

”اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز (خدا کے روبرو) لا حاضر کرنی ہوگی پھر ہر شخص اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی“۔ (سورۃ آل عمران: آیت: 161)

جس نے زمین کا ٹکڑا غصب کیا اسے سات زمینوں تک وہ ٹکڑا گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا:

صحیحین میں سعید بن زید وغیرہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے کسی پر باشت بھرزین کے ٹکڑے کا ظلم کیا اللہ تعالیٰ سات زمینوں تک وہ ٹکڑا بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے“۔^①

قیامت کے روز مصورین اور مجسمہ گروں کو عذاب:

صحیحین میں ہے کہ جس نے کوئی صورت بنائی قیامت کے روز اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے اور وہ ہرگز روح پھونکنے پر قادر نہ ہوگا۔^② ایک روایت میں ہے کہ مصورین کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا جو تم نے بنایا تھا اسے زندہ کرو۔ صحیح میں ہے کہ جس نے جھوٹا خواب بیان کیا جو اس نے نہیں دیکھا تھا قیامت کے دن اسے مکلف کیا جائے گا کہ وہ جو کے دودونوں میں گرہ ڈالے اور وہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح خیانت سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ کو لائے اور وہ ہلبلا (کرفریا دکر) رہا ہو یا کوئی گائے لے کر آئے جو ڈکار رہی ہو یا بکری کو لائے اور وہ مننا (کرفریا دکر) رہی ہو یا گھوڑے کا بار لے کر آئے جو ہنہنا رہا ہو پس وہ کہے یا رسول اللہ! میری مدد کو آئیے اور

① بخاری الحدیث: ۲۲۵۳، المسلم الحدیث: ۳۱۱۳۔

② بخاری الحدیث: ۲۲۲۵، الحدیث: ۵۹۶۳۔ مسلم الحدیث: ۱۵۵۰۷، النسائی: ۵۳۷۳۔

مجھے کہنا پڑے:

”میں اللہ کی طرف سے تم کو ن پیر سے پہلے نہیں دیکھتا، کیس تم کو بت دینا چاہتا تھا۔“
یہ یوری روایت صحیحین میں موجود ہے۔^①

وہ پانچ باتیں جن کا جواب دیئے بغیر قیامت کے دن بندے کے قدم زمین سے بل نہ سکیں گے:

حافظ ابو یعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم کے قدم بل نہ سکیں گے جب تک وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے کہ تو نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی؟ اپنا شباب کس مشغلہ میں گزارا؟ مال کہاں سے کمایا؟ اس کو کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کیا؟^② بیہقی (عبداللہ بن شریک، عن ہلال، عن عبداللہ بن علیم) کے طریق سے نقل کرتے ہیں: عبداللہ بن علیم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جب مذکورہ حدیث بیان فرماتے تو کہتے: تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری میں بات چیت فرمائیں گے۔ جس طرح تم میں سے ہر شخص چاند کے ساتھ تمہا ہوگا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”اے بندے! تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکہ میں ڈالا؟ تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟“^③

امام بیہقی اپنی کتاب میں مذکورہ روایت سے قبل یہ روایت ذکر فرماتے ہیں کہ عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں کوئی شخص خدا کے روبرو اس طرح پیش ہوگا کہ پروردگار اور اس کے سامنے کوئی حجاب نہ ہوگا جو درمیان میں حائل ہو سکے۔ نہ کوئی ترجمان ہوگا جو درمیان میں ترجمانی کریں پس پروردگار فرمائیں گے: کیا میں نے تجھے مال نہیں عطا کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں پروردگار! پروردگار فرمائیں گے: کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجے تھے؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں پروردگار! پھر بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا اسے جہنم نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا وہاں بھی جہنم کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”پس ہر شخص کو جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلہ ہو یا کسی نیک بات کے بدلہ۔“^④

امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے: مسند احمد میں ہے: صفوان بن محرز فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے جا رہا تھا ایک شخص آیا اور آپ سے کہنے لگا آپ نے حضور ﷺ سے یہ بات کیسے سماعت فرمائی ہے کہ قیامت کے روز (اللہ تعالیٰ بندے سے) سرگوشی فرمائیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے اس قدر قریب کر لیں گے کہ اس پر اپنا حصہ رکھ دیں گے اور لوگوں سے اس کو چھپالیں گے۔ پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے اور کہیں گے کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں خیال کرے گا کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ میں نے دنیا میں بھی تیری ستاری کی، پس آج بھی تجھے معاف کرتا: ۱۰۔ پھر اس کی نیکیوں کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی لیکن کفار اور چابلوں منافقین کے متعلق گواہ یہ شہادت دیں گے: یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ

① بخاری الحدیث: ۷۰۲۳۔ ② ترمذی الحدیث: ۲۳۱۶۔

③ مجمع الزوائد للبیہقی الحدیث: ۱۰/۳۳۷۔ ④ بخاری الحدیث: ۱۴۱۳۔

باندھا پس ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو۔^① صحیحین میں اس روایت کی تخریج کی گئی ہے۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم! میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ پر سوار کیا، توروں سے تیری شادی کی اور عیش و عشرت کے تجھے مہ اقع میسر کئے ہیں، تو نے ان چیزوں کا کیا شکر ادا کیا؟“^② امام مسلم نے سہل بن ابی صالح من ابیہ کی حدیث سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ بندے سے ملاقات فرمائے گا: اے بتا! کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی؟ تجھے سردار نہیں بنایا؟ تیری شادی نہیں کی؟ تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ کو مسخر نہیں کیا؟ تجھے عیش و عشرت میں نہیں چھوڑا؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں اے پروردگار۔ پروردگار فرمائیں گے کیا تجھے میری ملاقات کا یقین نہیں تھا بندہ کہے گا نہیں پروردگار فرمائیں گے: پس آج میں بھی تجھے بھلاتا ہوں جیسے تو نے مجھے بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ملاقات فرمائیں گے۔ پروردگار اس سے فرمائیں گے اے بتا! کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی۔ تجھے سردار نہیں بنایا؟ تیری شادی نہیں کی تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ کو مسخر نہیں کیا؟ کیا تجھے عیش و عشرت میں نہیں چھوڑا؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں پروردگار! پروردگار فرمائے گا کیا تجھے میری ملاقات کا یقین نہیں تھا۔ بندہ کہے گا نہیں۔ پروردگار فرمائیں گے پس آج میں بھی تجھے بھلاتا ہوں جیسے تو نے مجھے بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے سے ملاقات فرمائیں گے اور اس سے بھی گزشتہ کی طرح سوال جواب فرمائیں گے یہ بندہ کہے گا: پروردگار! (مجھے تیری ملاقات کا یقین تھا اس لیے) میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر اور اور تیرے رسول پر ایمان لایا۔ (تیرے آگے سر جھکایا اور) نماز پڑھی (تیرے لیے) بھوکا پیاسا رہا (تیری راہ میں) مال صدقہ کیا۔ الغرض جو اس سے بن سکی وہ اپنی تعریف کرے گا۔ پروردگار فرمائے گا کٹھنہر؟ ہم تجھ پر گواہ کو بلا تے ہیں۔ بندہ دل میں خیال کرے گا: یہ مجھ پر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے منہ پر مہر سکوت لگا دی جائے گی اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں کا حکم دیا جائے گا، پس اس کی ران، گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے کئے دھرے کی گواہی دیں گی۔ تب انکشاف حال کے بعد یہ عذر خواہی کرے گا۔ یہ شخص منافق ہوگا۔ پروردگار اس پر ناراض ہوں گے۔ اس کے بعد منادی ندا دے گا کہ ہر امت اس معبود کے پیچھے چلی آئے، جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔^③ مذکورہ حدیث تفصیل کے ساتھ آگے اپنے مقام پر آئے گی۔

امام مسلم اور امام بیہقی نے ایک ہی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ہم حضور اکرم ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ ہنس پڑے۔ پھر فرمایا: پتا ہے مجھے کیوں ہنسی آئی؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جو بات کرے گا اس سے مجھے ہنسی آگئی۔ بندہ کہے گا: اے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہیں (اور منع نہیں کیا)؟ پروردگار فرمائیں گے: کیوں نہیں۔ بندہ کہے گا: پس آج میں اپنے متعلق اپنی جان کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: آج تجھ پر تیری ذات کی ہی گواہی کافی ہو جائے گی۔ (اس کے علاوہ) ہم کرانا کا تبین کی گواہی بھی پیش کریں گے۔

① بخاری الحدیث: ۳۶۸۵۔ مسلم الحدیث: ۶۹۳۶۔ ابن ماجہ الحدیث: ۱۸۳۔ مسند احمد الحدیث: ۴۹۲/۳۔

② مسلم الحدیث: ۷۳۶۳۔ ابوداؤد الحدیث: ۴۷۳۰۔ ترمذی الحدیث: ۳۴۲۸۔

پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر سکوت ثبت فرمادیں گے اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے: بولو! پس اس کے اعضاء اس کے اعمال کی کوئی بات نہ کہیں۔ پھر اس کے اور اس کے اعضاء سے درمیان بات چیت ہوگی۔ وہ اپنے اعضاء پر برہم ہو کر سبے کا نام پر پھٹ کر پڑنے میں ہنسا رہے۔ لیکن وہ کوشش کر رہا تھا۔ (مسلم الحدیث: ۵۳۶۵)

ابو یعلیٰ سند احمد حضرت ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن کا فرخس نو اس نے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا۔ وہ انکار کرے گا اور ہتکڑے گا۔ اسے کہا جائے گا دیکھ! یہ تیرے پڑوسی گواہی دیتے ہیں وہ کہے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جائے گا اچھا یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے تجھ پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ۔ وہ قسم اٹھالیں گے۔ (وہ تب بھی نہ مانے گا تو) اللہ تعالیٰ ان کو خاموش کر دیں گے اور اس کی زبان (اور دیگر اعضاء و جوارح) اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا“^۱

مسند احمد اور بیہقی میں حکیم بن معاویہ بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن تم لوگ گھنٹوں کے بل بیٹھے ہو گے اور تمہارے منہوں پر کپڑا بندھا ہوگا۔ پہلی جو چیز جو ابن آدم کی جانب سے بولے گی وہ اس کی ران اور اس کی ہتھیلی ہوگی“^۲۔ ابن ابی الدینا میں حضرت ابویوب سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت میں پہلا تازہ ایک مرد اور اس کی عورت کا پیش ہوگا عورت کی زبان بند ہوگی بلکہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اس پر گواہی دیں گے جو کچھ وہ اپنے شوہر سے متعلق برائی کرتی رہی۔ اسی طرح آدمی کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ پھر اسی کے موافق آدمی اور اس کے ماتحتوں کو بلایا جائے گا۔ پھر اہل اسراف کو بلایا جائے گا ان سے پیسہ پائی کچھ وصول نہ کیا جائے گا بلکہ اس کی نیکیاں اس کے مظلوم کو دی جائیں گی اور اس مظلوم کی برائیاں ظالم پر لاد دی جائیں گے۔ پھر سرکشوں کو لوہے کے لباس میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کو جہنم کے حوالہ کر دیا جائے۔ یہ نہیں پھر وہ جہنم داخل ہو جائیں گے یا وہ معاملہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور تم میں کوئی نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ پھر ہم پر ہیزگاروں کو نجات دیں

گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے“۔ (سورہ مریم آیتان 71-72)^۳

بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”اور اس روز وہ (زمین) اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا (ہوگا)“۔ (سورہ الزلزال آیتان 4-5)

فرمایا: کیا تم جانتے ہو اس کی اخبار کیا ہیں؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اس کی اخبار یہ ہیں کہ وہ شہادت دے گی ہر بندہ اور بندگی کے متعلق کہ وہ اس کی پیش پر کیا اعمال کرتے رہے ہیں۔ زمین کہے گا اس نے فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا یہ کام کیا۔ یہ اس کی اخبار ہیں۔^۴ ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام بیہقی حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ میں فرزدق کے چچا

① مجمع الرواۃ للبیہقی الحدیث: ۳۵/۱۰۔ الدر المنثور للسیوطی الحدیث: ۳۵/۵۔ کنز العمال للہندی الحدیث: ۳۸۹۷۹۔ مسند احمد الحدیث: ۳/۵۔ الہندی فی

کنز الحدیث: ۳۸۹۷۹۔ مجمع الزوائد الحدیث: ۳۴۹/۱۰۔ الدر المنثور: ۳۲۸/۵۔ کنز العمال الحدیث: ۳۸۹۹۸۔ الطبرانی فی الکبیر الحدیث: ۳/۱۷۷۔

④ ترمذی الحدیث: ۳۵۳۔ مسند احمد الحدیث: ۳۷۴/۲۔

تھقف نے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا آپ ﷺ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے:

”تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَجِدُنِي كَمَا تَجِدُنِي أَوْ لَا تَأْتِي الشُّرُكُوتُ أَشَيْئًا مَّا تَكْفُرُونَ“

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: واللہ مجھے کوئی پروا نہیں کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہ سنے گا! سنی! سنی! ابو بکر بن ابی الدینیا میں ہے: حضرت سینہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مدینہ میں داخل ہوا دیکھا کہ ایک شخص کے پاس لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا: حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ میں آپ کے قریب گیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ لوگوں سے حدیث بیان فرما رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا: آپ کو حق کا واسطہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو کبھی ہو اور اس کو اچھی طرح جان لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو جھر جھری آگئی پھر آپ طویل دیر تک ٹھہرے رہے پھر آپ کو ہوش آیا اور فرمایا: میں تجھے وہ حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے اسی گھر میں بیان کی ہے ہم دونوں کے سوا اس وقت کوئی پاس موجود نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو دوبارہ جھر جھری آگئی۔ اسی حالت میں کچھ دیر گزری۔ پھر آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا سنا تا ہوں۔ پھر فرمایا: میں تجھے وہ حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے اسی گھر میں بیان کی ہے ہم دونوں کے سوا اس وقت کوئی پاس موجود نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو دوبارہ پہلے سے سخت جھر جھری آگئی اور آپ پر چہرے کے بل آن گرے۔ کافی دیر چہرے کے بل پڑے رہے۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا تب آپ نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف نزول اجلاں فرمائیں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ ہر امت گھٹنوں کے بل جھکی ہوگی۔ پہلے پہل صاحب قرآن کو بلایا جائے گا اور اس شخص کو جو راہ خدا میں قتل ہوا اور مالدار کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری کو فرمائیں گے: کیا میں نے تجھے وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں پروردگار؟ پروردگار فرمائیں گے پھر تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ بندہ عرض کرے گا پروردگار! میں رات اور دن تلاوت کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، ملائکہ بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے یہ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں تو قاری ہے، پس وہ تو کہا جا چکا۔ پھر صاحب مال کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے مال کی وسعت نہیں دی تھی، حتیٰ کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں بننے دیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں پروردگار! پروردگار فرمائیں گے پھر تو نے میرے دیئے ہوئے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں مال کے ذریعہ صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا۔ پروردگار فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ملائکہ بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے یہ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، پس وہ کہا جا چکا۔ پھر اس شخص کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو کس لیے قتل کیا گیا تھا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم ملا، میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں خود قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہادر ہے۔ پس وہ تو کہا جا چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اکرم ﷺ نے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! قیامت کے روز اللہ کی مخلوق میں یہ پہلے تین اشخاص ہوں گے جن پر جہنم بھڑکے گی۔

ابو عثمان الولید کہتے ہیں مجھے عقبہ نے خبر دی کہ حضرت سیف کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آنا جانا تھا وہ ایک مرتبہ حضرت

معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی (مذکورہ) حدیث سنائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے لگے ان تین قسم کے لوگوں کا۔ یہ مال ہوگا تو باقی انسانیت کا کیا حال ہوگا تو باقی انسانیت کا کیا حال ہوگا۔ یہ لڑھا کرتا آپ راز و تھار روپے سے حتیٰ کہ کس ڈر محسوس ہوا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے لیکن پھر آپ کو اتفاق ہو گیا۔ آپ نے اپنے چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچ ہے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دینا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ (سورہ صافات: ۱۵-۱۶)

قیامت کے روز (اعمال میں) پہلے نماز کی پریش ہوگی

سوا گروہ درست نکلی تو سب اعمال درست ہوں گے اور اگر وہ خراب نکلی تو سب اعمال خراب نکلیں گے۔ ابن ابی الدنیا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا سوا گروہ درست نکلی تو سب اعمال درست ہوں گے اور اگر وہ خراب نکلی تو سب اعمال خراب نکلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: دیکھو! میرے بندے کے پاس کچھ نکلیں ہیں؟ اگر اس کے پاس نکلیں ہوں تو ان سے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے۔ پھر دوسرے فرائض (مثل روزہ زکوٰۃ وغیرہ) میں بھی یوں ہی کیا جائے گا۔^① ترمذی و نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت حسن سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے حوالہ سے فرمایا کہ قیامت کے روز غلام بندہ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ جب اس کی نماز میں نکلے گی تو اس سے پوچھا جائے گا: نماز میں یہ کمی کیوں ہے؟ وہ عرض کرے گا: یارب! تو نے مجھ پر ایک مالک کو مسلط کر دیا تھا جو مجھے نماز سے مشغول رکھتا تھا پروردگار فرمائے گا میں نے دیکھا تھا تو اس کے مال میں سے اپنے لیے چوری کرتا تھا؟ تو تو اس کے یا اپنے کاموں میں سے اپنی جان کے لیے (نماز پڑھنے کی) چوری کیوں نہیں کرتا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ اس پر یہ حجت قائم فرمادیں گے۔^②

ابن ابی الدنیا میں ہے حضرت حسن حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن عورت سے پہلے پہل اس کی نماز کا سوال ہوگا پھر اس کے شوہر کا کہ اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا رہا؟^③ یہ حدیث مرسل جید ہے۔ مسند احمد میں حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ میں تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ”قیامت کے دن اعمال آئیں گے۔ نماز آئے گی اور کہے گی: پروردگار! میں نماز ہوں۔ پروردگار فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر صدقہ آئے گا اور کہے گا پروردگار! میں صدقہ ہوں پروردگار فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا اور کہے گا پروردگار! میں روزہ ہوں۔ پروردگار فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ اسی طرح تمام اعمال آئیں گے اور رب تعالیٰ ان کو فرمائیں گے تم خیر پر ہو۔ پھر اسلام آئے گا اور عرض کرے گا یارب تو سلام

① ترمذی الحدیث: ۴۱۳۔ النسائی الحدیث: ۳۶۳۔ مسند احمد الحدیث: ۶۵/۳ والحدیث: ۳۷۷/۵۔ مسند احمد الحدیث: ۳۲۸/۳۔ مجمع الزوائد الحدیث: ۲۹۲/۱۔ الدر المنثور الحدیث: ۳۰۰/۱۱۔ کنز العمال الحدیث: ۳۵۰۹۳۔

ہے اور میں اسلام ہوں۔ پروردگار فرمائیں گے تو خیر پر ہے آج کے دن میں تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے عطاؤں بخشش کروں گا۔
فرمائیں ابھی ہے اور بخشش اسلام کے سوا کئی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے بہتر قبول نہیں کیا جائے گا اور یہاں تک آسمان تیس
نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ (سورۃ آل عمران الآیہ: ۸۵) ❶

ابن ابی الدنیا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ظالم حکام کو لایا
جائے گا، مجھ سے پہلے گزر گئے ہوں گے یا میرے بعد آنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم میری زمین کے خزانچی تھے
میرے بندوں کے نگہبان تھے۔ (تمام عمدہ و) مرغوب اشیاء تمہارے پاس تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے وفات پانے والے حکام سے
فرمائیں گے: تو نے جو کیا اس پر تجھے کس چیز نے برآ بھیختے کیا؟ وہ عرض کرے گا تیری رحمت نے۔ پروردگار فرمائیں گے کیا میرے بندوں
پر تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو میرے بعد گزرا فرمائیں گے: جو تو نے کیا اس پر تجھے کس بات نے برآ بھیختے
کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیرے لیے غصہ کیا تھا۔ پروردگار فرمائے گا: کیا تو مجھ سے زیادہ غضب ناک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں
گے۔ ان کو لے جاؤ اور جہنم کا ایک حصہ ان سے بھر دو۔“

ابن ابی الدنیا میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب میں حبشہ کی ہجرت سے لوٹا تو ایک جوان عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ!
ایک مرتبہ ہم بیٹے ہوئے تھے کہ اہل حبشہ کی ایک بڑھیا کا ہمارے پاس سے گزرا ہوا اس کے سر پہ پانی کا ایک گھڑا تھا جب وہ انہی کے ایک
نوجوان کے پاس سے گزری تو اس جوان نے اس بڑھیا کے شانوں پر اپنا ہاتھ مارا جس سے بڑھیا لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گری اور اس کا
گھڑا بھی ٹوٹ گیا۔ بڑھیا اٹھی اور اس نوجوان کو دیکھ کر بولی: اے بدمعاش کل کے دن تجھے سب پتہ چل جائے گا! جب اللہ تعالیٰ کرسی
رکھیں گے اور اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے۔ اس وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں ان کے کئے دھرے کی گواہی دیں گے۔ تب تیرے کو
میرا اور اپنا معاملہ خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”بڑھیا نے سچ کہا کیسے اللہ اس قوم کو پاک کریں گے جن کے ضعیفوں کا ان کے طاقتوروں سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔“ ❷

عبداللہ بن انیس کی حدیث میں ہے: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منادی دیں گے: میں انصاف کرنے والا بادشاہ ہوں۔ کسی ضعیفی کو
جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ کسی جہنمی کو جہنم میں جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ اس کے متعلق ذرہ بھر ظلم کا بھی انصاف نہیں
ہو جاتا۔ اسی طرح کوئی ضعیفی اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکتا جب تک کہ اس کے متعلق ذرہ بھر ظلم کا بھی انصاف نہیں ہو جاتا خواہ وہ
ایک تھپڑ کیوں نہ ہو۔ مسند احمد میں اس کو روایت کیا گیا ہے اور امام بخاری نے اس پر تعلق قائم کی ہے۔ امام مالک سعید بن ابوسعید المقبری
عن ابیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس کا کسی بھائی پر ذرہ بھی ظلم ہو
وہ اس کو معاف کرانے اس لیے کہ وہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ وہاں ظلم کی نیکیاں لی جائیں گی اگر اس کے پاس نیکیاں ہوئیں تو ٹھیک
ورنہ اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔“ ❸

❶ مسند احمد الحدیث: ۳۶۲/۲۔ مجمع الزوائد الحدیث: ۳۳۲/۱۰۔ الدر المنثور الحدیث: ۳۸/۲۔

❷ ابن ماجہ الحدیث: ۳۰۱۰۔ بخاری الحدیث: ۶۵۳۳ مسند احمد الحدیث: ۳۳۵/۲۔ الحدیث: ۵۰۶/۲۔

بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن ابی الدنیانے (علاء بن ابیہ کی حدیث) روایت کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت با تہ ہونے سے پہلے کون شمس ہے؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے پاس درہم نہ ہوں۔ فرمایا: نہیں بلکہ منقلس میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ پس یہ بھی اس کی نیکیاں گے جائے گا یہ بھی اس کی نیکیاں لے جائے گا۔ پھر اگر حق داروں کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ بالآخر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا“۔^① ابن ابی الدنیانے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم اس حالت میں نہ مرو کہ تم پر کسی کا قرض ہو، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے وہاں تو نیکیوں سے ایک دوسرے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا“۔^② ابن عمرؓ سے مزید دوسرے دو طریق سے یہ حدیث مرفوعاً منقول ہے۔

قیامت کے دن ظالموں سے قصاص لیا جائے گا:

ابن ابی الدنیانے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن بندہ اپنی نیکیوں پر خوش خوش آئے گا۔ ایک دوسرا آدی آئے گا اور کہے گا: یارب! اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پس اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اسی طرح ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی۔ اب جو حق دار آئیں گے ان کی برائیاں لے کر اس کے سر لاد دی جائیں گی۔ اسی طرح مسلسل ہوگا حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔

خدا کے ساتھ شرک معاف نہیں اور بندوں پر ظلم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا

مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ہاں تین عدالتیں ہیں ایک عدالت تو ایسی ہے جس کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری عدالت ایسی ہے جس میں کچھ معاف نہ ہوگا تیسری عدالت ایسی ہے جس میں بخشش کا کوئی سوال نہیں۔ یہ عدالت جس میں بخشش کا کوئی سوال نہیں وہ شرک سے متعلق ہے۔^③ فرمان الہی ہے:

”جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا“۔ (سورۃ المائدہ: آیت ۷۲)

وہ عدالت جس کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں وہ بندہ کا اپنی جان پر ظلم ہے اور خدا کے حق میں ظلم ہے۔ مثلاً روز چھوڑ دیا۔ نماز چھوڑ دی۔ پس اللہ تعالیٰ اس عدالت میں بخشش فرمائیں گے۔ اگر چاہیں گے تو درگزر فرمائیں گے اور وہ عدالت جس میں اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔ وہاں ہر حال میں بدلہ دلایا جائے گا۔

امام بیہقی نے سنداً زیاد النیر کے طریق سے سے حضرت انسؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ظلم تین ہیں: ایک ظلم جس کو خدا معاف

① بخاری الحدیث ۶۵۳۳ مسند احمد الحدیث ۳۳۵/۲ والحدیث ۵۰۶/۲۔ ② مسلم الحدیث ۶۵۲۲ ترمذی الحدیث ۲۳۱۸۔

③ مجمع الزوائد الحدیث ۲/۲۱۷ کنز العمال الحدیث ۱۵۴۹۲ حلیۃ الاولیاء الحدیث ۰۲/۳۔ ④ مسند احمد الحدیث ۲۳۰/۶۔

نہیں فرمائے گا اور اس کی بخشش نہ ہوگی۔ وہ خدا کے ساتھ شرک ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو بندوں کا اپنے آپ پر ہے اور خدا کے حق میں ہے۔ اس کو خدا معاف فرمائیں گے۔ ایک وہ ظلم ہے جس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے۔^① امام تہجدی نے ایک اور طریق بیزید القاشی عن انس سے اس کو نقل کیا ہے مصنف فرماتے ہیں: وہ اس طریق ضعیف ہیں۔

خدا کی راہ میں جہاد سوائے امانت کے ہر چیز کو بخش دیتا ہے

ابوبکر بن ابی الدنیا سندا عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہر گناہ کو بخش دیتا ہے سوائے امانت کے۔ فرمایا: صاحب امانت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا امانت ادا کرو وہ کہے گا یارب! میں تو اس دنیا سے آ گیا ہوں (اب کیسے ممکن ہے؟) حکم ہوگا اس کو ہادیہ (جہنم) کی طرف لے جاؤ۔ لیکن اس کی طرف لے جایا جائے گا اور اس میں دھکیل دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی گہرائی میں جا کر گرے گا۔ وہاں دیکھے گا کہ وہ امانت موجود ہے۔ وہ اس کو اٹھائے گا اور کندھے پر رکھ کر اوپر چڑھے گا جب جہنم سے نکلنے کے قریب ہوگا تو پھر نیچے گہرائی میں جا کر لے گا۔ پس یونہی رہتے زمانے تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔^②

پھر فرمایا: امانت نماز میں بھی ہے۔ امانت روزے میں بھی ہے۔ امانت وضوء میں بھی ہے اور امانت بات چیت میں بھی ہے لیکن سب سے بڑھ کر امانت وہ چیز ہے جو کوئی دوسرے کے پاس بطور امانت رکھوائے۔ زازان اس حدیث کے راوی کہتے ہیں میں حضرت براء سے ملا اور کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ یوں یوں حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت براء نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں۔ اس روایت کی تائید مسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ابوسعید روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں خدا کی راہ میں لڑائی پر صبر کرتے ہوئے خدا سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور پشت دیئے بغیر آگے بڑھتے ہوئے قتل ہو جاؤں تو کیا خدا تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ فرمایا: ہاں سوائے قرض کے۔^③

ابن ابی الدنیا میں ہے عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

” (اے پیغمبر!) تم بھی مرجاؤ گے اور یہ بھی مرجائیں گے۔ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھکڑو گے

(اور جھکڑوے کا فیصلہ کر دیا جائے گا) (سورۃ الزمر: آیتان 30-31)

تو حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا دنیا میں جو گناہ ہو گئے وہ ہم پر دوبارہ پیش کئے جائیں گے؟ فرمایا: ہاں تم پر دوبارہ پیش کئے جائیں گے حتیٰ کہ تم ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو۔ حضرت زبیر نے عرض کیا یہ تو بڑا سخت معاملہ۔^④ ابن ابی الدنیا میں زازان سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: لوگ حساب کتاب کے لیے گھنٹوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے، بہن بھائی سے، خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے دنیا کی نسبت زیادہ سخت ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت

① مجمع الزوائد الحدیث: ۱۰/۳۳۸۔ کنز العمال الحدیث: ۱۰۳۲۶/۱۰ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء الحدیث: ۳۰۹۔ المطالب العالیہ لابن حجر ۳۶۵۳۔

② مسلم الحدیث: ۳۸۶۱۔ ③ مسلم الحدیث: ۳۸۶۱۔ ④ المسند رک للحاکم الحدیث: ۳۳۵/۲۔ الدر المنثور الحدیث: ۳۲۷/۵۔ تحف السادة المستعین

الحدیث: ۱۰/۳۷۷۔ شرح السنۃ للبخاری الحدیث: ۷/۷۵۔

تلاوت فرمائی:

نورونان میں قراتیں رہیں گی اور نہ لایف دوسرے نے بارے میں پوچھیں گے۔ (سورۃ النور: آیت ۱۰۱)

ابو بکرؓ اور اہل بیتؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انعام اور اس کے مالک کو لایا جائے گا شوہر اور اس کی بیوی کو لایا جائے گا۔ ندام اور اس کے مالک کا بیوی اور اس کے شوہر کا تفسیر کرایا جائے گا۔ (ہر بات فیصلہ میں آنے کی) حتیٰ کہ کہا جائے گا فلانی کو تو نے پیغام دیا اور میں نے اس کے ساتھ تیری شادی کر دی لیکن تو نے (اس کے خیال میں) سب کو چھوڑ دیا۔ ابن ابی الدنیا کہتے ہیں: عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندہ کو بلائیں گے اور اس پر اپنے احسانات کو یاد دلائیں گے اور ان کا شمار کرائیں گے فرمائیں گے: تو نے مجھے فلاں دن یاد کیا اور دعا کی اور کہا یا اللہ میری فلانی سے شادی کر دے اور وہ ہم نے کر دی۔ اس طرح بہت سی باتیں شمار کرائی جائیں گی۔ (مقصود حدیث یہ ہے کہ کوئی بات نہ چھوٹے گی بلکہ ہر بات کا ذکر ہوگا۔) ابن ابی الدنیا میں ہے کہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: بندہ کو عار اور شرمندگی اس طرح گھیر لے گی کہ وہ کہے گا اے اللہ! تیرے مجھے جہنم میں پھینکنے سے زیادہ لوگوں کی رسوائی سے مجھے خوف ہے حالانکہ اللہ کی قسم! وہ جانتا ہے ہوگا کہ جہنم کا عذاب کس قدر سخت ہے۔^①

قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی:

فرمان الہی ہے:

”پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔“ (سورۃ الحاکم: آیت ۸)

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے ابو الہیثم کے باغ میں بکری کا گوشت اور کھجوریں تناول فرمائیں اور پانی نوش فرمایا پھر فرمایا: ”یہ نعمتیں جن کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ (یعنی پوچھا جائے گا کہ کیا اس نعمت کا شکر ادا کیا اور اس کے مقابلہ میں عمل کیا؟) اسی طرح حدیث میں ہے: اپنے کھانے میں ذکر اللہ اور درود کا سالن استعمال کرو اور کھانے کے بعد سومت جاؤ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔^②

ابن ابی الدنیا میں ہے حضرت ثابت سے مروی ہے کہ ایک شخص مسجد دمشق میں داخل ہوا اور دعا کرنے لگا: اے اللہ! میری وحشت کو دور فرمایا، میری تنہائی پر رحم فرما اور مجھے کوئی اچھا ہم نشین عطا فرما۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے اس کی دعائی اور فرمایا: اگر تو طلب میں سچا ہے تو میں تیری نسبت سعادت مند ہوں (اور تیری ہم نشینی اختیار کرتا ہوں) میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: ”لوگوں میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی وہ ظالم جس کو اس کے مقام پر پکڑ لیا جائے گا اور وہ حرن و غم (میں بتلا رہنے والا) ہے اور کچھ لوگ میاں نہ روہیں یعنی ان سے آسان حساب کتاب لیا جائے گا اور کچھ نیکیوں میں سابق ہیں یعنی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں

① المسد رک الحدیث: ۳/۵۷۷۔ جمع الجوامع للسيوطی: الحدیث: ۵۶۸۸۔

② التسانی الحدیث: ۳۶۲۱۔ مسند احمد الحدیث: ۳/۳۳۸ والحدیث: ۳/۳۵۱۔ مجمع الروا الحدیث: ۱۰/۳۱۷۔

داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا بندہ کی جانب سے مصالحت لروانا

ابو یعلیٰ سنداً روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کے اوپری دانت نظر آنے لگے۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کیا چیز آپ کو ہنسارہی ہے؟ فرمایا: میری امت کے دو فرد اللہ عزوجل تبارک و تعالیٰ کے رو برو جھگڑیں گے۔ ایک کہے گا: یارب! میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ دلائیے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کو فرمائیں گے: اپنے بھائی کا بدلہ دو۔ وہ کہے گا: میرے پاس نیکیوں میں سے تو کوئی نیکی نہیں بچی۔ وہ عرض کرے گا یارب! پھر وہ میرے گناہ اٹھائے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ یہ فرمانا تھا کہ آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پھر فرمایا: وہ دن بڑا ہی ہولناک ہوگا لوگ اس دن بڑے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہ اٹھالے۔ پس پھر اللہ تعالیٰ اس طلب گار کو فرمائیں گے اپنی نگاہ اٹھا اور جنت کی طرف دیکھ! وہ دیکھے گا اور کہے گا یارب! میں چاندی کے شہر اور سونے کے مملات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس نبی کے ہیں؟ کس صدیق کے ہیں؟ کس شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو بھی ان کی قیمت ادا کر دے وہ بندہ کہے گا یارب! اس کی کس میں ہمت ہو سکتی ہے؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی اس کا مالک ہو سکتا ہے! بندہ کہے گا وہ کیسے پروردگار! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا یارب! میں نے اس بالکل معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: جا اور اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی لے جا اور جنت میں داخل کر لے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان مصالحت کرائیں گے“^①۔ یہ روایت سنداً و سیاقا غریب ہے۔ اگرچہ اچھے کلام پر مشتمل ہے۔ امام بیہقی نے عبد اللہ بن ابی بکر کی حدیث سے اس کو نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے لوگوں کا مال اس نیت سے لیا کہ لوٹا دے گا تو اللہ اسے ادا کرے گا اور جس نے اس نیت سے لیا کہ کھا جائے گا تو اللہ بھی اسے ضائع کر دے گا“۔

ابوداؤد الطیالسی، ابن ماجہ اور بیہقی میں ہے عباس بن مرداس السلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کی رات اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور خوب مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب مرحمت فرمایا کہ میں نے دعا قبول کر لی، مگر جس نے ظلم کیا۔ حضور ﷺ نے دعا کی یا اللہ تو اس پر قادر ہے کہ مظلوم کو ظالم کی طرف سے خیر عطا کر کے خوش کر دے اور ظالم کو بخش دے لیکن اس رات کوئی جواب نہ آیا جب مزدلفہ کی صبح ہوئی تو آپ نے پھر دعا کی تو اللہ نے قبول فرمائی کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا تب رسول اللہ ﷺ مسکرائے۔ بعض اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ ایسی گھڑی میں مسکرائے ہیں جس میں آپ کے مسکرانے کی عادت نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ کے دشمن اہلیس کی وجہ سے مسکرایا ہوں، اسے جب معلوم ہوا کہ اللہ نے میری امت کی بخشش کی دعا قبول کر لی ہے تو وہ ہلاکت ہلاکت پکارنے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔^②

① المستدرک الحدیث ۳/۵۷۶۔ الترغیب والترہیب للمذہبی الحدیث ۳/۳۰۹۔ اتحاف السادة المتقین الحدیث ۶/۲۶۷۔

② مستدرک الحدیث ۳/۱۵۔ الدر المنثور الحدیث ۱/۲۳۰۔ التہذیب لابن عبد البر الحدیث ۱/۱۲۳۔

امام بیہقی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ مغفرت عذاب پانے کے بعد ہو یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہو (مترجم) عرض کرتا ہے جب حدیث میں عام ذکر ہے تو خدا کی رحمت کو خاص کیوں کیا جائے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ سب کو بخش دے لیکن بندوں کو زیب نہیں دیتا کہ ایسے جسم کی نافرمانی کریں۔ ابوداؤد الطیالسی۔ تذاویع الریحان بن ابوبکر الصدیق جن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مقروضوں کو بلائیں گے اور فرمائیں گے: اے ابن آدم! تو نے بندوں کے حقوق کس چیز میں ضائع کئے اور ان کے اموال کس چیز میں خرچ کئے؟ وہ عرض کرے گا یارب! میں نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ صحیح کاموں میں خرچ کیا ہے۔ پروردگار فرمائیں گے: آج تجھ سے زیادہ میں صحیح فیصلہ کرنے والا ہوں۔ پس یکا یک اس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے وزنی ہو جائیں گی اور اس کو جنت میں جانے کا حکم مل جائے گا^①۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کے متعلق فرمائیں گے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر ظاہر کر دے اور بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو۔ پھر اس کو کہا جائے گا کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ بڑے گناہوں کے ڈر سے اقرار کرے گا اور کہے گا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تیرے ہر گناہ کو نیکی سے بدلتے ہیں۔ وہ بندہ کہے گا یارب! میں نے کچھ بڑے گناہ بھی کئے تھے جو یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اس موقع پر آپ ﷺ اس قدر بے کسی کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔^②

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب فرمائیں گے اور اس پر اپنا حصہ رکھ دیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے حتیٰ کہ جب اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور آج بھی تیری مغفرت کرتا ہوں۔ پھر اس کی بڑی بڑی نیکیاں اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائیں گے۔^③ ابن ابی الدنیا میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب فرمائیں گے اور اس پر اپنا حصہ رکھ دیں گے اور تمام خلائق سے اس کو چھپالیں گے۔ اسی پردہ میں اس کو اس کے اعمال کی کتاب دیں گے اور فرمائیں گے لے ابن آدم! پڑھ اپنی کتاب پس جب وہ کسی نیکی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ پروردگار اس کو فرمائیں گے: اے بندے کیا تو اس کو جانتا ہے وہ کہے گا: جی! ابی! پروردگار میں اس کو جانتا ہوں۔ پروردگار فرمائیں گے ہم اس نیکی کو قبول کرتے ہیں۔ بندہ شکر یہ میں سجدہ میں گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اٹھ سزاٹھا اور اپنی کتاب آگے پڑھ! پھر وہ کسی برائی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا اور دل رنجیدہ ہو جائے گا، جسم کانپ اٹھے گا۔ اس وقت اس کو اپنے رب سے اس قدر شرم آئے گی کہ اس کیفیت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے! اس کو جانتا ہے؟ بندہ کہے گا: جی! پروردگار! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے اس کو بخش دیا ہے۔ پس اسی طرح اس کی نیکی قبول ہوتی رہے گی اور سجدہ کرتا رہے گا اور بدی معاف ہوتی رہے گی اور وہ سجدہ کرتا رہے گا۔ مخلوق صرف اس کے سجدوں

① الہدایہ والنہایہ ۲۵/۹۔ ② السنن الکبریٰ للبیہقی الحدیث: ۱۰/۱۰۱۹۰ والصفات للحدیث: ۵۳۔

③ بخاری الحدیث ۳۶۸۵، مسلم الحدیث: ۶۹۳۶۔ ابن ماجہ الحدیث: ۱۸۳۔

کو دیکھے گی حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے: واہ! اس بندے کی کیا خوبی ہے کہ اس نے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی لیکن ان کو بندے اور خدا کے درمیان راز کا کچھ علم نہ ہوگا۔^۱ ابن ابی الدنیا میں عثمان بن عاص سے مروی ہے کہ جس کو اس کا اعمال ماما، ان کے ہاتھ میں مانا اس کے اوپر تو نیکیاں لکھی ہوں گی لیکن اس کے اندر برائیاں ہوں گی۔ اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو وہ اندر سے پڑھے گا تو مایوس ہو جائے گا لیکن جب آخر میں پہنچے گا تو اس میں پڑھے گا کہ یہ تیری بد اعمالیاں ہیں میں نے دنیا میں بھی ان پر پردہ رکھا اور آج بھی میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ اس پر موجود لوگ رشک کرنے لگیں گے یا فرمایا کہ اہل محشر اس کے ظاہری اعمال نامے کو پڑھیں گے اور کہیں گے فلاں تو نیک بخت ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو بدل دیا جائے اور اس کے اندر برائیاں نیکیوں سے بدل دی جائیں گی۔ پھر اس کو پڑھنے کا حکم ملے گا وہ دیکھے گا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ جب آخر میں پہنچے گا تو پڑھے گا کہ یہ تیری نیکیاں ہیں جنہیں میں قبول کرتا ہوں۔ تب وہ اہل محشر کو کہے گا:

”لہجے میرا نامہ (اعمال) پڑھیے۔ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب (کتاب) ضرور ملے گا“۔ (سورۃ الحاقۃ آیتان: 19-20)

فرمایا: جس کو اس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے ملے گا وہ اس کو بائیں ہاتھ سے تھامے گا۔ پھر اس کو پڑھنے کا حکم ملے گا اس کے اندر نیکیاں ہوں گی اور اوپر برائیاں۔ اہل محشر پڑھیں گے تو کہیں گے یہ تو ہلاک ہو گیا۔ جب وہ آخری نیکی پہنچے گا تو کہا جائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں جن کو ہم مردود کرتے ہیں۔ پھر اس کو پلٹنے کا حکم ملے گا (کہ دوبارہ پڑھو) پھر وہ دوبارہ پڑھے گا تو وہ نیکیاں برائیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی، حتیٰ کہ آخر تک یہی کچھ ہوگا پھر وہ اہل محشر کو کہے گا:

”اے کاش مجھ کو میرا (اعمال) نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے؟ اے کاش موت (ابدالاً باد کے لیے

میرا کام) تمام کر چکی ہوتی۔ (آج) میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا“۔ (سورۃ الحاقۃ آیتات: 25-28)

ابن ابی الدنیا میں حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ابن آدم کو یوں لایا جائے گا گویا وہ بکری کا بچہ ہے۔ اس کو اس کا رب کہے گا کہاں ہے وہ مال جو میں نے تجھے بخشا تھا؟ جس کا میں نے تجھے مالک بنایا تھا؟ جو میں نے تجھے عطا کیا تھا؟ وہ کہے گا یا ربی! میں نے اسے جمع کیا اور اس کو خرآور بنایا اور اس میں پہلے سے بڑھوتری کی۔ پروردگار فرمائیں گے: اس میں سے آگے کیا بھیجا تھا؟ وہ دیکھے گا تو کچھ نہ پائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہو۔ پس اس کے بعد وہ پروردگار سے بات نہ کر سکے گا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے مذکورہ بالا روایت کے مثل نقل فرماتے ہیں جس میں یہ اضافہ بھی ہے: بندہ رب سے درخواست کرے گا یا رب! مجھے واپس لوٹا دے میں وہ سارا مال لے آؤں۔ اگر اس کو لوٹا یا بھی جائے تب بھی وہ کچھ آگے نہ بھیج سکے گا پس اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے:

”اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے اور جو (مال و متاع) ہم نے تمہیں عطا

فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے“۔ (سورۃ الانعام آیت: 94)

① بخاری الحدیث ۳۶۸۵، مسلم الحدیث ۶۹۳۶، ابن ماجہ الحدیث ۱۸۳۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

صحیح مسلم میں حضور ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم کہتا ہے: میرا مال اچھا نکلا۔ اس کا مال بس وہی ہے جو اس نے لھالیا اور ختم کر دیا۔ جہنم لڑیا اور پرانا لڑیا صدقہ لڑیا اور آگے کیسج دیا۔ اس کے ماسوا جو چھ ہے وہ جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے ہے۔ فرمان الہی ہے:

”کہتا ہے کہ میں نے بہت سامان برباد کر دیا۔ لیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔“ (سورۃ الجندال: ۱۰-۱۱)

ابن ابی الدنیا میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہل سکیں گے جب تک اس سے چار باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کس چیز میں فنا کی؟ جسم کن کاموں میں بوسیدہ کیا؟ علم پر کیا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ابن ابی الدنیا میں حضرت مکحولؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اے مقروض! اے ابوالدرداء!! اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھ سے کہا جائے گا تو علم جانتا ہے یا جاہل ہے؟ اگر تو کہے گا جانتا ہوں تو کہا جائے گا کہ جس علم کو جانتا ہے اس پر کیا عمل کیا؟ اور اگر تو کہے گا کہ میں جاہل ہوں تو کہا جائے گا کہ تیرے جاہل رہنے کا کیا عذر ہے؟ علم کیوں نہیں حاصل کیا؟“

فصل

امام بخاریؒ نے باب ”یدعی الناس بآبائهم“ کے ساتھ قائم فرمایا اور اس کے ذیل میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”قیامت کے دن ہر دھوکہ کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا اسکی سرین کے پاس بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا غدر اور دھوکہ ہے۔“^۱ ابن ابی الدنیا میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا لہذا اچھے نام رکھا کرو۔“^۲ امام المزوار فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”زمین اپنے خزانوں کو نکال باہر پھینکے گی چور گزرے گا اور کہے گا: (ہائے!) اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ قاتل آئے گا اور کہے گا (ہائے!) اس مال کی وجہ سے میں نے خون بہایا۔ رشتہ ناطہ توڑنے والا آئے گا اور کہے (افسوس!) اس مال کی وجہ سے میں نے رشتہ داری توڑی۔ پھر وہ اس مال کو پکاریں گے اور کچھ اس میں سے نہ اٹھائیں گے۔ فرمان الہی ہے:

”جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے (ان سے خدا فرمائے گا) کیا تم

ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب (کے مزے) چکھو اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا

کی رحمت (کے بانگوں) میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (سورۃ آل عمران: ۱۰۶-۱۰۷)

اور فرمان الہی ہے:

① بخاری الحدیث: ۳۱۸۶ والحدیث: ۳۱۸۷۔ مسلم الحدیث: ۳۵۱۳۔ ابن ماجہ الحدیث: ۲۸۷۲۔ مسند احمد الحدیث: ۵/۳۱۱ والحدیث: ۱/۳۱۷ والحدیث: ۱۶/۳۔

② ابوداؤد الحدیث: ۳۹۳۸۔ مسند احمد الحدیث: ۵/۱۹۳۔ الدارمی الحدیث: ۳/۲۹۳۔

”اور اس روز بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے (اور) اپنے پروردگار کے محمودیدار ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن
اس دن کے انجیل کھریں گے کہ ان پر سمیت واقع ہوئے ہوئے۔ (سورۃ النبی: آیات 22-25)
اور فرمان الہی ہے:

”اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے۔ خنداں و شاداں (یہ نیکوکار ہیں) اور کتنے چہرے ہوں گے جن پر گرد پر رہی
ہوگی۔ (اور) سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ کفار بدلہ دار ہیں۔ (سورۃ یحییٰ: آیات 38-41)
اور فرمان الہی ہے:

”اور جن لوگوں نے نیکو کاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور (مزید برآں) اور بھی اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی
اور نہ رسوائی۔ یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کئے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے
چہروں پر ذلت چھا جائے گی۔ اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والے نہ ہوگا۔ ان کے چہروں (کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان) پر گویا
اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھادیئے گئے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (سورۃ یونس: آیات 26-27)
حافظ ابوبکر البزاز اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذیلی آیت کے متعلق حدیث نقل فرماتے ہیں: فرمان الہی ہے:
”جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن (کے اعمال) کی کتاب ان کے دہانے ہاتھ میں دی
جائے گی وہ اپنی کتاب کو (خوش ہو کر) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور جو شخص اس (دنیا) میں اندھا ہو
(راہ حق سے بھٹکا ہوا) وہ آخرت میں اندھا ہوگا اور (نجات کے) راستے سے بہت دور۔ (سورۃ الاسراء: آیات 71-72)

حضور ﷺ نے فرمایا: ”(مومنوں میں سے) ایک کو بلایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے دہانے ہاتھ میں دیا جائے گا اور
اس کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا۔ اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا اور اس کے سر پر موتیوں کا چمکتا ہوا ایک تاج رکھا جائے گا۔ وہ اپنے
ساتھیوں کی طرف لوٹے گا۔ وہ دور سے اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے: اے اللہ! اس کو ہمارے پاس لا اور اس میں ہم کو برکت عطا فرما۔
پس وہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا تمہیں بشارت ہو! تم میں سے ہر شخص کے لیے ایسا ہی ہے لیکن کافراں کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اللہ
اس کا جسم بڑھا دیں گے۔ اس کے ساتھی اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہ کی پناہ ہو اس سے! اس کے شر سے۔ اے اللہ اس کو ہمارے
پاس نہ آنے دیجیے گا لیکن وہ ان کے پاس آئے گا اور وہ کہیں گے: اے اللہ اس کو سوا کر۔ وہ کہے گا تم پر بھی اللہ کی پھٹکار برے۔ تم میں
سے بھی ہر شخص کے لیے ایسا ہی ہے۔“

حافظ ابوبکر البزاز اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث صرف اسی سند کے ساتھ ملی ہے۔
ابوبکر بن ابی الدنیا نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت حسن بصریؒ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ
بندے کے متعلق حکم فرمائیں گے: اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو۔ (سورۃ الحاقہ: آیات 30) تو اس حکم کو سن کر ستر ہزار فرشتے لپکیں گے اور ایک
زنجیر سے اس کو باندھیں گے اور وہ زنجیر اس کے منہ سے ڈال کر در سے ان کا لیں گے اور یوں اس میں پڑیں گے جیسے دھاگے میں موتی
پڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے کر نکالیں گے تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہوگا۔ پھر دوبارہ جہنم میں غوطہ دے کر نکالیں گے تو وہ

صحیح سالم ہو چکا ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے: اسے پکڑو! تو قبیلہ ربیعہ و مضر کی تعداد سے زیادہ فرشتے اس کی طرف ٹپکیں گے۔ (تہذیب میں یہ دو قبیلے بہت زیادہ تعداد کے ذریعے ہیں اس لیے ان کے ماتھے تیش کی گئی) معتز بن سلیمان اپنے والد سلیمان سے نقل کرتے ہیں کہ ہر شیء اس کو برا بھلا کہے گی وہ کہے گا تم مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گی: تجھ پر رحم الراحمین کو رحم نہیں تو ہم کیسے رحم کریں۔

فصل

حضرت امام ابن ماجہ اپنی سنن کتاب الرقائق میں سنداً فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا حصے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ تمام مخلوق میں نازل کیا ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے رحم و محبت کا معاملہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ چوپائے بھی اسی کی بدولت اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ باقی ننانوے حصے رحمت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرمائیں گے“^①

امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہمیں قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت پیدا فرمائی اس میں ننانوے حصے اپنے پاس روک لئے۔ صرف ایک حصہ اپنی تمام مخلوق میں پھیلا دیا۔ اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اگر مؤمن کو پتہ چل جائے کہ خدا کے پاس کس قدر عذاب ہے تو وہ جہنم سے اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے۔ اس طریق سے امام بخاری منفرد ہیں۔^② ابن ماجہ میں ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے سو حصے رحمت کے بھی پیدا فرمائے۔ جن میں سے صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ اسی کے طفیل ماں اپنے بچے پر نچھاور ہوتی ہے۔ جانور اور پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ باقی ننانوے حصے قیامت کے لیے اٹھا رکھیں ہیں (پس جب قیامت ہوگی) ان کو پورا فرمادیں گے۔“

امام ابن ماجہ اس روایت میں منفرد ہیں۔ اس کے باوجود یہ حدیث صحیحین کی شرط کے مطابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی طرق سے مروی ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے اس دن یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ ایک روایت میں ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ (رحمت) اللہ کے پاس عرش پر رکھی ہے۔“^③

فرمان الہی ہے:

”خدا نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کیا ہے۔“ (سورۃ الانعام آلائیہ: 54)

دوسری جگہ فرمایا:

① مسلم الحدیث: ۶۵۹۰۸۔ ابن ماجہ الحدیث: ۳۲۹۳۔ مسند احمد الحدیث: ۵۲۶/۲۔

② بخاری الحدیث: ۵۳۶۹۔ الدر المنثور الحدیث: ۱۰۲/۳۔ ابن ماجہ الحدیث: ۳۲۹۳۔

”اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ

دیتے ہیں اور عاری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں“۔ (سورۃ الاعراف آیت: 156)

اس کے بعد ابن ماجہ ابن سلیمان کی حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ”تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ پھر خود ہی فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ (پھر خود ہی فرمایا وہ یہ ہے) کہ جب وہ ایسا کریں تو وہ ان کو عذاب نہ دے“۔^①

یہ حدیث اسود بن ہلال اور انس بن مالک عن معاذ کے طریق سے بخاری میں موجود ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے“۔ (سورۃ المدثر آیت: 56)

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے پس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ پس جو میرے ساتھ کسی کو خدا بنانے سے ڈرا تو مجھے بھی لائق ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں“۔ پھر ابن ماجہ نے سنداً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ہم حضور اکرم ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک قوم کے پاس آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ قوم دالے کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے: ہم مسلمان ہیں۔ ایک عورت تنور کو بھڑکا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ جب تنور کی لپٹ اوپر اٹھی تو وہ بچہ کو بچانے لگتی۔ حضور ﷺ اس کے پاس تشریف لائے وہ کہنے لگی کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ عورت بولی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کیا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحمت کرنے والے نہیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ عورت نے پھر سوال کیا: کیا اللہ تعالیٰ ماں کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ رحم کرنے والے نہیں ہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں۔ پھر اخروٹ اور مٹھائی کا تھال لایا گیا وہ تقسیم کیا گیا۔ پھر آپ اور وہ لوگ (بطور محبت والفت) کے ایک دوسرے سے اچکنے لگے۔^②

یہ پوری حدیث نہایت غریب ہے۔

حوض کوثر سے کچھ لوگوں کا دفع کیا جانا:

امام بخاریؒ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن میرے پاس میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے۔ ان کو حوض کوثر کے پاس آنے سے روکا جائے گا۔ میں کہوں گا یارب! یہ تو میرے اصحاب ہیں! پروردگار فرمائیں گے تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا (نئے نئے فتنے کھڑے کئے)۔ وہ دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے“۔^③ ابن ابی الدنیا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں گویا میں تم کو حوض کوثر سے آنا دیکھ رہا ہوں۔ آدی آدی سے مل رہا ہے پوچھتا ہے کیا تو نے آب کوثر پیا؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کوئی دوسرا ملتا ہے پوچھتا ہے کیا تو نے آب کوثر پیا؟ وہ

① بخاری الحدیث: ۳۷۳۳۔ مسلم الحدیث: ۱۳۳۰۔ ابن ماجہ الحدیث: ۳۲۹۲۔ مسند احمد الحدیث: ۲۳۳/۵۔

② ابن ماجہ الحدیث: ۳۲۹۷۔ بخاری الحدیث: ۶۵۸۵۔ کنز العمال الحدیث: ۳۹۱۲۳۔

کہتا ہے: نہیں ہائے پیاس!

اسماء بنت ابی بکر الصدیقؓ کی روایت:

امام بخاری فرماتے ہیں: عن سعید بن ابی مریم عن مافع عن ابن عمر عن ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں حوض پر ہوں گا حتیٰ کہ تم میں سے جو آئے گا اس کو دیکھوں گا۔ کچھ لوگوں کو مجھ سے دور بنا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا رب! یہ لوگ مجھ سے تعلق رکھنے والے اور میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھے کہا جائے گا: کیا آپ کو معلوم ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیا؟ (ابن ابی ملیکہ) (اس مقام پر) دعما لگتے تھے یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں) اس نے کہا: ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے سر مبارک جھکا لیا اور رونے لگے۔ پھر سراقندس اٹھایا اور اس سے فرمایا: اللہ تعالیٰ عذاب صرف مرد و سرکش کو ہی فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ہٹ دھرمی کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے اور سیاق غریب ہے۔ فرمان عزوجل ہے:

”اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت ہے۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا (سورۃ اللیل: الآیتان: 15-16) اور فرمایا:

”تو اس (ناعاقبت ناندیش) نے نہ تو (کلام خدا کی) تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔“

(سورۃ القیامت: الآیتان: 31-32)

نو مولود کو دودھ پلانے والی ماں سے زیادہ اللہ پاک اپنے بندے پر رحم فرماتے ہیں

بخاری میں حضرت عمرؓ بن الخطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ قیدیوں کے پاس سے گزرے دیکھا کہ ایک قیدی عورت کی چھاتی سے دودھ ٹیک رہا ہے اور وہ دوڑے جا رہی ہے۔ جب بھی کسی قیدی بچے کو پاتی ہے اس کو دودھ پلانا شروع ہو جاتی ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یہ ہرگز اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔^②

امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یوں تاکید فرمان ہے: اللہ کی قسم! اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ شفقت کرے والا ہے حتیٰ کہ یہ اپنے بچے سے شفقت رکھتی ہے۔ ابن ماجہ سنداً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”شتی (بد بخت) کے سوا جہنم میں کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! شتی کون ہے؟ فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور اس کی معصیت سے احتراز نہیں کیا۔“^③ اس روایت کی اسناد میں ضعف ہے۔ صحیح مسلم میں ابی بردہ بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دیا جائے گا اور کہا

① بخاری الحدیث: ۶۵۹۳۔ مسلم الحدیث: ۵۹۲۸۔ مسند احمد الحدیث: ۱۲۱/۶۔ بخاری الحدیث: ۵۹۹۹۔ مسلم الحدیث: ۶۹۱۲۔

② ابن ماجہ الحدیث: ۳۶۹۸۔ مسند احمد الحدیث: ۳۳۹/۲۔

جائے گا یہ جہنم سے تیری آزادی ہے۔^۱ ایک روایت میں ہے کہ کوئی مسلمان وفات نہیں پاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک بیوی یا سہرائی نو بہیم میں داخل فرمادیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بردہ و ابوالاعلیٰ مثنیٰ بن عمار سے سزا پوچھا یہ واقعہ ان سے والد نے حضور ﷺ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو انہوں نے قسم اٹھائی۔^۲ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: مسلمان قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح گناہ لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ گناہ ان سے معاف فرما کر یہود و نصاریٰ پر ڈال دیں گے۔^۳ ابن ماجہ میں ابی بردہ بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خلائق کو جمع فرمائیں گے تو امت محمدیہ کو بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونے کی اجازت مرحمت کی جائے گی۔ وہ حضور الہی میں ایک طویل سجدہ بجالائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ ہم نے تمہارے دشمنوں کو تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا فدیہ بنا دیا۔^۴

الطبرانی الکبیر میں حضرت ابو حذیفہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!!! دین میں کمزور اور اپنے آپ میں گم احمق بھی جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے آگ نے جلا ڈالا ہو گا وہ بھی جنت میں ضرور داخل ہو گا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ تعالیٰ ایسی مغفرت فرمائیں گے کہ شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ رحمت کو اس بھی شامل ہوگی۔^۵

امت محمدیہ میں سے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والوں کا بیان

بنیادی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے حدیث نقل فرماتے ہیں: میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا میں نے دیکھا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی امت جا رہی ہے۔ کسی نبی کے ساتھ ایک گروہ ہے۔ کسی نبی کے ساتھ کل دس افراد ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ صرف پانچ افراد ہیں اور کوئی نبی تنہا جا رہا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ انسانوں کا ایک جم غفیر ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے: یہ تیری امت ہے۔ ان میں سے ستر ہزار جو آگے آگے ہیں ان پر حساب ہے اور نہ عذاب۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا گیا: یہ لوگ نہ داغنتے تھے نہ لوگوں کی ٹوہ نہیں رہتے تھے۔ نہ بدفالی لیتے تھے۔ بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ حاضرین میں سے حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! دعا فرمادیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور ﷺ نے دعا فرمادی: یا اللہ! اس کو ان میں شامل کر دیں پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: عکاشہ اس میں سبقت لے جا چکے۔^۶

ستر ہزار سے متعلق ایک اور حدیث:

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے پروردگار عزوجل سے سوال کیا

- ① مسلم الحدیث: ۶۹۲۲۔ ② مسلم الحدیث: ۶۹۳۳۔ مسند احمد الحدیث: ۳/۳۹۱۔ ③ مسلم الحدیث: ۶۹۳۵۔ ④ ابن ماجہ الحدیث: ۳۲۹۱۔ مجمع الزوائد الحدیث: ۱۰/۷۰۔ ⑤ معجم الکبیر للطبرانی الحدیث: ۳۰۲۱۔ کنز العمال الحدیث: ۱۰۳۵۹۔ ⑥ بخاری الحدیث: ۵۷۵۲۔ مسند احمد الحدیث: ۱/۳۰۱۔ والحدیث: ۳۰۲۔

تھا! پس اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار اشخاص کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔ میں نے اس میں زیادتی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ہزار کے ساتھ سر ہزارہ مزید اضافہ فرمادیا۔ میں نے پھر عرض کیا اے رب! اگر میری امت کے مہاجرین اس قدر نہ ہوتے تو؟ فرمایا: تب میں یہ تعداد تیری امت کے اعرابی (دیہاتی) لوگوں کے ساتھ پوری کر دوں گا۔^①

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم (دنیا میں) آخر میں آنے والے ہیں! لیکن قیامت کے روز اولین میں سے ہوں گے۔ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ ستر ہزار نفوس پر مشتمل ہوگا، جن سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ پھر ان کے بعد جو آئیں گے ان کے چہرے آسمان کے تاروں سے زیادہ روشن ہوں گے۔ اسی طرح ان کے بعد درجہ بدرجہ۔^②

بخاری میں اسہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری امت میں سے ستر ہزار یا (فرمایا) سات لاکھ افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے حتیٰ کہ ان میں اول و آخر سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔“^③ مسند احمد میں حضرت ابو بکر الصدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے ستر ہزار افراد بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے دیئے گئے ہیں۔ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔ ان کے دل (باہم یوں شیر و شکر ہوں گے گویا وہ) ایک دل ہیں۔ پس میں نے اپنے رب سے مزید مانگا تو پروردگار نے ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار عطاء کر دیئے۔“^④

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک رات ہم نے حضور ﷺ سے بہت باتیں کیں۔ پھر صبح کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ”آج کی رات مجھے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ دکھائے گئے۔ ہر نبی گزر رہا تھا کسی کے ساتھ تین افراد تھے۔ کسی نبی کے ساتھ ایک (عصابہ) کی جماعت تھی۔ کسی نبی کے ساتھ ایک نفر تھا۔ کسی نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میرے پاس سے گزر ہوا ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ میں نے پوچھا میری امت کہاں ہے؟ مجھے کہا گیا اپنی داہنی طرف دیکھئے! دیکھا تو پہاڑ اور زمین لوگوں سے اٹے پڑے تھے۔ مجھے پھر کہا گیا اب اپنی بائیں طرف نظر ڈالئے۔ دیکھا تو سارا افق لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے عرض کیا یارب! میں راضی ہوں یارب! میں راضی ہوں۔ پھر مجھے کہا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار اور ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر نبی ﷺ نے ہم کو مخاطب ہو کر فرمایا: تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں اگر ہو سکے تو تم ستر ہزار میں شامل ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو داہنی طرف والوں میں شامل

① مسند احمد الحدیث: ۳۵۹/۲۔ مجمع الزوائد للہیثمی الحدیث: ۴۰۴/۱۰۔ ② مسند احمد الحدیث: ۵۰۴/۲۔ ③ بخاری الحدیث: ۶۵۵۴۔ مسلم الحدیث: ۵۲۵۔

مسند احمد الحدیث: ۵۲۵۔ مسند احمد الحدیث: ۲۸۱/۵۔ مجمع الزوائد الحدیث: ۴۰۷/۱۰۔ ④ مسند احمد الحدیث: ۶/۱۔ مجمع الزوائد الحدیث: ۴۱۰/۱۰۔

ہو جاؤا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بائیں طرف والوں میں شامل ہو جاؤ کیونکہ میں نے وہاں لوگوں کو بہت پریشان اور آہ و بکا میں دیکھا ہے۔ اس نے بعد حضرت عکاشہ کا قصہ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس نے بعد ہم آپس میں بصرہ کرنے لگے کہ وہ ستر ہزار افراد کون ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ یہ بات حضور ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو داغے ہیں نہ لوگوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ نہ بدفالی لیتے ہیں۔ بلکہ اپنے رب پہ پھروسہ رکھتے ہیں۔“^①

کتب احادیث میں یہ روایت بہت سے اصحاب اور طریق سے الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ منقول ہے۔ جن کو طوالت کے ڈر سے ترک کیا جاتا ہے۔ صرف ایک روایت اس ذیل میں مزید ذکر کی جاتی ہے جو احادیث بالا سے بالکل مختلف الفاظ میں منقول ہے۔ طبرانی میں حضرت ابومالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف تاریک رات کی طرح عظیم جماعت بنا کر بھیجے گا۔ جس نے زمین کو گھیر رکھا ہوگا۔ ملائکہ کہیں گے دوسرے انبیاء کے اصحاب سے کہیں زیادہ محمد ﷺ کے اصحاب ہیں۔“^②

میدان حساب سے لوگوں کے منتشر ہونے کی کیفیت ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں:

فرمان خداوندی ہے:

”اور ان کو حسرت (و افسوس) کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصلہ کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں (پڑے ہوئے) ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔“ (سورہ مریم آیت: 39)

”اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرتے ہو جائیں گے تو جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ (بہشت کے) باغ میں خوشحال ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔“ (سورہ الروم آیت: 14-16)

فرمان خداوندی ہے:

”تو دین (کے راستے) پر سیدھا منہ کئے چلے چلو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا اس روز (سب) لوگ منتشر ہو جائیں گے۔“ (سورہ الروم آیت: 43)

فرمان خداوندی ہے:

”اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا (اور) ہر ایک جماعت اپنی کتاب (اعمال) کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس بدلہ

① بخاری، الحدیث: ۳۳/۱۰۔ مسلم الحدیث: ۵۲۶۔ ترمذی الحدیث: ۲۳۳۶۔ مسند احمد: ۱/۳۰۷۔ المعجم الکبیر للطبرانی، الحدیث: ۳۳۷/۳۔ جمع الجوامع،

الحدیث: ۳۲۵۱۔ کنز العمال للہدی، الحدیث: ۳۳۵۰۷۔

جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں اس کا پروردگار انہیں اپنی رحمت (کے باغ) میں داخل کرے گا۔ یہیں مرتبہ کا بیابان ہے اور جنہوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا کہ) بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور تم بافرمان لوگ تھے اور کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے؟ ہم اس کو محض غشی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس (عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگھیرے گا اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف (سزاوار) ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب (اور) دانا ہے۔ (سورۃ الجاثیہ الآیات: 27-37)

فرمان خداوندی ہے:

”اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور (اعمال کی) کتاب (کھول کر) رکھ دی جائے گی اور پیغمبر (اور) گواہ حاضر کئے جائیں گے اور ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں! لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ تم ہمیشہ اس میں رہو گے یہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ سچا کر دیا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم بہشت میں جس جگہ چاہیں رہیں تو (اچھے) عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے؟ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ غرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں (اور) اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔“ (سورۃ الزمر الآیات: 69-75)

فرمان خداوندی ہے:

”جس روز وہ آجائے گا تو کوئی تنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بد بخت ہوں گے اور کچھ

نیک بخت۔ تو جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں (ذال دینے جائیں گے) اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ان میں رہیں گے۔ مگر جتنا تمہارا پروردگار پاپ۔ بے تک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں (داخل کر دیے جائیں گے اور) جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار پاپ ہے۔ یہ (خدا کی) بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔

فرمان خداوندی ہے:

”جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے (یعنی قیامت) کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور باغبنائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے“۔ (سورہ تغابن 109)

فرمان خداوندی ہے:

”جس روز ہم پر ہیزگاروں کو خدا کے سامنے (بطور) مہمان جمع کریں گے اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو“۔ (سورہ مریم 85-87)

فرمان خداوندی ہے:

جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے (ان سے خدا فرمائے گا) کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اس کفر کے بدلے عذاب (کے مزے) چکھو اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت (کے باغوں) میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے“۔ (سورہ آل عمران آیت: 106-107)

اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں اگر سب کو یہاں جمع کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ پس اب ہم اس موضوع کی مناسبت سے احادیث ذکر کرتے ہیں۔ وہ احادیث اس موضوع کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد پر مشتمل ہیں۔ ابن ابی الدنیا میں قاسم بن ابی الولید سے اس آیت: ”تو جب بڑی آفت آئے گی“ (النازعات 34) سے متعلق تفسیر منقول ہے وہ فرماتے ہیں یعنی جب بڑی آفت آئے گی تو اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔^①

جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص:

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا: کیا جب سورج کا مطلع بادلوں سے صاف ہو اس وقت تمہیں سورج کو دیکھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا ہوتا ہے؟

① تفسیری طبری سورہ نازعات الآیہ: ۳۳۔

صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے پھر فرمایا: کیا جب چاند کا مطلع بادلوں سے صاف ہو اس وقت تمہیں چاند کو دیکھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! فرمایا پس اسی طرح تم قیامت کے دن پروردگار کو دیکھو گے۔ جب اللہ تعالیٰ انہوں کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا: "جو شخص جس چیز کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے آئے۔ پس جو سورج کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے رہے جو چاند کو پوجتا تھا وہ اس کی اتباع کرے۔ جو سرش شیاطین کی عبادت کیا کرتا تھا وہ ان کے ساتھ آئے۔ پس یہ امت اور اس کے منافقین رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے جس سے وہ آشنا نہ ہوں گے۔ پروردگار فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں! وہ کہیں گے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہم یہیں ایستادہ ہیں تا وقتیکہ ہمارا آجائے اور ہم اس کو پہچان لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے جس سے وہ آشنا ہوں گے۔ پروردگار فرمائیں گے: میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر پروردگار کے پیچھے آئیں گے اور جہنم پر پل قائم کر دیا جائے گا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: میں سب سے پہلے اس پل سے گزروں گا۔ اس دن سب رسولوں کی زبان پر یہ دعا ہوگی: اے اللہ! سلامتی فرما اے اللہ! سلامتی فرما اور دوزخ میں مقام سعدان کے کانٹوں کے مثل (بڑے بڑے) آکنڈے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! فرمایا: بس وہ آکنڈے ان کے مثل ہوں گے۔ بس جس امت ان کی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے۔ کوئی تو اپنے عمل کی پاداش میں ہلاک ہونے والا ہوگا۔ کوئی زلت و خواری اٹھانے کے بعد نجات پا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ قصاص سے فارغ ہو جائیں گے اور جہنم سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں جس جس کو نکالنا چاہیں گے فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ پھر ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا۔ اس سے ان کے جسم یوں تروتارہ آگ آئیں گے جیسے بارش میں گھاس اگ آتی ہے۔

ایک شخص جہنم کی طرف منہ کے باقی رہ جائے گا وہ منہ پھیرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ وہ پکارے گا: پروردگار! مجھے جہنم کی (آتشیں) ہوا آرہی ہے۔ اس کی تپش مجھے جلائے دے رہی ہے۔ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ وہ مسلسل اللہ کو پکارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے تو کسی اور چیز کا سوال کرنے لگے؟ وہ کہے گا: تیری عزت کی قسم! اور کوئی..... سوال نہ کروں گا۔ پس اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جائے گا لیکن پھر وہ سوال کرے گا یا رب! مجھے جنت کے دروازے اور قریب کر دے! بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نہیں کیا تھا کہ اور کوئی سوال نہ کرو گے۔ بندہ کہے گا: تیری عزت کی قسم! اب کوئی سوال نہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے عہد و پیمان لیں گے کہ اب وہ دوبارہ کوئی سوال نہ کرے گا اور پھر اس کو جنت کے دروازہ کے قریب کر دیا جائے گا۔ وہ جنت میں پیش بہانہ دیکھے گا تو کچھ عرصہ تو خاموش رہے گا پھر بول اٹھے گا: یا رب! مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نہیں کہا تھا کہ اور کوئی سوال نہ کروں گا۔ اے ابن آدم! افسوس! تو کس قدر دغا باز ہے۔ بندہ کہے گا یا رب! مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بد بخت نہ فرما! پس وہ مسلسل اللہ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ پاک ہنسیں گے۔

جب اللہ عزوجل اس کو دیکھ کر صحتک (ہنسی) فرمائیں گے تو اس کو جنت میں داخل کی اجازت مرحمت فرمادیں گے۔ جب وہ داخل ہو جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا: اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ وہ اظہار کرے گا۔ اسے پھر کہا جائے گا: چاہو تو کچھ اور خواہش بتاؤ۔ پھر اپنی

خوابشات بتائے گا حتیٰ کہ اس کی تمنا میں اور خوابشات ختم ہو جائیں گی۔ تب اس کو کہا جائے گا تجھے یہ بھی اور اس جتنا مزید عطا کیا جائے جاتا ہے۔^①

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ شخص جس میں داخل ہونے والوں میں سے آخری شخص ہوگا (جس کا یہ اسم ہے) (گا) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے یہ حدیث سناتے وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما شروع سے حدیث ختم تک ساتھ موجود تھے لیکن ہمیں بھی انہوں نے انکار نہیں فرمایا۔ صرف یہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری الفاظ یہ سنے تھے کہ یہ اور اس سے دس گنا زیادہ دیا جاتا ہے جب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اور یہ اس اور اس جتنا اور عطا کیا جاتا ہے کے الفاظ ہیں۔

امام بخاری نے دونوں صحابہ سے دونوں الفاظ نقل کئے ہیں لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دس گنا زیادہ الفاظ یاد کئے ہیں۔ اس صورت میں اس کو قبول کیا جائے گا کیوں کہ یہ مقبول اور ثقہ شخص کی زیادتی ہے (جو تمام محدثین کے ہاں قبول ہے)

بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا جب مطلع صاف ہو اس وقت تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح بغیر کسی مزاحمت کے تم قیامت کے دن پروردگار کو دیکھو گے۔ پھر ایک منادی نداء دے گا ہر قوم جس چیز کی پرستش کرتی تھی وہ اس کے پیچھے آئے۔ پس صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ جائیں گے۔ مورتیوں کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ جائیں گے۔ ہر معبود کے عابدین اپنے معبودوں کے ساتھ جائیں گے حتیٰ کہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت گزار اہل کتاب بچ جائیں گے نیکو کار ہوں یا فاسق و گنہگار۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ وہ سراب کی طرح سامنے آئے گی (پیا سے کو وہ پانی کی طرح معلوم ہوگی) یہود سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ اچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے ہمیں پانی پلا دو۔ انہیں کہا جائے گا لو (جا کر) پی لو۔ وہ جہنم (کو پانی سمجھتے ہوئے اس) میں جا گریں گے۔

اسی طرح نصاریٰ سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح ابن مریم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ اچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے ہمیں پانی پلا دو۔ انہیں کہا جائے گا لو (جا کر) پی لو۔ وہ جہنم (کو پانی سمجھتے ہوئے اس) میں جا گریں گے۔ حتیٰ کہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بچ جائیں گے نیکو کاروں یا فاسق و گنہگار۔ ان سے کہا جائے گا سارے لوگ چلے گئے ہیں تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خدا سے جدا ہو گئے ہیں جب کہ آج ہمیں اس کی سب سے زیادہ اور اشد ضرورت ہے۔ ہم نے کسی منادی کی نداء سنی تھی کہ ہر قوم

① بخاری الحدیث: ۴۳۹۹۔ مسلم الحدیث: ۳۵۳۳۔ ابوداؤد الحدیث: ۴۷۳۰۔ مسند احمد الحدیث: ۲/۲۹۳۲۵۷۔

اپنے محبوب کے ساتھ چلی جائے۔ پس ہم اپنے رب تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جہاز عزمہ بلبل ان کے ہاں ایسی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے جس سے وہ آشنا نہ ہوں گے۔ پروردگار فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، اوہ نہیں گے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہم نہیں ایستادہ ہیں ناؤ تھیکہ، ہمارا رب آجائے اور ہم ان کو پہچان لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بی بی سے صلیب اور ایسی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے جس سے وہ آشنا ہوں گے۔ پروردگار فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں۔ وہ نہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں لیکن پروردگار سے (اس وقت) سرف انبیاء ہی کا ام کر سکیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا اس کے اور تمہارے درمیان کوئی علامت ملے ہے جس کو تم پہچانتے ہو؟ وہ نہیں گے ہاں وہ علامت ”ساق“ ہے۔ تو پروردگار ”ساق“ سے پردہ اٹھائیں گے۔ جیسے فرمان باری ہے: جس دن (ساق) پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا۔ ساق کو دیکھ کر ہر مؤمن سجدہ ریز ہو جائے گا لیکن جو اللہ کے ریا اور شہرت کا سجدہ کرتا تھا وہ پیچھے رہ جائے گا وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ پھر پل لایا جائے گا اور اس کو جہنم پر قائم کر دیا جائے گا۔

پس کوئی تو سلامتی کے ساتھ نجات پا جائے گا، کوئی زخمی حالت میں گزر جائے گا اور کوئی جہنم میں اوندھے منہ جا گرے گا۔ حتیٰ کہ آخری شخص گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ حق کا ساتھ دینے میں تم بھی اس سے زیادہ سخت نہیں ہو۔ اس دن تم کو مؤمن کے متعلق علم ہو جائے گا۔ مؤمن لوگ جبار بادشاہ سے سفارش کریں گے جب کہ وہ جہنم سے نجات پا چکے ہوں گے کہ یا اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روز رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دیگر اعمال میں شریک رہتے تھے (انہیں بھی جہنم سے خلاصی مرحمت فرما)۔ پروردگار فرمائیں گے: جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ پس وہ اپنے مؤمن بھائیوں کو نکالیں گے۔ اللہ پاک ان پر جہنم کی آگ حرام فرمادیں گے حتیٰ کہ یہ سفارشی بعض تو جہنم میں قدموں تک آگ میں گھس جائیں گے اور جس کو پہچانیں گے نکال لیں گے اور بعض نصف پنڈلی تک آگ میں گھس جائیں گے اور جس کو پہچانیں گے نکال لیں گے۔ پھر وہ لوٹ جائیں گے۔ پروردگار فرمائیں گے: دوبارہ جاؤ اور جس کے دل میں نصف دینار کے ذرہ برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لاؤ۔ پس وہ جس کو پہچانیں گے نکال لیں گے۔ پھر وہ لوٹیں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو۔ پس وہ جس کو پہچانیں گے نکال لیں گے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم کو میری بات پر یقین نہیں تو یہ آیت تلاوت کر لو:

”خدا کسی کی (ایک مثقال ذرہ برابر) ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا اور نیکی (کی) ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے

اجز عظیم بخشنے گا“ ①

پس انبیاء، ملائکہ اور مؤمنین خدا کے حضور سفارش کریں گے۔ (جب ہر سفارشی اپنے بندوں کو جہنم سے چھڑا لے گا) تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میری شفاعت باقی رہ گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹی بھریں گے اور جواب تک جہنم میں محبوس رہ گئے تھے ان کو باہر نکال دیں گے ان کو جنت کے دروازے کے قریب نہر میں ڈالا جائے گا جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ خلاصی پانے والے لوگ نہر کے بیچ یوں تروتازہ ہو جائیں گے گویا بارش کے موسم میں تروتازہ گھاس اگ آئی ہے جیسے کہ تم صحرا اور درخت کی جانب دیکھتے ہو گے پس جو

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

آفتاب کی زد میں ہوتی ہے وہ زرد و جاتی ہے اور جو مائے میں ہوتی ہے وہ سفید و جاتی ہے۔ پس وہ خلاصی پانے والے اس نہر سے چمکتے مومنوں کی صرح تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مردوں میں (ظور مامت) انگوٹھی (سے نکل مٹی کی) جمان فرمادیں گے۔ اس کو وہ کھینچ کر اہل جنت کہیں گے۔ یہ جس کے آواز کو کہہ ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اظہار کسی عمل اور نفع کے جو نہیں نے گئے تھے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ پھر ان رشتہ کے آزاد کردہ جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جو تم، مجھ سے ہو یہ اور اس کے مثل مزید عطا کیا جاتا ہے۔^①

مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے ”ورد“ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ہم قیامت کے دن ایسی ایسی حالت میں جمع ہوں گے۔ پھر اقوام کو ان کے معبودوں کے ساتھ بلایا جائے گا اول فلاول۔ پھر ہمارا رب الارباب جلوہ افروز ہوگا۔ وہ فرمائے گا تم کس کے منتظر ہو؟ وہ (مومنین) کہیں گے: ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے: ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار تبسم فرماتے ہوئے ان کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ پس مومنین اپنے رب کے ساتھ چلیں گے۔ ان میں سے ہر شخص کو مؤمن ہو یا کافر ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چلا آئے گا۔ جہنم کے پل پر آکڑے ہوں گے جسے اللہ چاہے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوں گے۔ پھر منافقین کا نور بجھ جائے گا اور مومنین نجات پا جائیں گے۔ پہلی جماعت جو نجات پائے گی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔ ان کی تعداد ستر ہزار ہوگی اور ان کا حساب کتاب نہ ہوگا۔ ان کے بعد آنے والے ایسے ہوں گے گویا آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے۔ پھر شفاعت کا باب کھلے گا۔ شفاعت ہوگی اور جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ ان کو جنت کے صحن میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت ان پر پانی بہائیں گے۔ وہ یوں تروتازہ آگیں گے جیسے بارش کے سیلاب میں دانہ اگتا ہے۔ ان کا خوف زائل ہو جائے گا۔ پھر (جنت میں) ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو دنیا اور اس کے مثل مزید دس گنا عطا کر دیا جائے گا۔^②

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ مومنین کھڑے ہوں گے حتیٰ کہ ان کے لیے جنت آراستہ کر دی جائے گی۔ مومنین اپنے باوا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے ہمارے جدا جدا! ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: تمہیں جنت سے تمہارے باپ کی خطا ہی نے تو نکلوا یا تھا؟ میں اس کا اہل نہیں ہوں تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں میں تو ویسے ہی خلیل تھا۔ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ آخر کار سب لوگ حضرت محمد ﷺ کے پاس حاضر ہوں گے۔ پس آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو (شفاعت کی) اجازت ملے گی۔ اس کے بعد امانت اور صلہ رحمی چھوڑی جائیں گی۔ وہ دونوں پل صراط پر دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی۔

پس تم میں سے کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ برق کس طرح

① بخاری الحدیث: ۷۳۳۹۔ مسلم الحدیث: ۴۵۳۔ ابوداؤد: ۳۷۳۵۔ مسند احمد الحدیث: ۲۰ (۲۹۳ و ۲۵۷)۔ ② مسلم الحدیث: ۳۶۸۔

گزرتی ہے۔ فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ آں واحد میں آتی ہے اور چل جاتی ہے۔ آگے فرمایا: اور کوئی اس کے جسم نکالنے کی طرح گزر جائے گا۔ پھر باری کی طرح اور سوار یوں کی طرح ان کے اعمال ان کو سزا جائیں گے۔ تمہارا تیسرا میل صراط پر چڑھنا ہوگا اور رب اسم ارب سلم اچھا۔ پھر چلتی کسی اعراب (گزر جانے کی وجہ سے) عبور کرانے سے کہا جازا جائیں گے۔ ایک شخص آگے گھا اور چلنے کی سزا نہ ہونے کی وجہ سے گھر پرے گا۔ پل صراط کے دونوں طرف آنکڑے معلق ہوں گے۔ جس کے متعلق ان کو قسم ہوگا اس کو پلڑا پلڑا کر جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ کوئی زخمی حالت میں نجات پا جائے گا اور کوئی منہ کے بل جہنم میں جا گرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی: جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی ستر سال ہے۔^①

ابن ابی الدنیا میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو ایک چمیل میدان میں جمع فرمائیں گے۔ جب مخلوق کے درمیان فیصلہ کا ارادہ فرمائیں گے تو ہر قوم کے لیے اس کے معبود کو ایک مجسم شکل دے دی جائے گی۔ ہر معبود کے پیچھے اس کے پیجاری آئیں گے حتیٰ کہ وہ معبودان کو جہنم میں لے جائیں گے پھر ہمارا پروردگار جلوہ افروز ہوگا اور ہم سب کو ایک بلند جگہ پر منتظر ہوں گے۔ رب تعالیٰ پوچھیں گے تم کون ہو؟ ہم عرض کریں گے: ہم مسلمان ہیں۔ پروردگار پوچھیں گے تم کس کے انتظار میں ہو؟ ہم کہیں گے ہم اپنے رب کے انتظار میں ہیں۔ پروردگار فرمائیں گے: کیا تم اس کو پوچھنا لو گے اس کو دیکھ لو؟ وہ کہیں گے: جی ہاں! پروردگار فرمائیں گے: جب تم نے اس کو پہلے سے دیکھ نہیں رکھا تھا تو پھر کیسے پہچانو گے؟ وہ کہیں گے: اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ (لہذا ہمارا دل گواہی دے گا کہ وہ وہی ہے) تب رب الارباب قسم فرماتے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے اور فرمائیں گے اے مسلمانو! تم کو بشارت ہو! کیونکہ میں نے تم میں سے ہر ایک کی جگہ ایک ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔^②

پل صراط کا ذکر:

لوگوں کے میدان محشر سے منتشر ہونے کے بعد پل صراط کا مرحلہ ہوگا۔ جہاں ظلمت کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ جس دن زمین بدل دی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا: لوگ پل صراط کے پاس ظلمت میں ہوں گے۔^③ اس مقام پر منافقین مؤمنین سے جدا ہو جائیں گے اور ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جب کہ مؤمنین آگے نکل جائیں گے۔ مؤمنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جو منافقین کو مؤمنین تک پہنچنے نہ دے گی۔ جیسے فرمان باری اسے ہے:

”جس دن تم مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان (کے ایمان) کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہے (تو ان سے کہا جائے گا کہ) تم کو بشارت ہو (کہ آج تمہارے لیے) باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں تم ان میں ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مؤمنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کرو تا کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں! تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور (وہاں) نور تلاش

① مسلم الحدیث: ۴۸۱۔ ② مسند احمد الحدیث: ۳۹۱/۴۔ ③ مسلم الحدیث: ۴۱۔ انظر انی فی الکبیر: ۸۸/۲۔

کرو پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھدی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس (دیوار) کی اندرونی جانب ہے اس میں نور مت ہے، یوں بیرونی جانب سے اس شہرت عذاب (و ذریت) کو سانس و سانسوں سے تیس سے زیادہ دنیا میں (تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں کے لوگ نہیں آتے تھے۔ نیکو کرنے والے اپنے معاملات میں آزاد اور (ہمارے حق میں) عواذ کے باشندے اور (اسلام میں) نیک کیا اور لاکھا لکھ آرزوؤں کے مقبول ہوئے، یہاں تک کہ خدا حکم آیت پچھا اور خدا کے بارے میں تم کو (شیطان و غاباز و صکا و یار ہا تو آج تم سے معاہدہ نہیں لیا جائے گا اور نہ (وہ) کافروں ہی سے (قبول کیا جائے گا) تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے (کہ) وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ (الحدیث: 12: 15۴)

نیز فرمان باری ہے:

”اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا (بلکہ) ان کا نور (ایمان) ان کے آگے اور داہنی طرف (روشنی کرتا ہوا) چل رہا ہوگا اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“ (سورۃ الاحقاریم آیت 8)

نبیہی میں حضرت مسروق حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ ایک منادی نداء دے گا: اے انسانو! کیا تم اپنے پروردگار کی جانب سے جس نے تم کو پیدا کیا، رزق دیا اور تمہاری شکلیں بنا کیں، اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اب ہر شخص اسی کو اپنا والی بنائے جس کو وہ دنیا میں اپنا والی و معبود سمجھتا تھا۔ پھر عزیر علیہ السلام کو پوجنے والوں کے لیے عزیر علیہ السلام کا مجسم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ درخت، لکڑی اور پتھر وغیرہ اشیاء (جن کی پرستش کی جاتی تھی) مجسم شکل ہو جائیں گی۔ صرف اہل اسلام باقی رہ جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا: جس طرح سب لوگ چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے: ہمارا پروردگار ہے جس کو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ پوچھا جائے گا کیا تم اپنے رب کو پہچان لو گے اگر اس کو دیکھ لو؟ وہ کہیں گے اس کے اور ہمارے درمیان ایک علامت ملے ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے پہچان لیں گے۔ پوچھا جائے گا: وہ کیا ہے؟ اہل اسلام کہیں گے ”ساق کی تجلی“ فرمایا: اسی وقت ساق کی تجلی ہوگی۔ پس جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سجدہ ریز ہو جائے گا جب کہ بعض لوگوں کی پشتیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر کرنے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ ان کو سجدہ سے سر اٹھانے کا حکم فرمائیں گے۔ پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ کسی کو اس کا نور کھجور کے عظیم الشان درخت کی طرح دابنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کسی کو اس سے کم نور اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ سب سے آخری شخص کو صرف اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر نور دیا جائے گا۔ وہ کبھی روشن ہوگا کبھی بجھے گا (پس یونہی ٹھنٹا رہے گا) جب روشن ہوگا وہ قدم بڑھائے گا۔ جب بجھے گا قدم روک لے گا۔ پھر لوگ پل صراط پر سے گزریں گے۔ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی جس پر پھسلان گرائے دے رہی ہوگی۔ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے اپنے نور کے ساتھ چلتے جاؤ۔ کوئی ستارے کے ٹوٹنے کی مانند گزرے گا، کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا، کوئی پلک جھپکنے کی طرح گزر جائے گا اور کوئی اونٹ کی سواری کی طرح ڈولتا ہوا گزرے گا۔ یوں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے جس کا نور انگوٹھے کے پور کے برابر ہوگا وہ ایک ہاتھ گھرے گا اور ایک

ہاتھ چلے گا۔ ایک پاؤں گرے گا اور ایک پاؤں چلے گا۔ اس کے اطراف کو آگ چھا رہی ہوگی۔ آخر لوگ سو کر جائیں گے اور پل صراط سے نہیں گئے۔ ہمارا حریف اللہ ہے یہ ہیں اس سے ہم دوسرے دیکھنے کے بعد بھگتے بجاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی وہ ہے جو اس کے دوسروں (سُرنے والوں) کو مہمت نہ فرمائے۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ جب بھی یہ حدیث بیان کرنے کے لئے اس مقام تک پہنچتے تو ہنس پڑتے۔ آپ کو ایک شخص نے عرض کیا: اے ابو عبد اللہ تم کیا بات ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی اور جب بھی آپ اس مقام پر پہنچتے آپ ہنسنے لگے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں نے رسول اکرم ﷺ کو کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا آپ ﷺ جب بھی اس مقام پر پہنچتے ہنس دیتے حتیٰ کہ آپ کے حلق کا کو اور آخری دائرہ مبارک نظر آنے لگتی۔

اس کے بعد حدیث کا باقی حصہ بیان فرماتے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا: اے رب العالمین! کیا آپ مجھ سے مزاح فرماتے ہیں جب کہ آپ رب العالمین ہیں؟ پروردگار فرمائیں گے نہیں بلکہ میں اس پر قادر ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عبداللہ بن مسعود ہنس پڑے۔^① بیہوشی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ملائکہ مومنین اور مومنات کا بچاؤ کر رہے ہوں گے۔ جبرئیل علیہ السلام میری حفاظت کر رہے ہوں گے اور میری زبان پر یہ دعا جاری ہوگی: اے رب! سلامتی فرما، سلامتی فرما۔ اس دن پھسلنے والے مرد و عورت بہت زیادہ ہوں گے۔^② امام ثوری، حصین، مجاہد کے توسط سے حضرت جنادہ بن ابی امیہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: اللہ کے ہاں تم اپنے ناموں، علامتوں، جگہوں، رازوں اور اپنی مجالس کے ساتھ لکھے ہوئے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا اے فلاں یہ تیرا نور ہے۔ اے فلاں تیرا کوئی نور نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”ان کا نور (ایمان) ان کے آگے اور دہنی طرف (روشنی کرتا ہوا) چل رہا ہوگا۔“ (سورۃ التحریم آیت 8)

حضرت شحاک فرماتے ہیں: قیامت میں ہر شخص کو نور دیا جائے گا لیکن جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے (جہاں تاریکی کا راج ہوگا) تو منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ مومنین یہ معاملہ دیکھ کر سرا سیمہ ہو جائیں گے کہ کہیں ان کا نور بھی نہ بجھا دیا جائے جیسے منافقین کا نور بجھا دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ دعا کریں گے: اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا فرما! اسحاق بن بشیر سنداً حضرت عباسؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو ان کے نام سے بلائیں گے اور بندوں سے اس پر پردہ رکھیں گے۔ پل صراط پر ہر مومن اور منافق کو اس کا نور عطا فرمائیں گے، لیکن جب سب پل صراط پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کے نور کو سلب فرمائیں گے۔

”منافق مرد اور عورتیں مومنین سے کہیں گے: ہماری طرف نظر (شفقت) کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی

① المستدرک للحاکم، الحدیث: ۳۷۷/۲۔ کنز العمال، الحدیث: ۳۸۶۹۹۔ المطالب العالیہ لابن حجر، الحدیث: ۳۶۱۷۔ کشف الخفاء للعجلونی ۳۱/۲۔

الترغیب والترہیب للمذہبی، الحدیث: ۳۲۸/۳۔ اتحاف السادۃ المتقین، الحدیث: ۲۸۳/۱۔ والحدیث: ۲۲۰/۲۔

حاصل کریں۔“ (الہدایہ آیہ 13)

”جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں (مل سکتی)۔“ (سورۃ النور آیہ 40)

اس وقت کہلی کسی کو یہ یاد رکھنے کا^۱ اس الہی واقعہ اور اوقات میں حضرت ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میں پہلا شخص ہوں جس کو قیامت لے دن سجدہ ریڑھ ہونے کی اجازت ملے گی اور پھر مجھے ہی سب سے پہلے سر اٹھانے کا حکم ملے گا۔ میں اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں دیکھوں گا تو تمام اقوام میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ساری امتوں کے درمیان اور حضرت نوح علیہ السلام سے اب تک آنے والوں کے درمیان آپ اپنی قوم کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وضوء کی وجہ سے میری امت کے چہرے روشن ہوں گے اور یہ خصوصیت کسی اور قوم کو میسر نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے میں اپنی قوم کو پہچان لوں گا۔ اسی طرح ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے۔ نیز ان کی پیشانیوں اور اور چہروں اور ان کے نور کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔^۲

ابن ابی حاتم سنداً حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: دمشق میں ہم ایک جنازے میں نکلے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو امامہ باہلی بھی تھے۔ جب جنازے پر نماز ادا کر لی گئی اور لوگ اس کی تدفین میں مشغول ہو گئے تو آپ جی ہنوز فرمانے لگے: اے لوگو! تم ایک ایسے گھر میں صبح و شام بسر کر رہے ہو جہاں تم نیکی بھی کما سکتے ہو اور برائی بھی۔ عنقریب تم اس گھر کی طرف جانے والے ہو یہ تنہائی کا گھر ہے، ظلمت کا گھر ہے، کیرٹوں کا گھر ہے، تنگی و مصیبت کا گھر ہے۔ لیکن جس کے لیے خدا چاہتا ہے اس کو کشادہ و فراخ فرما دیتا ہے۔ پھر تم یہاں سے قیامت قائم ہونے کی جگہ منتقل ہو گے۔ وہاں ایک موقع پر تم پر غشی چھا جائے گی۔ پھر اٹھو گے تو کسی کا منہ سفید اور کسی کا سیاہ ہوگا۔ پھر ایک اور موقع پر منتقل ہو گے وہاں تمہیں شدید قسم کی تاریکی ڈھانپ لے گی۔ پھر نور تقسیم کیا جائے گا۔ مؤمن کو نور عطا کیا جائے گا اور کافر و منافق کو اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ انہیں کچھ عطا نہ ہوگا۔ ان کی مثال قرآن میں یوں بیان فرمائی گئی ہے:

”جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں (مل سکتی)۔“ (سورۃ النور 40)

کافر اور منافق مؤمن کے نور سے مستفید نہ ہو سکیں گے جیسے اندھا بینا کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن منافق مؤمنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر (شفقت) کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کولوٹ جاؤ اور (وہاں) نور تلاش کرو (الہدایہ آیہ 13) یہ اللہ کی طرف سے ان سے دھوکہ کیا جائے گا جیسا کہ وہ اللہ سے دھوکہ کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے:

”خدا کو دھوکا دیتے ہیں (یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے) وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔“ (النساء آیہ 142)

”لہذا واپس جائیں گے جہاں نور تقسیم کیا گیا تھا لیکن وہاں کچھ بھی نہ ہوگا لہذا پھر مایوسی کے ساتھ مؤمنین کی طرف لوٹیں

① مجمع الزوائد الحدیث: ۱۰/۳۵۹ - ② مسند احمد الحدیث: ۵/۱۹۹ - مجمع الزوائد الحدیث: ۱/۲۲۵

گے۔ (یعنی پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب میں تو

رمت ہے اور بیرونی جانب بیرونی ہے اس طرف مذاب (و اذیت ہے) (تحدید: ۱۱)۔

فرماتے ہیں: یہ دیوار حضرت امیر النبیؑ کے درمیان واقع ہوگی جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے:

اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے کہ (احزاب: ۱۷)

یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ اس کے برعکس جو عبد اللہ بن عمر اور کعب احبار فرماتے ہیں کہ (قرآن میں مذکورہ دیوار) وہ بیت المقدس کی دیوار ہے، یہ ضعیف ہے اور اسراہیلی کتابوں سے منقول ہے لیکن ممکن ہے کہ ان حضرات کی مراد اس دیوار سے محض تشبیہ ہو۔ واللہ اعلم۔

ابن ابی الدنیا میں احمد سے مروی ہے کہ حضرت ابوالدرداءؓ نے حضرت سلمان کو دکھا کہ اے بھائی! دنیا سے اتنا جمع نہ کر جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ: قیامت کے دن صاحب دنیا کو لایا جائے گا جس نے اس دنیا میں خدا کی اطاعت کی ہوگی۔ اس کا مال اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ جب بھی پل صراط پر اس کو روکاٹ پیش آئے گی اس کا مال اس سے کہے گا چل چل تو نے میرے متعلق اللہ کا حق ادا کیا ہے۔ پھر اس دنیا دار کو لایا جائیگا جس نے مال میں اللہ کی اطاعت نہ کی ہوگی۔ اس کا مال اس کے شانوں پر دھرا ہوگا۔ جب بھی پل صراط پر اسے کوئی رکاوٹ پیش آئے گی اس کا مال اسے کہے گا خبردار! تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے ذرا سنبھل کر۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا حتیٰ کہ وہ خود اپنی ہلاکت اور تباہی کا پکارے گا۔^①

حضرت عبید بن عمیر فرمایا کرتے تھے: وہ ایک پل ہے اس کی بالائی سطح انتہائی پھسلن والی ہے۔ ملائکہ اس کے اطراف و جوانب میں: رب سلم! رب سلم! کہہ رہے ہوں گے۔ وہ پل صراط جنہم کے اوپر تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اب پر بڑے بڑے کانٹے لوگوں کو اچک رہے ہوں گے۔ اللہ کی قسم! ایک کانٹے کے ساتھ ربیعہ اور مضر سے زیادہ لوگ اچک لئے جائیں گے۔ یہ (دونوں قبیلے لاکھوں کی تعداد میں تھے) سعید بن ہلال سے مروی ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ قیامت کے دن جنہم پر پل صراط بعض لوگوں کے لیے بال سے زیادہ باریک ثابت ہوگا جب کہ بعض لوگوں کے لیے کشادہ زمین کی طرح ہوگا۔ (رواہ ابن ابی الدنیا)^② ابو اعظہ زہد فرماتے ہیں: مجھے خبر ملی ہے کہ پل صراط تین ہزار سال کا راستہ ہے۔ ایک ہزار سال چڑھائی ہے۔ ایک ہزار سال برابر سطح ہے اور ایک ہزار سال اترائی ہے۔

حضرت سالم بن ابی الجعد نے فرمایا: پل صراط تین پل ہیں۔ ایک پر امانت، دوسرے پر صلہ رحمی اور تیسرے پر خود اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ یہی مرصاد ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جو شخص پہلی دو جگہ سے بچ گیا تیسرے سے تو نجات بہت مشکل ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔ (سورۃ الفجر آیت ۱۴)

حضرت عبید اللہ بن النضر فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط کو امانت اور صلہ رحمی کے درمیان پھیلادیا جائے گا۔ ایک منادی نداء دے گا: اے لوگو! جس نے امانت ادا کی اور صلہ رحمی کی وہ بغیر کسی خوف کے امن و سکون کے ساتھ پار ہو جائے۔ (رواہ ابن ابی الدنیا)

① مصنف عبدالرزاق الحدیث: ۲۰۰۲۹۔ اتحاف السادۃ المستنیرین للزبیدی الحدیث: ۱۳۶/۸۔ حلیۃ الاولیاء الحدیث: ۲۱۴/۱۔

② اتحاف السادۃ المستنیرین للزبیدی الحدیث: ۲۸۴/۱۰۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

ابن ابی الدنیا میں عبدالرحمن سے مروی ہے کہ کندہ کے ایک شخص نے مجھ بتایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ میرے اور آپ کے درمیان پردہ تھا۔ تم اس نے عرض کیا: ہر سال میں ایک نخلس آپ مجھے اپنے نخلس اور نخلس اور جویریہ خاتون کے پاس آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کس قبیلہ سے ہوا؟ میں نے عرض کیا کندہ سے۔ پھر پوچھا کس لشکر سے؟ میں نے عرض کیا اہل نخلس سے۔ پوچھا کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ پر جہنم ایک ایسا وقت آنے کا کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی شفاعت کرنے کے مالک نہیں ہوں گے! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہاں میں نے آپ کو یہ حدیث سے یہ سوال کیا تھا جب کہ میں اور آپ ایک ہی بستر پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں (نخلس مواقع میں میں بھی شفاعت نہیں کر سوں گا ایک تو) جس وقت پل صراط رکھا جائے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا..... جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا۔

اسی طرح جب کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے (جب بھی مجھے کسی چیز کا اختیار نہ ہوگا) جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پل صراط پر جب وہ تیز اور نرم کیا جائے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! تیز اور نرم کئے جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا پل صراط کو اس قدر تیز کیا جائے گا کہ وہ تلوار کی دھار کی طرح باریک رہ جائے گا اور اس قدر نرم کیا جائے گا کہ انگارے کی طرح دیکھے گا لیکن مؤمن اس پر سے امن کے ساتھ گزر جائے گا اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا منافق درمیان میں پہنچے گا تو ٹنک جائے گا اور اس کو قدموں میں تپش محسوس ہوگی۔ وہ اپنے قدموں تک لے جائے گا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس کو قدموں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ فوراً پاؤں کی طرف لپکتا ہے۔ اسی طرح وہ منافق اپنا ہاتھ اور سر قدموں کی طرف لے جائے گا۔ اسی اثناء میں زبانیہ (جہنم کے فرشتوں کی ایک جماعت) اس کو پیشانی (کے بالوں) اور قدموں سے کھینچ لے گی اور جہنم میں پھینک دے گی۔ وہ جہنم میں پچاس سال تک گرتا ہی رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ اس آدمی کا جشہ کتنا ہوگا فرمایا: دس گا بھن اونٹنیوں کی طرح عظیم۔ پس اس دن مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لئے جائیں گے لہذا ان کو پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

فصل

فرمان الہی ہے:

”تمہارے پروردگار کی قسم! ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے (اور وہ) گھٹنوں پر گرے ہوئے (ہوں گے) پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں کوئی (شخص) نہیں مگر اسے اس پر گزرتا ہوگا تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل پڑا ہوا چھوڑیں گے“۔ (مریم آیہ 68 تا 72)

اللہ تعالیٰ اپنی ذات کریم کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ وہ بنی آدم کو جمع فرمائیں گے پھر شیطان کے بچاریوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال

دیں گے جیسے فرمایا:

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

”اور تم ہر ایک فرقے کے دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا (اور) ہر ایک جماعت اپنی کتاب (اعمال) کی طرف بلائی جائے گی۔“ (الحاشیہ: 28)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جنہی کھڑے ہوئے جہنم کی ہولناکی اور اس کے کرب و منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں اس میں داخلہ یقین ہوگا۔ بیسے فرمان باری ہے:

”اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گر رہیں گے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی تمنا نہیں پائیں گے۔“

”جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ (اس کے جوش (غضب) اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں (زنجیروں میں) جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے (ان سے کہا جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارا بہت سی موتوں کو پکارو۔ پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے یہ ان (کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا) وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے (میسر) ہوگا۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ خدا کو (پورا کرنا) لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔“ (الفرقان آیہ 12-16)

نیز فرمان الہی ہے:

”تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر اس کو ایسا دیکھو گے (کہ) عین البقین (آجائے گا) پھر اس روز تم سے (شکر) نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی؟“۔ (الحاکم آیہ: 8۳6)

جہنم پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا:

پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ہر شخص اس جہنم کو ضرور دیکھے گا۔ فرمان الہی ہے:

”اور تم میں کوئی (شخص) نہیں مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے اور مقرر ہے۔“ (مریم آیہ: 71)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ قسم خدا کی واجب ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے تین بچے وفات پا گئے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور وہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے جہنم پر سے گزرے گا۔^① مسند احمد میں معاذ بن انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے مسلمانوں کی (عدم موجودگی میں ان کے گھروں اور اموال کی) اللہ کی رضاء کے لیے نگہبانی کی اور سلطان کی اجرت وغیرہ کو پیش نظر نہ رکھا تو جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔^② فرمان الہی ہے:

”اور تم میں کوئی (شخص) نہیں مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا۔“ (مریم آیہ: 72)

① بخاری الحدیث: ۶۶۵۶۔ مسلم الحدیث: ۶۶۳۹۔ ترمذی الحدیث: ۱۰۶۰۔ النسائی الحدیث: ۱۸۷۳۔

② مسند احمد الحدیث: ۳/۳۳۷۔ مجمع الزوائد للبیہقی الحدیث: ۵/۲۸۷۔

ہر ایک کو اس پر سے گزرتا ہوگا یہ ترجمہ ہے "وان منکم الا وادھا" کا مفسرین و ارحام کی تفسیر میں مختلف آراء رکھتے ہیں کہ رو سے یا مراد ہے "مختلف فرماتے ہیں"۔ پہلی آیت (ان تیرا میں اس آیت "السبوح علی الصراط" کے بارے میں آئی ہیں اس طرح ہے۔
 ہے۔ گزرتا۔ آگے فرمان الہی کا ترجمہ ہے:

www.KitaboSunnat.com

پھر ہم پر بیڑ کا روں کو بجات دیں گے اور خانموں کو اس میں گنہوں سے بل پر اہل اچھاریں گے۔ (امام احمد: ۱/۲۷۲)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: جمعی یعنی بخار ہر مومن کا حصہ ہے۔ یعنی ہر مومن کو جہنم سے گزرتے وقت لم ازم بخار کی کیفیت ضرور لاحق ہوگی۔ ورود کا یہ مطلب ہے۔ مفسر ابن جریر فرماتے ہیں اس کے مثل ہم سے بیان کیا گیا ہے لہذا وہ سندا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ اپنے اصحاب میں سے کسی کی عیادت کو نکلے جس کو بخار تھا۔ میں بھی آپ ﷺ کے ہمراہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ (بخار) میری آگ ہے جس کو میں اپنے مومن بندے پر بھی مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں جہنم کی طرف سے اس کا بدل و حصہ ہو جائے۔^۱ اس روایت کی اسناد حسن صحیح ہے۔

سندا احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے "وان منکم الا وادھا" کی تفسیر میں منقول ہے حضور ﷺ نے فرمایا: اس پر تمام

لوگ وارد ہوں گے۔ پھر (تمام لوگ اپنے) اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے اتریں گے۔^۲

امام ترمذی نے سدئی سے مرفوعاً و موقوفاً دونوں طرح اس کو نقل کیا ہے۔ امام ترمذی کے علاوہ بہت سے شیوخ نے سدئی کے توسط سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں: تمام لوگ پل صراط پر آئیں گے یعنی جہنم کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق صراط سے اتریں گے کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح اسے عبور کریں گے۔ کچھ لوگ تیز رفتار اونٹ کی طرح اور کچھ آدمی کے دوڑنے کی رفتار کے مطابق پل صراط کو عبور کریں گے حتیٰ کہ سب سے آخر میں جو شخص گزرے گا اس کے ساتھ صرف اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر نور ہوگا۔ وہ پل صراط پر ڈمگائے گا۔ جب کہ پل صراط پر پھسلن بھی بے انتہاء ہوگی۔ مزید برآں اس پر کانٹے قناد (کے درخت) کی طرح ہوں گے۔ پل صراط پر دونوں اطراف میں ملائکہ ہوں گے ان کے ساتھ جہنم کے آکڑے ہوں گے۔ جن کے ساتھ وہ لوگوں کو کھینچ رہے ہوں گے۔^۳

سفیان ثوری نے سلمہ بن کہیل عن ابی الزبیر کے طریق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ پل صراط کا حکم فرمائیں گے اور اس کو جہنم پر بچھا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق (رفقار کے ساتھ) اس پر سے گزریں گے۔ ان میں پہلا شخص بجلی کی کوند کی طرح گزر جائے گا۔ پھر ہوا کی طرح۔ پھر تیز رفتار جانور کی رفتار کی طرح حتیٰ کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا گزرے گا۔ کوئی شخص پیدل چلتا ہوا پھر سب سے آخر والا اپنے پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ وہ کہے گا اے رب! مجھے تو نے اس قدر ست رفتار کیوں کر دیا؟ پروردگار فرمائیں گے تجھے ست رفتار میں نے نہیں بلکہ تیرے اعمال نے کیا ہے۔^۴

۱۔ تہذیب فی السنن الکبریٰ الحدیث: ۳۸۲/۳۔ سند احمد ابن ابی شیبہ الحدیث: ۲۲۹/۳۔ السادة المستمین الحدیث: ۵۲۹/۹۔ ترمذی الحدیث: ۳۱۵۹۔ سند

احمد الحدیث: ۳۳۵/۱۱۔ الدارمی الحدیث: ۳۲۹/۲۔ ترمذی الحدیث: ۳۱۵۹۔ سند احمد الحدیث: ۳۳۵/۱۱۔ الدارمی الحدیث: ۳۲۹/۲۔

۲۔ تاریخ بغداد للخطیب بغدادی الحدیث: ۳۸۰/۳ الضعیفۃ اللابانی الحدیث: ۳۲۶۔

حافظ ابو نضر الوائلی کی کتاب "الایات" میں سدا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو یہ سن لیتے کہ تم لوگوں کو دوزخ کا گھر بنا کر رکھے گا۔ اگر وہ یہ یاد رکھے کہ میں سدا سے پہلے آپ کی حسن اور بے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی مات مان نہ کرے۔ یہ غریب الاستاد ہے۔ اس کا متن حسن ہے۔ (ماہنامہ ترجمی) نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ خالد بن معدان سے منقول ہے کہ اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے: کیا ہمارے رب نے ہم سے جہنم پر تگن کرنے کا وعدہ نہیں کیا؟ کہا جائے گا: تم اس پر گزرے تھے لیکن وہ نبھی ہوئی تھی۔^① بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ورود سے مراد دخول ہے۔ اس کے قائل ابن عباس، عبداللہ بن رواحہ اور ابو یوسف وغیرہ ہیں۔ مسند احمد میں ابو یوسف سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ورود کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔

بعض نے کہا مؤمن اس میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض کہنے لگے کہ ہر شخص اس میں داخل ہوگا لیکن پھر اللہ تعالیٰ مؤمنین کو نجات عطا فرمادیں گے۔ آخر ہم اپنے اختلاف کو لے کر حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: سب لوگ بل صراط میں داخل ہوں گے۔^② حضرت سلمان فرماتے ہیں سب اس میں داخل ہوں گے اور پھر اپنے کانوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو۔ نیکو کار ہو یا گناہ گار ہر شخص اس میں داخل ہوگا لیکن مؤمن کے لیے وہ امن و سلامتی بن جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو گئی تھی حتیٰ کہ لوگوں کی اس پر چلنے سے چیخ و پکار بلند ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان تلاوت فرمایا:

”پھر ہم پر ہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل پڑا ہوا چھوڑیں گے۔“ (سورہ مریم آیت 71)

محدثین نے اس کو کتابوں میں تخریج نہیں فرمایا لیکن یہ روایت حسن کے درجہ پر ہے۔ ابو بکر بن سلیمان نجار سنداً فرماتے ہیں کہ یعلیٰ بن منبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ: قیامت کے روز جہنم مؤمن کو کہے گی: اے مؤمن! جلدی پار ہو جا تیرا نور میری آگ کو ماند کر رہا ہے۔^③ یہ حدیث نہایت غریب ہے۔ ابن مبارک سفیان سے وہ کسی اور راوی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں: کہ (مومن) لوگ کہیں گے کہ کیا پروردگار نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ ہر شخص جہنم پر سے گزرے گا؟ کہا جائے گا: تم اس پر سے گزر آئے ہو لیکن وہ نبھی ہوئی تھی۔^④ ایک روایت میں خالد بن معدان سے منقول ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کیا ہمارے رب نے نہیں کہا تھا کہ ہم جہنم پر سے گزریں گے؟ کہا جائے گا: تم اس پر سے گزرے تھے لیکن وہ خاکستر ہو چکی تھی۔

ابن جریر میں غنیم بن قیس سے مروی ہے: لوگوں میں جہنم کا تذکرہ ہوا تو فرمانے لگے: آگ لوگوں کو چھوئے گی اور ان کے گرد بالہ کی صورت میں پھرے گی حتیٰ کہ لوگوں کے پاؤں جھلسیں گے نیک ہوں یا بد۔ لیکن پھر ایک منادی ندا دے گا: (اے آگ) اپنے اصحاب

① مسند احمد الحدیث: ۳/۳۲۸۔ ② مسند احمد الحدیث: ۳/۳۲۹۔ ③ حلیۃ الاولیاء، لابی نعیم الحدیث: ۹/۳۲۹۔ ④ تاریخ بغداد الحدیث: ۱۹۳/۵۔ کنز العمال

الحدیث: ۳۹۰۲۹۔ ⑤ مجمع الزوائد الحدیث: ۱۰/۳۶۰۔ الزبد فی الزیادات لابن المبارک الحدیث: ۴۰۷۔ ⑥ مجمع الزوائد الحدیث: ۱۰/۳۶۰۔

کو روک لے لیکن میرے اصحاب کو چھوڑ دے۔ پس جنہم اپنے دوست کو ایک لے گی اور مؤمنین کو ہاتھوں سے باہر نکال دے گی۔^①
حضرت کعب احبار سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ مسند احمد میں زید بن حارثہ کی بیوی ام یسرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ حضرت کعب سے فرمایا: آپ ﷺ نے فرمایا: یہ میں شہید ہونے والوں میں سے کوئی شخص جنہم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت حفصہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اور تم میں کوئی (انہیں) نہیں نکرا سے اس پر سے گزرنا ہوگا؟ حضور ﷺ نے جواب میں اسی آیت کا اگلا حصہ تلاوت فرمایا:

”پھر ہم پر ہیزاروں کونجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑیں گے۔“ (مریم آیت: 71، 72)^②

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں: محمد ﷺ کو سب سے پہلے (پل صراط پر گزرنے کی) اجازت ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر موسیٰ پھر ابراہیم حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ جب تمام مؤمنین پل صراط سے خلاصی پا جائیں گے تو (جنت کے داروغے) خزینہ ان سے بیس گے وہ ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ صحیح میں ہے کہ جس نے اپنے مال میں سے کسی چیز کی دو جوڑیاں اللہ کی راہ میں خرچ کیں اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو اہل صلاۃ میں سے ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا جو اہل الزکوٰۃ میں سے ہوں گے ان کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا۔ جو اہل الصوم (روزے دار) ہوں گے وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا کوئی شخص نہ ہوگا کہ وہ جس دروازے سے چاہے اسے اسی سے بلایا جائے؟ کیا کسی کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اور مجھے امید ہے کہ تم وہ شخص ہو گے یا ابابکر!^③

جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی اپنے گھروں کی طرف راہنمائی کی جائے گی۔ وہ دنیا کے گھروں سے زیادہ اپنے گھروں میں واقف اور مانوس ہو جائیں گے۔ امام طبرانی سنن حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جنت میں بغیر اجازت نامہ کے کوئی داخل نہیں ہوگا: (اجازت نامہ یوں ہوگا): بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا پروانہ ہے فلاں شخص کے لیے۔ اس کو عالی شان جنت میں داخل کر دو جس کے خوشے قریب ہیں۔^④ امام ترمذی نے اپنی جامع میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پل صراط پر مؤمن کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں: رب سلم! رب سلم! امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت غریب ہے اور صحیح مسلم میں ہے: تمہارا نبی کہہ رہا ہوگا: رب سلم! رب سلم! نیز یہ بھی آیا ہے کہ تمام انبیاء اور ملائکہ یہی الفاظ کہہ رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مؤمن پل صراط سے نجات پا جائیں گے تو جنت و جنہم کے درمیان ایک پل پر روک لئے جائیں گے پھر ان کے درمیان دنیا میں ہونے والے مظالم کا قصاص لیا جائے

① تفسیر الطبری: س: مریم، الآیۃ ۷۱ والحدیث: ۱۱۲/۹۔ ② مسند احمد الحدیث: ۳۶۲/۶ والحدیث: ۲۸۵/۳۔ ③ بخاری الحدیث: ۱۸۹۷۔ مسلم الحدیث: ۲۳۶۹۔ ترمذی الحدیث: ۳۶۷۳۔ مسند احمد الحدیث: ۲۶۸/۲ والحدیث: ۳۶۶/۲۔ ④ الخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد الحدیث: ۵/۵ الحدیث: ۹۵/۷۔ العلل المتماہیۃ لابن الجوزی الحدیث: ۲۳۶/۳۔ ⑤ ترمذی الحدیث: ۲۳۳۳۔ ⑥ مسلم الحدیث: ۳۸۱۔

گاتھی کہ جب وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخلہ کی اجازت ملے گی اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت میں (بہتر جملات کے علاوہ) دنیاوی گھر بھی ہوگا۔¹ امام قرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ دوسرا پل جو زمین کے لیے نہ ص۔ ہوگا اور اس سے کوئی گھر جنم میں بھی نہ بنائے گا۔ - منہ فرماتے ہیں کہ یہ پل جنم دور کرنے کے بعد ہوگا اور کسی گڑھے پر قائم ہوگا جس کو جنم نہیں جانتے وہ صرف خدائے بزرگ کے علم میں ہے۔ ابن ابی الدنیا میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے: جنم کو میرے نطفہ و درگزر کے ساتھ عبور کرو اور جنت میں میری رحمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور اپنے فضائل اعمال کے ساتھ وہاں درجات تقسیم کر لو۔ یہ حدیث غریب ہے۔ امام قرظی نے التذکرۃ میں بعض واعظین کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں: اے میرے بھائی کچھ خیال کر کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو پل صراط عبور کرے گا اور تو جنم کی طرف دیکھے گا کہ اس کے نیچے سیاہ لیمیں اٹھ رہی ہوں گی۔ اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اس کے انگارے اڑ رہے ہوں گے تو اس پر چلتے ہوئے کبھی سیدھا ہوگا تو کبھی ڈگمگائے گا۔ نعر

”اپنے نفس کو نیکی کمانے میں مشغول کر لے کیونکہ جب بندگان خدائے بزرگ کے روبرو پیش ہوں گے اس وقت تیرا کیا حیلہ کام آئے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن گناہوں کے پہاڑ لئے اٹھیں گے۔ ان کے لیے پل صراط نصب کر دی جائے گی تاکہ اس کو (اپنے اعمال کے مطابق) عبور کریں! افسوس! کہ بہت سے لوگ مونہوں کے بل اوندھے گر جائیں گے لیکن کچھ نیک بخت نعتوں کے محلات کو سدھاریں گے، جنتی دوشیزائیں اپنے حسن و جمال کے ساتھ اس کا استقبال کریں گی۔ نگہبان پروردگار ان کو فرمائیں گے اے میرے دوست! میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیئے۔ اب تو کچھ پرواہ نہ کر۔“

فصل:

فرمان الہی ہے:

”جس روز ہم پر ہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے (تو لوگ) کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو“۔ (مریم آیۃ 85 تا 87)

حدیث میں وارد ہے کہ جنت سے عمدہ سواریاں لائی جائیں گی جن پر وہ سوار ہوں گے۔² ایک اور حدیث میں ہے جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اسی وقت ان کے لیے سواریاں حاضر کر دی جائیں گی۔ لیکن اس حدیث میں نظر ہے کیونکہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے۔ سب لوگ (میدان محشر کی طرف) پیادہ پا جمع کئے جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اذان دے رہے ہوں گے۔ جب وہ ’اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ‘ کہیں گے تو اولین و آخرین آپ کی تصدیق کریں گے۔³

لہذا اگر قبر کے بعد یہ سواری صرف رسول اللہ ﷺ کے لیے خاص ہو تو پہلی حدیث کا مطلب ہوگا کہ پل صراط عبور کرنے کے بعد

1 بخاری الحدیث: ۲۳۴۰۔ مسند احمد الحدیث: ۹۳/۳۔ 2 بیہقی الحدیث: ۶۶۹۔ 3 ایضاً۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

ان کے لیے ساریاں انکی جائیں گی۔ یہی زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم۔ حدیث صورتوں میں آیت کے جب مؤمنین علیہم السلام اور عبادہ کے لیے ان کے لیے حوضوں کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے (جنت کا دروازہ کھولنے کی اسحاش کریں گے۔ پھر یونس ابراہیم موسیٰ شعیب علیہم السلام سے بالترتیب سفارش کریں گے اور سب سے آخر میں سرکار دو جہاں فرخروہ بن و مہکان حضور ﷺ کے پاس آ حاضر ہوں گے۔ پس آنحضرت ﷺ سب کے لیے سفارش فرمائیں گے۔

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلوادوں گا۔ جنت کا دروغہ کہے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: میں محمد (ﷺ) ہوں۔ داروغہ کہے گا آپ ہی کے لیے مجھے حکم ملا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔^① صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے روز میرے قبعین سب انبیاء سے زیادہ ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ مؤمنین کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے جنت آراستہ و پیراستہ کر دی جائے گی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے ہمارے والد بزرگوار! ہمارے لیے شفاعت فرمائیے وہ فرمائیں گے تمہارے باپ کی خطا ہی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا لہذا میں اس کا اہل نہیں۔^②

یہ روایت اس بات کی قوی شہاد ہے کہ مؤمنین انبیاء کے پاس دو مرتبہ شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ دوسری مرتبہ آنا جات میں داخلہ کی شفاعت کے لیے ہوگا۔ پہلی مرتبہ حساب کتاب کے لیے جانے کی شفاعت کے لیے ہوگا اور دونوں مرتبہ حضرت محمد ﷺ ہی شفاعت فرمائیں گے۔ عبد اللہ بن امام احمد سے فرماتے ہیں کہ ہمیں سوید بن سعید نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے کہ آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

”جس روز ہم پر ہیزگار کو خدا کے سامنے (بطور مہمان) جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔“ (مریم آیہ 85-86)

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! (مؤمنین) لوگ پیادہ پائیں جمع ہوں گے اور نہ ہی یہ وفد (متقین) پیادہ پا جمع کیا جائے گا بلکہ ایک ایسی اونٹنی ہوگی کہ مخلوق نے اس کے مثل کوئی نہ دیکھی ہوگی۔ اس پر سونے کے پالان پڑے ہوں گے جن پر وہ سوار ہوں گے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہوں جائیں گے۔^③ ابن ابی حاتم اور مفسر ابن جریر نے اس کو عبد الرحمن بن اسحاق کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ اضافہ بھی فرمایا ہے: اس پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور زبرد کے پتھر اس پر جڑے ہوں گے۔ ابن ابی حاتم اپنے والد ابو حاتم کی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ابو معاذ بصری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿یوم نحشر الی الرحمن وفداً﴾

① مسلم الحدیث: ۳۸۵۔ ② مسلم الحدیث: ۳۸۱۔ ③ مسند احمد الحدیث: ۱۵۵/۱

”جس روز ہمیں دیکھنا کا روزوں کو خدا کے سامنے (بظور مہمان) جمع کریں گے۔ (مریمہ آیت: 85)

اس کے بعد جس کجا پار رسول اللہ ﷺ میں یہ سمجھتا ہوں کہ (مستبین کا) وفد سوار ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں یہ نبی جان ہے اور سب وہ اپنی قوم سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا استقبال ہوگا اور ان کے لیے سفید رنگ کی اونٹنیاں اڑتی جائیں گی جن کے پر بھی ہوں گے ان پر سونے کے کجاوے بندھے ہوں گے۔ ان لوگوں کے جو قوس کے تسمے نور کے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے۔ وہ اونٹنی بر قدم خدا کا ہتک بھرے گی۔ پھر وہ ایک درخت کے پاس پہنچیں گے۔ اس کی جڑ سے دو چٹھے پھونٹے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے سے پانی پیئیں گے۔ اس سے ان کے شکموں کی تمام نجاسات زائل ہو جائیں گی۔ پھر دوسرے سے وہ غسل کریں گے جس کی وجہ سے ان کی جلدیں گندی ہونے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ نعمتوں کی تروتازگی ان کے بشرے سے ظاہر ہوگی۔ وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے۔ وہاں (جنت کے دروازے پر) سونے کے کواڑوں پر سرخ یا قوت کے حلقے (کنڈے) پڑے ہوں گے۔ وہ کنڈے سے کواڑوں کو دستک دیں گے تو ایک انتہائی سریلی اور بلند آواز پیدا ہوگی۔ وہ آواز ہر حور تک پہنچ جائے گی اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے شوہر آگئے ہیں۔ وہ جنت کے داروغہ کو بھیجیں گی وہ آ کر دروازہ کھولے گا۔ جنتی شخص داروغہ (کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اسے خدا سمجھ بیٹھے گا اور اس) کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ داروغہ کہے گا: اپنا سر اٹھا میں تو تیرا نگہبان ہوں تیری خدمت مجھے سونپی گئی ہے۔ پھر وہ جنتی اس کے پیچھے چلا آئے گا۔ جنتی حور اس کے دیدار کے مشتاق میں ہلکی ہو رہی ہوگی۔ وہ موتی اور یا قوت کے خیمہ سے نکل آئے گی اور اس کے گلے لگ جائے گی پھر کہے گی تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں۔ میں ہمیشہ رہوں گی۔ مجھے کبھی فنا نہیں۔ میں ہمیشہ تروتازہ رہوں گی، میرا حسن کبھی ماند نہیں پڑے گا۔ میں تجھ سے ہمیشہ راضی رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوگی میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔

پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے چھت تک سوگڑ اونچائی ہوگی۔ لولو کی چٹان پر اس کی بنیاد قائم ہوگی۔ اس کے ستون سرخ سبز اور زرد رنگ کے ہوں گے۔ کوئی ستون دوسرے سے مشابہت نہ رکھتا ہوگا۔ ایک کرے میں ستر تخت ہوں گے۔ ہر تخت پر ستر بستر ہوں گے اور ہر بستر پر ستر حوریں ہوں گی۔ ہر حور کے جسم پر ستر جوڑے ہوں گے۔ اس کے باوجود ان ستر جوڑوں کے پار اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ تمہاری ان راتوں کے حساب سے ایک رات میں ایک حور سے جماع پورا ہوگا۔ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کچھ نہریں صاف پانی کی ہوں گی، کچھ نہریں دودھ کی جس کا مزہ کبھی نہ خراب ہو، وہ دودھ کسی جانور کے تھنوں سے نہ دو با گیا ہوگا۔ کچھ نہریں شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے خوب سرور انگیز ہوں گی۔ جس کو لوگوں نے اپنے پاؤں سے نہ نچوڑا، دوگا اور کچھ نہریں شہد کی ہوں گی۔ وہ شہد کی مکھی سے نہ نکلا ہوگا۔ ہر طرف پھل دار درختوں کی فراوانی ہوگی۔ چاہے کھڑا ہو کر کھائے یا تکیہ لگا کر کھائے۔ پھر آپ ﷺ نے ایک آیت فرمائی جس کا ترجمہ ہے:

”ان سے (شر دار شائیں اور) ان کے لیے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھلکے ہوئے ہوں

گے۔ (سورۃ الانسان آیت: 14)

بندے کو کھانے کی اشتہاء ہوگی تو اس کے پاس ایک سفید پرندہ آ جائے گا یا فرمایا:

”سبز پرندہ آئے گا۔ پرندہ اپنے پر اٹھائے گا تو جنتی اس کے پہلو سے رنگارنگ مزیدار گوشت کھائے گا۔ پھر اڑ جائے گا۔ پھر ایک نرشتہ داخل ہوگا اور سلام کرے گا اور بے گا۔ یہ جنت جس کے ہم مالک کر دیئے گئے تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔“ (سورۃ الفرقان آیت 72)

اگر جنتی حور کے بالوں میں سے ایک بال زمین پر گر جائے تو سورج کی روشنی کے باوجود اندھیرا چھا جائے۔ (مسند احمد الحدیث: ۵۵/۱) اس روایت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موقوف ہونا قرین صحت ہے۔ ابوالقاسم البغوی کی سند سے عاصم سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنم کا ذکر کیا اور بہت وضاحت کے ساتھ کیا جسے میں یاد نہ رکھ سکا پھر آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے):

”اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔“ (سورۃ الزمر آیت 73)

پھر فرمایا: جب جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کے پاس ایک درخت پائیں گے اس کے نیچے سے دو چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ جنتی ایک چشمے کی طرف یوں بڑھیں گے گویا ان کو اس کا حکم ملا ہے۔ اس سے پانی پیئیں گے، جس کی وجہ سے ان بیڑوں کی ساری گندگی، تکلیف اور مصیبت نکل جائے گی۔ پھر وہ دوسرے چشمے کا رخ کریں گے اور اس میں غسل کریں گے جس سے ان کے جسم پر نعمتوں والی تروتازگی ابھر آئے گی۔ اس کے بعد نہ ان کے بال خراب ہوں گے اور نہ کبھی ان کے سر پر اگندہ ہوں گے ان کے سر گویا ان پر تیل لگا دیا گیا ہے۔ پھر وہ جنت میں پہنچیں گے تو جنت کا داروغہ ان سے کہے گا تم پر سلامتی ہو تم خوش و خرم رہو اور جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر خوبصورت بچے انہیں گھیر لیں گے جیسے دنیا میں بچے اپنے عزیزوں کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ بچے ان کو کہیں گے: بشارت ہو اللہ نے تمہارے لیے یہ یہ تیار کر رکھا ہے۔ پھر ان بچوں میں سے ایک بچہ اس جنتی کی حوروں میں سے ایک حور عین کے پاس آئے گا اور اس جنتی کا دنیاوی نام لے کر کہے گا فلاں شخص آیا ہے۔ حور عین کہے گی: کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائے گی اور دروازے کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوگی۔ جنتی جب اپنے محل میں پہنچے گا تو اس کی نظر محل کی بنیاد پر پڑے گی وہاں لولو موتی کی چٹان نظر آئے گی۔ اس کے اوپر سرخ پتھر اس پر سبز، سبز پر زرد، غرض ہر رنگ کا پتھر ہوگا۔ اس طرح قیمتی موتی کے پتھروں کے ساتھ چٹائی ہوگی۔ پھر نظر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھے گا وہاں بجلی کی چمک ہوگی۔ اگر اللہ نے نہ لکھ رکھا ہوتا تو اس کی بنائی ہی چلی جاتی۔ پھر نظریں پھرائے گا تو اس کی بیویاں، مزین برتن، قطار درقظاؤ گاؤتیکے اور اعلیٰ مسندیں کچھی ہوئی پائے گا۔ پھر وہ ٹیک لگا لے گا اور کہے گا: خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کاراستہ دکھایا اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پاسکتے۔

”بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے اور (اس روز) منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلہ

میں جو (دنیا میں) کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیئے گئے ہو۔“ (اعراف: 43)

پھر ایک منادی ندا دے گا: تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے۔ یہیں مقیم رہو گے، یہاں سے کبھی کوچ نہ کرو گے۔ ہمیشہ تندرست

اور صحت مند رہو گے، کبھی مرض نہ آئے گا۔ یہ ساری تر و تارگی جنت میں دخول سے قبل دو نہروں سے حاصل ہوگی اور یہ خیال کہ مؤمنین کو قبروں سے نکلنے وقت ہی یہ حالت میسر ہو جائے گی بعید بات ہے کیونکہ انٹر احادیث اس کے معارض ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سلیمان بن مغیرہ کے توسط حضرت حمید بن بلال سے روایت کرتے ہیں ۰۰ فرماتے ہیں ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب جنت میں داخل ہو جائے گا اسے اہل جنت کی صورت مل جائے گی ان کا لباس زیب تن ہو جائے گا ان کی زینٹوں سے مزین ہو جائے گا اور اس کو اس کی بیویاں اور اس کے نوکر خادم دکھائے جائیں گے تو اس کو اس قدر خوشی اور سرور حاصل ہوگا کہ اگر مرنا ممکن ہوتا تو وہ شدت خوشی سے مر جاتا۔ پھر اسے کہا جائے گا: تجھے اپنی اس خوشی کا اندازہ ہے؟ پس یہ خوشی اور مسرت کی کیفیت تجھے ہمیشہ حاصل رہے گی۔^①

ابن المبارک دوسری روایت کے ساتھ ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو موتیوں کے مثل ستر ہزار خادم اس کا استقبال کریں گے۔ ابن المبارکؒ سنداً حضرت عبدالرحمن المعافریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ جنتی شخص کے لیے خادموں کی دو رو یہ صفیں استقبال کے لیے کھڑی ہو جائیں گی جن کا آخری سرا سے نظر نہیں آئے گا۔ جنتی جب گزرے گا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔^② ابو نعیم مسلمہ سے اور وہ حضرت ضحاک بن مزاحم سے نقل فرماتے ہیں کہ مؤمن شخص جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے آگے ایک فرشتہ ہوگا وہ جنتی کو جنت کی گلیوں میں پھرائے گا۔ فرشتہ کہے گا کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا: سونے چاندی کے یہ محلات دیکھ رہا ہوں۔ فرشتہ کہے گا: یہ تیرے لئے ہیں۔ جب جنت والیوں کو اس کا پتہ چلے گا وہ ہر دروازے سے اس کا استقبال کرنے آئیں گی۔ کہیں گی: ہم تیرے لیے ہیں، ہم تیرے لیے ہیں۔ فرشتہ پھر کہے گا کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا: خیمے ہیں بہت سے۔ جن میں بہت سے مونس دل بہلانے والے نظر آ رہے ہیں۔ فرشتہ کہے گا: یہ سب تیرے لیے ہیں۔ جب اندروالوں کو جنتی کی آمد کا علم ہوگا تو وہ یہ کہتے ہوئے استقبال کو نکلیں گے: ہم تیرے لیے ہیں، ہم تیرے لیے ہیں۔^③

احمد بن ابی الحواری ابو سلیمان الدارانی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

”اور بہشت میں (جہاں) آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم (الشان) سلطنت دیکھو گے (سورۃ الانسان آیت: 20)

کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ فرشتہ اللہ عزوجل کے دوست کے پاس تحفہ لے کر حاضر ہوگا۔ اس کے پاس اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ پھر جنتی کے دربان سے کہے گا: اللہ کے دوست کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت لے دو۔ وہ دربان اگلے دربان کو بتائے گا۔ وہ اپنے اگلے کو بتائے گا۔ جنتی اس گھر سے سلامتی کے گھر (جائے گا) جنت میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے وہ بغیر اجازت ہر وقت اپنے رب سے ملاقات کر سکے گا۔ پروردگار کا قاصد اس کے پاس نہیں آئے گا۔ ابن ابی الدنیا میں بشر بن سعاف سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن سلامؒ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ فرمانے لگے: اللہ (سبحانہ و تعالیٰ) کے ہاں اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ باعزت ذات حضرت ابوالقاسمؒ کی ہے۔ جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مخلوق کو امت امت کر کے ان کے نبیوں کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر جہنم پر پل بچھا دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی نداء دے گا: احمد اور اس کی امت کہاں

① الزہد لابن المبارک الحدیث ۳۲۹ ص: ۲۱۹۔ ② الزہد لابن المبارک الحدیث ۳۲۷ ص: ۳۱۸۔ ③ الزہد لابن المبارک الحدیث ۳۱۵ ص: ۱۲۶۔

ہے؟ آپ ﷺ کھڑے ہوں گے۔ آپ کے پیچھے آپ کی امت ہوگی، خواہ نیکوکار ہوں یا فاسق و فاجر۔ وہ پل پر چلنا شروع کریں گے۔ اللہ پاک اپنے دُشمنوں کی آنکھوں کو اندھا کر مادیں گے۔ وہ پل صراط پر دائیں اور بائیں سے گریں گے۔ نبی ﷺ اپنے نیک امتیاء کے ساتھ نجات پا جائیں گے۔ سامنے مانگہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ دائیں بائیں ان کے جنتی محلات آراستہ ہوں گے۔ وہ گزرتے ہوئے اللہ رب انعمت تک پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب کرسی رکھی جائے گی۔ پھر ایک منادی پکارے گا کہ عیسیٰ اور ان کی امت کہاں ہے اور وہی کچھ ذکر کیا جو اوپر بیان ہوا پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دوسری طرف کرسی ڈالی جائے گی۔ انبیاء اور دیگر امتیں آپ کے بعد آئیں گی حتیٰ کہ سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ روایت حضرت عبد اللہ بن سلام پر موقوف ہے۔ ابن ابی الدنیا میں حضرت سلمان فارسیؓ سے منقول ہے کہ قیامت کے دن پل صراط رکھا جائے گا۔ اس کی دھار استرے کے مانند تیز ہوگی۔ ملائکہ کہیں گے: یارب! اس پر کون چل سکے گا؟ فرمایا مخلوق میں جس کو میں چاہوں گا وہ اس پر چل سکے گا۔ تب فرشتے کہیں گے: اے رب یقیناً ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔^①

فصل

اہل جنت کی بعض صفات اور بعض نعمتوں کا ذکر:

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھویں کے چاند کی مانند ہوں گی۔ وہ تھوکیں گے اور نہ ریٹ کریں گے اور نہ ان کو پاخانہ کی حاجت ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی۔ ان کی انگلیٹھیاں عود کی ہوں گی۔ ان کی خوشبو مشک ہوگی۔ ہر جنتی کے لیے دو بیویاں (ضرور) ہوں گی۔ حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت سے پانظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ کوئی بغض و عناد نہ ہوگا۔ ان سب کے دل ایک دل کی مانند ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کریں گے۔^②

بخاری اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ابویعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی مانند ہوں گی۔ ان کے بعد آنے والے گویا آسمان میں سب سے زیادہ چمک دار ستارے۔ وہ پیشاب پاخانہ نہ کریں گے نہ تھوک اور ریٹ (ناک) کریں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگلیٹھیاں عود کی ہوں گی۔ ان کی خوشبو مشک ہوگی۔ ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ ان کے اخلاق ایک شخص (محمد ﷺ) کے اخلاق ہوں گے۔ سب اپنے باپ کی صورت پر ہوں گے۔ ان کے قد ساٹھ ذراع ہوں گے۔^③ امام مسلم نے ابوضیہ سے اس کو روایت کیا ہے اور جریر کی حدیث سے دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔

① الترغیب والترہیب للمذریٰ۔ ② مسلم الحدیث: ۷۰۸۰۔ ترمذی الحدیث: ۲۵۳۷۔ مسند احمد الحدیث: ۲۵۳/۲۔ والحدیث: ۳۱۶/۲۔

③ بخاری الحدیث: ۳۳۲۷۔ مسلم الحدیث: ۷۰۷۸۔ والحدیث: ۷۰۷۹۔ ابن ماجہ الحدیث: ۳۳۳۳۔

اہل جنت کی عمر کے بارے میں احادیث:

مسند احمد اور طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اہل جنت جنت میں جسم کے زائد باتوں سے صاف نوجوان سفید رنگت بال والے اور سر مد اگائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مطابق تینتیس سال کی عمر میں ہوں گے۔ ساتھ ہاتھ لمبے اور سات ہاتھ چوڑے ہوں گے۔^① طبرانی میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو جسم پر (زائد) بال نہ ہوں گے نوجوان ہوں گے ان کی آنکھیں سرگیں ہوں گی اور عمر تینتیس برس کی ہوگی۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ روایت حسن غریب ہے۔ ابن ابی الدنیا میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت جنت میں حضرت آدم کی لمبائی کے مطابق داخل ہوں گے۔ فرشتے کے ہاتھ کے مطابق ساتھ ساتھ ان کا قد ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر یعنی تینتیس سال عمر ہوگی۔ محمد (ﷺ) کی زبان ہوگی (یعنی بول چال میں حضور ﷺ کا سا اخلاق ہوگا) بالوں سے صاف جسم ہوگا نوجوان مرد ہوں گے۔ سرگیں آنکھیں ہوگی۔^②

ابوبکر بن ابی داؤد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اہل جنت حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر اٹھائے جائیں گے۔ تینتیس سال ان کی عمر ہوگی۔ جسم پر (زائد) بال نہ ہوں گے نوجوان ہوں گے ان کی آنکھیں سرگیں رہیں گی۔ پھر ان کو ایک درخت کے پاس لے جایا جائے گا اس سے لباس پہنیں گے۔ ان کا لباس کبھی خبر نہیں ہوگا اور ان کا شباب کبھی زوال پذیر نہ ہوگا۔ ابوبکر بن ابی داؤد فرماتے ہیں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں سے جو شخص وفات پائے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا جنت میں اس کو تینتیس سال کی عمر میں لوٹا دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ ان کی عمر کبھی نہیں بڑھے گی۔ اسی طرح اہل جہنم۔^③

جہنم کی صفات:

فرمان الہی ہے:

”لیکن اگر (ایسا) نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے (اور جو)

کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے“۔ (سورۃ البقرۃ آیت: ۲۴)

فرمان الہی ہے:

”ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے“۔ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۶۱)

① ترمذی الحدیث: ۲۵۲۵۔ مسند احمد الحدیث: ۲/۲۹۵۔ والحدیث: ۲۳۳/۵۔ ② ترمذی الحدیث: ۲۵۲۵۔ مسند احمد الحدیث: ۲/۲۹۵۔ والحدیث: ۲۳۳/۵۔

③ کنز العمال الحدیث: ۳۹۳۸۳۔ ④ ترمذی الحدیث: ۲۵۶۲۔ الزہد لابن المبارک الحدیث: ۲/۱۲۸۔ شرح السنۃ للبخاری الحدیث: ۳/۱۹۔ کنز العمال الحدیث: ۳۹۳۳۳۔

فرمان الہی ہے:

”یہ لوگ میں جنوں نے ہر ایک چیز کو گرہن اور بخشش چھوڑ کر عذاب کو شہید کیا، آتش (جہنم) کو ایک رشتہ کرنے والے ہیں۔“ (سورۃ البقرۃ آیت 185)

فرمان الہی ہے:

”جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر (نجات حاصل کرنا چاہیں اور) بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔“

(سورۃ آل عمران آیت: 91)

فرمان الہی ہے:

”جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے جب ان کی کھال گل (اور جل) جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ (ہمیشہ) عذاب (کا مزہ) چکھتے رہیں بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔“ (سورۃ النساء آیت 56)

فرمان الہی ہے:

”جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ ہی رستہ دکھائے گا۔ ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ (جلتے) رہیں گے اور یہ (بات) خدا کو آسان ہے۔“ (سورۃ النساء آیت: 168، 169)

فرمان الہی ہے:

”جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین (کے تمام خزانے اور اس) کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب (سے رستگاری حاصل کرنے) کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ (ہر چند) چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔“ (سورۃ المائدہ آیت: 36، 37)

فرمان الہی ہے:

”جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے (نیچے) بچھونا بھی (آتش) جہنم کا ہوگا اور اوپر اوڑھنا بھی (اسی کا) اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔“ (سورۃ الاعراف آیت: 40، 41)

فرمان الہی ہے:

”اور (اوروں سے بھی) کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلتا (ان سے) کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے

کاش یہ (اس بات کو سمجھتے۔ یہ دنیا میں) تھوڑا سا سانس لیں اور (آخرت میں) ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے ہیں بہت سارو تاناہوگا۔ (سورۃ الحجرات: ۸۱-۸۲)

فرمان الہی ہے:

”اس وقت ہم ان کو عذاب شدید (کے حربے) چکھائیں گے کیونکہ کفر (کی باتیں) کیا کرتے تھے۔“ (سورہ بقرہ آیت 70)

فرمان الہی ہے:

”اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ (اور) جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔“ (سورہ صافات: 106-107)

فرمان الہی ہے:

”اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منداں دھے گوئیں اور بہرے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب (اس کی آگ) بجھنے کو ہوگی تو ہم نار کو اور بھڑکا دیں گے۔“ (سورۃ الاسراء آیت: 97)

فرمان الہی ہے:

”یہ دو (فریق) ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار (کے بارے میں) جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے (اور) ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان (کے مارنے ٹھوکنے) کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے اس رنج (و تکلیف کی وجہ) سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کہا جائے گا کہ) جلتے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔“ (سورۃ الحج آیات: 19-22)

فرمان الہی ہے:

”تو جن کے (عملوں کے) بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے آگ ان کے مونہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ تم ان کو (سننے تھے اور) جھٹلاتے تھے۔ اے پروردگار! ہم پر کم سختی غالب ہوگئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار! ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر (ایسے کام) کریں تو ظالم ہوں گے۔ (خدا) فرمائے گا کہ اسی ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے پروردگار! ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے۔“ (سورۃ المؤمنون آیات 102-109)

فرمان الہی ہے:

”بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو (غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ) اس کے جوش (غضب) اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزخ

کی کسی تک جگہ میں (زنجیروں میں) جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو
بے حس، ذوق، کو پکارو!۔ (سورۃ التین آیات: ۱۱، ۱۲، ۱۳)
فرمان الہی ہے:

”تو وہ اور گمراہ (یعنی بت اور بت پرست) امدھے منہ دوزخ ڈال دیئے جائیں گے اور شیطان کے لشکر اب کے سب
(داخل جہنم ہوں گے) وہاں وہ آپس میں بھڑکیں گے اور کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں
(خدائے) رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہم ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔ تو (آج) نہ کوئی ہماری سفارش
کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوست۔ کاش ہمیں (دنیا میں) پھر جانا ہوتا تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ بے شک اس میں نشانی
ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مہربان ہے۔“ (سورۃ الشعرا آیات: ۹۴، ۱۰۴)

فرمان الہی ہے:

”یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔“ (سورۃ النمل آیت: ۵)

فرمان الہی ہے:

”ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔“ (سورۃ لقمان آیت: ۲۴)

فرمان الہی ہے:

”اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے (رہنے کے) لیے دوزخ ہے جب چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں گے تو اس میں
لوٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو اور ہم ان کو
(قیامت کے) بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا میں بھی چکھائیں گے شاید (ہماری طرف) لوٹ آئیں۔“

(سورۃ السجدہ آیات: ۲۰، ۲۱)

فرمان الہی ہے:

”بے شک خدانے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے (جہنم کی) آگ تیار کر رکھی ہے اس میں ابدالاً بادر ہیں گے نہ کسی
کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش! ہم خدا کی
فرمانبرداری کرتے اور رسول (خدا) کا حکم مانتے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے
لوگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے پروردگار! ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت
کر۔“ (سورۃ الاحزاب آیات: ۶۴، ۶۸)

فرمان الہی ہے:

”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان
سے ہٹا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار! ہم کو نکال

لے (اب) ہم نیک عمل کریں گے نہ وہ جو (پہلے) کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتے اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آتے تو اب مرے چکھو نہ تمہاری کوئی مددگار نہیں۔“ (سورۃ الزمر: ۵۵-۵۷)

فرمان الہی ہے:

”یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی (سو) جو تم کفر کرتے رہے: اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں (اس کی) گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا (کراندھا کر) دیں پھر یہ رستے کو دورڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ (پچھے) لوٹ سکیں۔“ (سورۃ یٰسین آیات: 63-67)

فرمان الہی ہے:

”اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے (سب کو) جمع کر لو۔ (یعنی جن کو) خدا کے سوا (پوجا کرتے تھے) پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے (کچھ) پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج تو وہ فرمانبرار ہیں۔“ (سورۃ الصافات آیات: 22-26)

فرمان الہی ہے:

”یہ (نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں) اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ (یعنی) دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ (ہے) اب اس کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے (عذاب ہوں گے) یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو۔ تم ہی تو یہ (وبال) ہمارے سامنے لائے ہو سو (یہ) برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار! جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دو گنا عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ (یہاں) ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جو کہ بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا (ہماری) آنکھیں ان (کی طرف) سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑا برحق ہے۔“ (سورۃ ص آیات: 55-64)

فرمان الہی ہے:

”اور کافروں کو گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا تے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے۔ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے تکبیر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔“ (سورۃ الزمر آیات: 71-72)

فرمان الہی ہے:

”جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکا کر کے، یا بجائے گناہ تم (انہیں میں) ایمان کی طرف ملائے جاتے تھے اور مانتے تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو وہ کہیں گے: اے پروردگار! تو نے ہم کو وہ دفعہ بے جان کیا اور وہ دفعہ جان بخشی۔ ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو کیا نکلنے کی کوئی تمیل ہے؟ یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے تو حکم خدا ہی کا ہے جو (سب سے) اوپر (اور سب سے) بڑا ہے۔“ (سورہ غافر آیات: 10-12)

فرمان الہی ہے:

”غرض خدا نے (موسیٰ کو) ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آگھیرا (یعنی) آتش (جہنم) کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی (حکم ہوگا کہ) فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو اور جب وہ دوزخ میں جھکڑیں گے تو ادنیٰ درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے تو کیا تم دوزخ (کے عذاب) کا کچھ حصہ ہم سے دو کر سکتے ہو؟ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم (بھی اور) ہم (بھی) سب دوزخ میں ہیں خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے اور جو لوگ آگ میں (جل رہے) ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ وہ کہیں گے کہ تمہی دعا کرو اور کافروں کی دعا (اس روز) بے کار ہوگی۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے (یعنی قیامت کو بھی) جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔“ (سورہ غافر آیات: 45-52)

فرمان الہی ہے:

”جن لوگوں نے کتاب (خدا) کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ عنقریب معلوم کر لیں گے۔ جب کہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی۔ گھسیٹے جائیں گے۔ (یعنی) کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم (خدا کے) شریک بناتے تھے۔ (یعنی) غیر خدا کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر (یعنی اس کے خلاف) خوش ہوا کرتے تھے اور اس کی (سزا ہے) کہ اترا یا کرتے تھے۔ (اب) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے؟“

(سورہ غافر آیات: 70-76)

فرمان الہی ہے:

”اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلکا کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا محو دوزخ ہی ہے اور اگر تو یہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے (شیطانوں کو) ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جمائیں جو ان سے پہلے کوز چلیں ان پر بھی خدا (کے عذاب) کا عمدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور کا فر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور (جب پڑھنے لگیں تو) شور مچا دیا کرو تا کہ تم غالب رہو۔ سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے (یعنی) دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے اور کافر کہیں گے کہ اے پروردگار! جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو پاؤں کے تلے (روند) ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔“ (سورۃ فصلت آیات: 23-29)

فرمان الہی ہے:

”(اور کفار) گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی (اپنے آپ پر) ظلم کرتے تھے اور پکاریں گے کہ اے مالک! تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ (اسی حالت میں) رہو گے۔ ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے تھے لیکن تم میں سے اکثر اس سے ناخوش ہوتے رہے۔“ (سورۃ الزخرف آیات 74-78)

فرمان الہی ہے:

”بلاشبہ تھوہر کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں (اس طرح) کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ (حکم دیا جائے گا کہ) اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیٹوں بیچ لے جاؤ۔ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو (کہ عذاب پر) عذاب (ہو)۔ (اب) مزہ چکھو وہ بڑی عزت والا (اور) سردار ہے۔ یہ وہی (دوزخ) ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔“ (سورۃ الدخان آیات: 43-50)

فرمان الہی ہے:

”جنت جس کا پرہیزگار سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں وہ پانی بونہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں گے جو پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہے اور شہد مصفا کی نہریں ہیں (جو حلاوت ہی حلاوت ہے) اور (وہاں) ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے (کیا یہ پرہیزگار) ان کی طرح (ہو سکتے) ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتزیاں کاٹ ڈالے گا۔“ (سورۃ محمد آیت: 15)

فرمان الہی ہے:

”جس دن ان کو آتشِ جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لئے جائیں گے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ میں داخل ہوں اور صبر کرو۔ یہ کہ تم کو دیکھو۔ یہ جہنم کہا کرتے تھے۔ (سورۃ الطور آیات 13 تا 16)“

فرمان الہی ہے:

”ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت ہے اور بہت تلخ ہے۔ بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں (بتلا) ہیں۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔“ (سورۃ القمر آیات 46 تا 50)

فرمان الہی ہے:

”گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لئے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لئے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (سورۃ الرحمن آیات 41 تا 45)

فرمان الہی ہے:

”اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (ہی عذاب میں) ہیں۔ (یعنی دوزخ کی) لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں (جو) نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیشِ نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہِ عظیم پراڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں (ہی ہڈیاں رہ گئے) تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ (سورۃ الواقعة آیات 41 تا 48)

فرمان الہی ہے:

”تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ (وہ) کافروں ہی سے (قبول کیا جائے گا) تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔“ (سورۃ الحدید آیت: 15)

فرمان الہی ہے:

”مؤمنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔“ (سورۃ التحریم آیت: 6)

فرمان الہی ہے:

”اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا اور چلانا نہیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی

کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ خدا نزلے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی مگر تیری عظمت میں (پڑے ہوئے) ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ سو دوزخیوں کے لیے (رحمت خدا سے) دوری ہے۔ (سورۃ الملک آیات: 11-16)

فرمان الہی ہے:

” (دیکھو) عذاب یوں ہوتا ہے۔ اور آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش! یہ لوگ جانتے ہوتے۔“ (سورۃ القم آیات: 33)

فرمان الہی ہے:

” اور جس کا نامہ (اعمال) اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا (اعمال) نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت (ابدالاً باد کے لیے میرا کام) تمام کر چکی ہوتی۔ میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ (حکم ہوگا کہ) اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو۔ پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔ پھر زنجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو خدائے جل شانہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانے کھلانے پر آمادہ کرتا تھا۔ سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں اور نہ پیپ کے سوا (اس کے لیے) کھانا ہے، جس کو گنہگار کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔“ (سورۃ الحاقہ آیات: 25-37)

فرمان الہی ہے:

” (اس روز) گنہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلہ میں سب کچھ دے دے (یعنی) اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں (غرض) سب (کچھ) دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑالے۔ (لیکن) ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑ ڈالنے والی۔ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے (دین حق سے) اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور (مال) جمع کیا اور بند کر رکھا۔“

(سورۃ المعارج آیات: 11-18)

فرمان الہی ہے:

” ہم عنقریب اس کو ستر میں داخل کریں گے اور تم کیا سمجھے کہ ستر کیا ہے؟ (وہ آگ ہے کہ) نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر انہیں داروغہ ہیں۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے کہ اہل کتاب یقین لریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق) کا مرض ہے اور (جو) کافر (ہیں) کہیں کہ اس مثال (کے بیان کرنے) سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو نبی آدم

کے لیے نصیحت ہے۔“ (سورۃ المدثر آیات: 26-31)

فرمان الہی ہے:

”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروں ہے۔ مگر وہ اپنی طرف والے (نیک لوگ کہ) وہ بانہیانے بہشت میں (ہوں گے اور) پوچھتے ہوں گے (یعنی آگ میں جلنے والے) گنہگاروں سے تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر (حق سے) انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی تو (اس حال میں) سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں۔“ (سورۃ المدثر آیات: 38-49)

فرمان الہی ہے:

”ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔“ (سورۃ الدھر آیت: 4)

فرمان الہی ہے:

”جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے (اب اس کی طرف چلو یعنی) اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ اس سے آگ کی (اتنی اتنی بڑی) چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔“ (سورۃ الرسلا آیات: 29-34)

فرمان الہی ہے:

”بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ (یعنی) سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ (کچھ) پینا (نصیب ہوگا) مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ (یہ) بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب (آخرت) کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ سو (اب) مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ (یعنی) باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔“ (سورۃ النباء آیات: 21-33)

فرمان الہی ہے:

”سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سچین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سچین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔“ (سورۃ المطففین آیات: 7-10)

فرمان الہی ہے:

”سو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبہ کر دیا۔ اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔“ (سورۃ اللیل آیات: 14-16)

فرمان الہی ہے:

”جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جئے گا“۔ (سورہ ط آیت 74) فرمان الہی ہے:

”اس دن بہت سے مرد (والم) ذلیل ہوں گے۔ سخت محنت کرنے والے تھکے باندھے۔ بہت آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں (ہوگا) جو نہ فریبی لائے نہ ہوک میں کچھ کام آئے“۔ (سورہ الغاشیہ آیات 7۴-2) فرمان الہی ہے:

”تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار (جلوہ فرما ہوگا) اور فرشتے قطار باندھ باندھ آ موجود ہوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر (اب) انتباہ (سے) اسے (فائدہ) کہاں (مل سکے گا)؟ کہے گا کاش! میں نے اپنی زندگی (جادوانی) کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح (کسی کو) عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا“۔ (سورہ انفجر آیات: 21-26) فرمان الہی ہے:

”اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بد بخت ہیں۔ یہ لوگ آگ میں بند کر دیئے جائیں گے“۔ (سورہ البلد آیتان: 19-20) فرمان الہی ہے:

”ہر طعن آمیز اشارے کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے۔ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں میں جا لپٹے گی (اور) وہ اس میں بند کر دیئے جائیں گے۔ یعنی (آگ کے) لپے لپے ستونوں میں“۔ (سورہ البقرہ)

ابن المبارک فرماتے ہیں خالد بن ابی عمران سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آگ اپنے اہل کو کھائے گی۔ جب ان کے دلوں تک پہنچے گی تو رک جائے گی اور پھر دوبارہ شروع ہوگی اور دل تک جا پہنچے گی۔ پس اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔¹ یہ مطلب ہے فرمان باری کا: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں میں جا لپٹے گی۔ جہنم کی صفات سے متعلق بطور نمونہ یہ آیات ذکر کر دی گئی ہیں۔ طوالت کے خوف سے مزید آیات کا ذکر نہیں کرتے ورنہ اس موضوع پر بہت زیادہ آیات ہیں۔ ابن المبارک سے منقول ہے وہ روایت کرتے ہیں جب جہنم پیدا کی گئی ملائکہ گھبرا اٹھے۔ ان کے دل لرز گئے لیکن جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو سکون ہو گیا اور متوقف خطرہ ٹل گیا“۔²

① الزہد لابن المبارک الحدیث: ۸۷/۲، تفسیر القرطبی الحدیث: ۱۸۵/۲۰۔

② الزہد لابن المبارک الحدیث: ۸۸، ۸۷/۲۔

ایک انصاری کا واقعہ جسے جہنم کے خوف نے بانگ کر ڈالا

ابن المبارک فرماتے ہیں محمد بن مطرف نے ایک ثقہ شخص سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری شخص کے دل میں جہنم کا خوف جاگزیں ہو گیا۔ جہنم کا ذکر چھڑتا تو آنسوؤں کی لڑی بندھ جاتی حتیٰ کہ اسے خوف نے اس کو گھر میں محبوس کر دیا۔ اس کا یہ حال سنو رہے تھے۔ سے بیان کیا گیا۔ آپ ﷺ اس کے گھر تشریف لائے۔ آپ ﷺ بیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وہ نوجوان آپ کے ساتھ لپٹ گیا اور جاں بحق ہو کر نیچے گر پڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے ساتھی کے کفن و دفن کا انتظام کرو، جہنم کے خوف نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔^① امام قرطبی فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چار ہزار عورتوں کے پاس سے گزر ہوا ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ (مفلوک الحالی سے) ان کے جسموں پہ اون اور بالوں کی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! کس چیز نے تمہارا رنگ اڑا رکھا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا: اے ابن مریم! جہنم کے ذکر نے ہماری رنگت اڑا رکھی ہے۔ یقیناً جو شخص جہنم میں داخل ہوا اسے نہ تو وہاں ٹھنڈک میسر ہوگی اور نہ پینے کو کچھ ملے گا۔ خراگٹی نے اس کو کتاب القبور میں ذکر کیا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جہنم سے خوف:

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی:

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

”اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے“۔ (سورۃ الحج آیت: 43)

یہ آیت سنی تو اس قدر خوف طاری ہوا کہ تین دن تک ہوش و حواس اڑے رہے اور بھاگتے رہے۔ پھر ان کو نبی کریم ﷺ کے پاس لایا گیا۔ حضرت سلمان نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے:

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس آیت نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾

”بے شک پرہیزگار ساریوں اور چشموں میں ہوں گے“۔ (سورۃ المرسلات آیت: 41)

امام شعبلی نے اس کو ذکر فرمایا ہے:

① المستدرک للحاکم، سورۃ التحريم، الحدیث: ۴۹۳/۲، المنذری فی الترغیب والترہیب، الحدیث: ۳۶۲/۳، کنز العمال، الحدیث: ۵۹۰۰:

المغنی عن حمل الاسفار، الحدیث: ۱۸۲/۳.

جہنم کا ذکر اور شدت پیش:

فرمان الہی ہے:

”اور (اوراں سے بھی) کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلتا (ان سے) کہ ۱۰۰ کو ۱۰۰ زرخ کی آگ اس سے کہیں: یا، مگر مر ہے کاش یہ (اس بات کو) سمجھتے۔ (سورۃ التوبہ: آیت ۸۱)

فرمان الہی ہے:

”اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟“ (وہ) دیکتی ہوئی آگ ہے۔ (سورۃ القارعہ: آیات ۱۱ تا ۱۲)

فرمان الہی ہے:

”ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لئے کوئی کھانا نہیں (ہوگا) جو نہ فریبی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔“ (سورۃ العاشیہ: آیات ۳۵ تا ۳۷)

”وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔“ (سورۃ الرحمن: آیت ۴۴)

یعنی آگ اس قدر گرم ہوگی کہ اپنی انتہائی حد کو چھو لے گی۔

جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا تیز ہوگی:

امام مالکؒ میں ابی الزناد عن الاعرج کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ (فداہ الی و امی) نے فرمایا:

بنی آدم کی آگ جہنم جلاتے ہو جہنم کی آگ کا ستر واں حصہ ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! تب تو وہ بہت زیادہ تیز ہوگی؟ فرمایا:

جہنم کی آگ کو اس آگ پر انہتر گناہ برتری دی ہے۔^①

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا ستر واں حصہ ہے۔ اس کو سمندر میں دو مرتبہ غوطہ دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دنیا میں

(شدت کی وجہ سے) سو دو مند نہ رہتی۔^②

① مسند احمد الحدیث: ۲/۳۶۷۔ مؤطا امام مالکؒ، الحدیث: ۱۹۲۳۔

② ابن ماجہ الحدیث: ۳۳۱۸۔ مسند احمد الحدیث: ۲/۲۳۳۔ الدراری الحدیث: ۲/۲۴۰۔

③ الاوسط للطبری الحدیث: ۳۸۹۔

اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریلؑ کے حضور اکرم ﷺ کے پاس ایسے وقت حاضر ہوئے جس میں آنے کا ماحول سے ان کا دستور نہیں تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس جبریلؑ کی آیات سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیری نگاہت کسی دہلی بے آفرینیا میں آپ کے پاس نہیں آتی تھی کہ میں نے اپنے کھانے کا سفر فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا اس جبریلؑ کے جسم میں عنایت ہوا کہ حضرت جبریلؑ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق تمہارا یہاں اس واپس ہزار سال تک بجز کیا گیا حتیٰ کہ وہ سرف ہوئی۔ پھر ایک ہزار سال تک بجز کیا حتیٰ کہ وہ سفید ہوئی۔ پھر ایک ہزار سال اور مزید بجز کیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی اب وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے اور اس کے شعلہ روشن نہیں ہیں اور اس کے انگارے بھی نہیں بکھتے۔

یہ حضرت جبریلؑ نے آنحضرت ﷺ سے فرمایا تمہارے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کے ساتھ معبود فرمایا ہے جنہم کی وہ زنجیر جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عنایت بیان فرمائی ہے اگر اس کے حلقوں میں سے ایک حلقہ بھی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو ان سب کو پگھلا دے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے جبریلؑ! بس کافی ہے کہ میں میرے دل کے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ حضور ﷺ نے دیکھا تو جبریلؑ بھی رو رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے جبریلؑ! آپ رو رہے ہیں جب کہ اللہ کے ہاں آپ کا جو مقام ہے وہ بس آپ ہی کا ہے۔ حضرت جبریلؑ نے عرض کیا مجھے رونے سے کیا نفع ہے جب مجھے علم نہیں ہے کہ میں اللہ کے علم میں میرا یہ حال نہ ہو۔ اٹلیس بھی تو ملائکہ کے ساتھ تھا۔ باروت ماروت بھی تو ملائکہ میں شامل تھے۔ چنانچہ حضرت جبریلؑ اور حضور ﷺ دونوں روتے رہے..... حتیٰ کہ ندا دی گئی: اے محمدؐ! اے جبریلؑ! اللہ تم دونوں کو پروا نہ دیتا ہے کہ وہ تم پر غضب نہ فرمائے گا۔ پھر حضرت جبریلؑ علیہ السلام اٹھ گئے اور حضور ﷺ بھی وہاں سے نکل آئے۔ چلتے چلتے آپ ﷺ کا اپنے بعض صحابہ کے پاس سے گزر ہوا جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ہنسی مذاق کر رہے ہو جب کہ جہنم تمہارے پیچھے ہے۔ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنے کم اور روتے زیادہ اور اللہ کو روتے اور پکارتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: اے محمدؐ! میں نے تجھے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: لو بشارت لو سیدھی راہ پر ہو اور قریب قریب رہو۔^۱

اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا:

بخاری میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس آپ کے چچا جناب ابوطالب کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: شاید قیامت کے روز میری شفاعت ان کے لیے سود مند ثابت ہو جائے اور ان کو صرف (جہنم کے) ایک گڑھے میں رکھا جائے جو ان کے سنے تک پہنچتا ہو اس سے ان کا دماغ کھولے گا۔^۲ مسلم میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ان جوتوں کی شدت سے اس شخص کا دماغ کھول رہا ہوگا۔^۳

۱- الترغیب والترہیب للمذہبی الحدیث: ۳/۳۵۷، الدر المنثور للسیوطی الحدیث: ۱۰۲/۱- کنز العمال الحدیث: ۳۹۷۸۲۔

۲- بخاری الحدیث: ۳۸۸۳، مسلم الحدیث: ۵۰۹، ۳- مسلم الحدیث: ۵۱۳۔

بخاری میں حضرت نعمانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے عذاب میں مبتلا ہوگا وہ اس کو کہیں گے کہ تم لوگوں نے آگ کے انکار کئے ہیں کہ تم لوگوں نے اس سے اس کا دماغ حوالہ لکھے۔^۱

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: اس کو مارے گیوں گے۔ لہذا جیسے پہلے ہی وہ پہنچی جاتی ہے۔

جہنم کی ہولناکی

مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر تم وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم رو کر زیادہ کر دو اور ہنسنا کم کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا یا رسول اللہ! آپ نے کیا دیکھا ہے؟^۲ فرمایا: میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ثابت بنائی فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا جب سے جہنم کی تخلیق کی گئی ہے وہ ہنستے نہیں ہیں۔^۳

جہنم کی اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت:

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی کہ اے پروردگار! (شدت جس کی وجہ سے) میرے حصے ایک دوسرے کو کھا گئے ہیں۔ مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر سال دو سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو سخت سردی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کا ٹھنڈا سانس ہے اور جو سخت گرمی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کا گرم سانس ہے۔^۴ بخاری و مسلم نے امام زہری کی حدیث سے اس کو روایت کیا ہے۔

گرمی کی شدت جہنم کے سانس کی لپٹ سے ہے:

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی کہ اے پروردگار! (شدت جس کی وجہ سے) میرے حصے ایک دوسرے کو کھا گئے ہیں۔ پس اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ چنانچہ سخت گرمی جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے۔^۵

① بخاری الحدیث: ۵۶۵۶۱۔

② مسند احمد الحدیث: ۳۱۷/۳۔

③ مسند احمد الحدیث: ۲۲۲/۳۔

④ مسلم الحدیث: ۱۴۰۰۔ ترمذی الحدیث: ۲۵۹۲۔ مسند احمد الحدیث: ۲۳۸/۲۔ الحدیث: ۲۷۷۷۔

⑤ مسلم الحدیث: ۱۴۰۰۔ ترمذی الحدیث: ۲۵۹۲۔ مسند احمد الحدیث: ۲۳۸/۳۔ الحدیث: ۲۷۷۷۔

فرمان الہی ہے:

”جس چیز کو تم جیسا چاہتے تھے (اب) اس کی طرف چلو۔ (یعنی) اس نامے کی طرف چلو۔ اس کی تین شاخیں ہیں۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ پتے۔ پتے اس کے آگے کی (تین بڑی بڑی) چنگاریاں اترتی ہیں یہ تم کو یاد دلاؤ۔ لگاتار اونٹ ہیں۔ اس دن بھٹکانے والوں کی خرابی ہے۔“ (سورۃ الفرقان: آیات 29-34)

طہرانی میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہے وہ فرمان الہی: ”اس آگ کی (بڑی بڑی) چنگاریاں اترتی ہیں“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ چنگاریاں درخت اور پہاڑ کی طرح نہ ہوں گی بلکہ بڑے شہروں اور قلعوں کی مانند ہوں گی۔^۱ طہرانی میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: (جہنم کا) ایک شعلہ اگر مشرق میں ہو تو اس کی تپش مغرب میں محسوس ہوگی۔^۲

جنت و جہنم کو ملاحظہ کرنے والوں کی حالت:

مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن جہنمیوں میں سے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلٹنے والے شخص کو لایا جائے گا۔ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی تیرے پاس سے کسی نعمت کا گزر بھی ہوا ہے؟ وہ کہے گا: اللہ کی قسم اے پروردگار! کبھی نہیں۔ پھر جنتیوں میں سے دنیا میں سب سے زیادہ مصائب اٹھانے والے شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کا ایک چکر لگوا دیا جائے گا پھر پوچھا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تجھے یہ کبھی کوئی سختی آئی ہے؟ وہ کہے گا: اللہ کی قسم اے پروردگار! کبھی نہیں۔ مجھے کبھی کوئی مصیبت چھو کر بھی نہیں گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی ہے۔^۳

اگر کافر کے پاس زمین بھروسونا ہو اور وہ اپنی جان کے عوض اس کو فدیہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا:

مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے روز کافر کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کیا خیال ہے اگر تیرے پاس زمین بھروسونا ہو تو اس کو اپنی جان کے بدلہ دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں! کہا جائے گا تو نے اس سے اچھا موقع گنوا دیا ہے۔ یہی مطلب ہے فرمان باری کا:

”جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر (نجات حاصل کرنا چاہیں اور) بدلے میں زمین بھروسونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔“ (سورۃ آل عمران آیت: 91) واللہ اعلم۔^۴

① التزیغ والترہیب للمذہبی الحدیث: ۴/۳۶۵۔

② التزیغ والترہیب للمذہبی الحدیث: ۳/۳۶۲۔ اتحاف السادة المتعلمین الحدیث: ۱۰/۵۱۹۔ کنز العمال الحدیث: ۷/۳۹۲۸۔ والحدیث والحدیث: ۱۰/۳۹۵۔

③ مسند احمد الحدیث: ۳/۲۰۲۔

④ مسند احمد الحدیث: ۳/۲۱۸۔

دوسرا طریق:

مسند احمد میں اسرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل جہنم میں سے ایک شخص کو کہا جائے گا کہ تیرے پاس زمین کے تمام خزانے ہوں کیا تو اپنی جان کے بدلہ ان کا نذر دے دے گا؟ وہ کہے گا بالکل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے! میں نے ان سے آسمان پیر تجھ سے شب کی تھی! میں نے تجھ سے آدم کی پشت میں ہی عہد لیا تھا کہ یہ سب اتنا کس کو شریک نہ سمجھو ان میں تو نہ رہا اور میرے ساتھ شریک سمجھوانے پر مسر رہا۔^①

قیامت کے روز مؤمن کی تمنا کہ دنیا کو لوٹے اور راہ خدا میں جہاد کرے اور شہید ہو:

مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے ابن آدم! اپنا گھر تجھے کیسا لگا؟ وہ کہے گا اے رب وہ تو بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اب مزید سوال کرو اور اپنی خواہش کا اظہار کر! بندہ کہے گا: میں کوئی اور سوال یا خواہش کا اظہار نہیں کرتا الا یہ کہ مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے اور میں راہ خدا میں دس بار شہید ہوں۔ شہادت کی فضیلت کی وجہ سے اس کو یہ تمنا ہوگی۔ پھر اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا: اے ابن آدم! تجھے اپنا گھر کیسا لگا؟ وہ کہے گا: اے پروردگار! وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پروردگار فرمائیں گے: کیا تو اس سے چھکارا پانے کے لیے زمین بھر سونا دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا: ہاں پروردگار! بالکل۔ پروردگار فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے! میں نے تجھ سے اس کہیں زیادہ معمولی اور آسان چیز کا سوال کیا تھا لیکن تو نے پورا نہیں کیا۔ پھر اس کو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔^②

مسند الزہراء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہنم کے مثل کوئی (خونفاک) شی نہیں لیکن اس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے۔ جنت کے مثل کوئی شی نہیں لیکن اس کا طلب گار سویا ہوا ہے“۔^③ ابویعلیٰ وغیرہ محدثین نے محمد بن شیبہ، جعفر بن ابی وحشیہ، سعید بن جبیر کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اگر کسی مسجد میں ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ افراد ہوں اور ان میں ایک شخص اہل جہنم سے چھوڑ دیا جائے اور وہ ان میں بیٹھ کر سانس لے تو اس کا سانس سب کو پہنچ جائے گا اور وہ مسجد اور اس میں حاضرین تمام افراد کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔“^④

یہ روایت نہایت غریب ہے۔

① مسند احمد الحدیث: ۲۱۸/۳۔

② مسند احمد الحدیث: ۲۰۷/۳۔ الحدیث: ۲۰۸/۳۔

③ المعجم الکبیر للطبرانی ۱۹/۲۲۰۔ الترغیب والترہیب للمذہبی الحدیث: ۳/۳۵۳۔

④ کنز العمال الحدیث: ۳۹۵۴۰۔ المطالب العالیۃ لابن حجر الحدیث: ۳۶۶۷۔ حلیۃ الاولیاء الحدیث: ۳/۳۰۷۔ العلل المتناہیۃ الحدیث: ۲/۳۵۵۔

جہنم کی صفات، وسعت اور اہل جہنم کی حسامت (اللہ محفوظ رکھے):

فرمان الہی ہے:

”چھ تک نہیں نہ وہ ن فس کوک دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے اور قرآن و ان کا مدار انہیں پر ہے۔“

(سورۃ النور: آیات ۱۶-۱۷)

فرمان الہی ہے:

”اور جس کے وزن ہلکے انگلیں گے اس کا مرجع باویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ باویہ کیا چیز ہے۔ (وہ) ذمہ داری ہوگی آگ ہے۔“

(سورۃ القارعہ آیات: ۱۱-۱۲)

فرمان الہی ہے:

”ایسے لوگوں کے لیے (نیچے) پچھونا بھی (آتش) جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اور حنا بھی (اسی کا) اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے (اور) ہم (عملوں کے لیے) کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ

تکلیف دیتے نہیں۔“ (سورۃ الاعراف: ۴۱-۴۲)

فرمان الہی ہے:

”جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لئے جائیں گے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔“

(سورۃ الطور آیات: ۱۳-۱۴)

فرمان الہی ہے:

”(حکم ہوگا کہ) ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دوں۔“ (سورۃ ق آیات: ۲۴)

فرمان الہی ہے:

”اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھڑکی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے؟“ (سورۃ ق آیات نمبر ۳۰)

بغیر سوچے سمجھے کہے جانے والی بری بات کا قائل جہنم میں مشرق و مغرب جتنی گہرائی میں پھینک دیا

جائے گا:

صحیحین میں کئی طریق سے منقول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جاتا رہا گا اور وہ ہل مزید! ہل من مزید! اور لاؤ اور لاؤ کہتی رہے گی حتیٰ کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھ دے گا جس سے جہنم کے حصے ایک دوسرے میں گھسیں گے اور جہنم چیخ پڑے گی: بس! بس! پروردگار تیری عزت کی قسم۔^① مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① البخاری الحدیث: ۱۶۶۱۔ مسلم الحدیث: ۱۷۰۶۔ الترمذی: ۳۲۷۲۔ مستدرک: ۳/۳۱۳۴/۱۶۱۔

”تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار (جلوہ فرما ہوگا) اور فرشتے تمہارا ہاتھ ہاتھ بنا دھ کرنا اور دونوں کے اور دونوں ان میں نہ رہیں گے۔ اس کا واسطہ ان میں ہے۔ اور وہ کہتا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا: انہاں (میں سے گا)“ (سورۃ الحجرات: ۲۱-۳۳)

کی تفریح بنائے ہوں پھر نہ مایہ جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کو دیا جائے گا اور تراباں اور آگ سوں کے ساتھ اس کو کھینچا جائے گا۔ ہر گاہ کہ کو ستر ہزار فرشتے تمہارے کھینچ رہے ہوں گے۔ وہ ایک شعلہ پھینکے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس شعلے کو نہ روک لیں تو وہ آسمان و زمین کو خاکستر کر دے۔^۱ مسند احمد حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک پیالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر (جہنم کا) اتنا سیسہ آسمان سے زمین کی طرف چھوڑ دیا جائے جو کہ پانچ سو سال کی مسافت ہے تو وہ زمین تک اپنی تیزی کی وجہ سے رات سے پہلے پہنچ جائے لیکن اگر اس کو جہنم کی زنجیر کے بالائی سرے سے گرایا جائے اور مسلسل دن رات گرتا رہے تو جڑ تک چالیس سال میں پہنچے گا۔^۲ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت معقل سے مروی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: گرمی جہنم (کا حصہ) ہے۔^۳

جہنمیوں کی لمبی چوڑی جسامت کا بیان (اللہ ہمیں پناہ میں رکھے):

فرمان الہی ہے: ”جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں گل (اور جل) جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ (ہیشہ) عذاب (کا مزہ) چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔“ (سورۃ النساء آیت: 56)

مسند احمد میں ابن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں اہل جہنم کا جسم بڑھا دیا جائے گا حتیٰ کہ جہنمی کے کان کی اوستے کندھے تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کا ہوگا۔ اس کی داڑھ احد پہاڑ کی مانند ہوگی۔^۴

مسند احمد میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ کی مانند ہوگی۔ کھال کی چوڑائی ستر ہاتھ ہوگی۔ اس کی ران و رقان (مدینہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے) کی مثل ہوگی اور اس کی مقعد (سرین بیٹھنے کا حصہ) یہاں سے مقام ربذہ تک ہوگا۔^۵ امام بیہقی کے طریق میں یہ اضافہ ہے اور اس کا بازو (بڑی) دیگ کی مانند (فرہ) ہوگا۔^۶ مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں دوسرے طرق سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے۔ اس کی جلد کی موٹائی بیالیس ہاتھ ہوگی۔^۷

ایک روایت میں ہے کہ جہنمی کے دو شانوں کے درمیان کا فاصلہ تیز رفتار شخص کے حساب سے پانچ ایام کی مسافت ہے۔^۸ مسند احمد میں عمرو بن شیبہ (عن ابیہ عن جدہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن منکبرین انسانوں کی صورت میں لیکن چیونٹیوں کی مانند کر کے حاضر کئے جائیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز ان سے بلند نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ جہنم کا قید خانہ جس کو بولس کہا

① تحف السادة المتقين ۱۰/۵۱۸۔ الترمذی: ۲۵۸۸۔ مسند احمد: ۲/۱۹۷۔ ② مسند احمد: ۴/۲۲۳۔ ③ مسند احمد: ۲/۲۶۔ الترغیب: ۴/۳۸۵۔ کنز العمال:

۳۹۵۳۸۔ ④ المسلم: ۱۱۴۔ الترمذی: ۲۵۷۸۔ مسند احمد: ۲/۳۲۸۔ ⑤ البیہقی: ۱/۲۸۶۔ ⑥ مسند احمد: ۲/۳۳۳۔ ⑦ البخاری: ۶۵۵۱۔ المسلم: ۱۱۵۔

جاتا ہے وہ ان کو گھیر لے گا اور آگ ان پر چھا جائے گی اور وہ جہنمیوں کے لہو پیپ کا ملبوہ انہماں پئیں گے۔^①
 سزا یہ ہے کہ میدانِ محشر میں تکبیروں کی تہلیل کے لیے ان کے ہوا میں جینے والوں کی مانند کیا یہ جائیں گے لیکن انہماں میں
 تعذیب کے لیے ان کے ابدان پہاڑوں سے بھی لمبے پورے کر دیئے جائیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔

مسند در کے جہنم بن جانے کا ذکر:

مسند احمد میں یعلیٰ بن امیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسند در (بھی) جہنم ہے“^② حضرت یعلیٰ نے اس کے
 بعد فرمایا: کیا تم یہ فرمان الہی نہیں پڑھتے ہو:

” (دوزخ کی) آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی۔“ (سورۃ الکہف آیت: 29)

پھر اپنے متعلق فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں مسند در میں کبھی داخل نہ ہوں گا حتیٰ کہ اللہ کے
 سامنے پیش کیا جاؤں اور کبھی مجھے مسند در کا ایک قطرہ بھی نہ لگے حتیٰ کہ میں اللہ عزوجل سے ملاقات کر لوں۔ مسند ابوداؤد میں حضرت عبداللہ
 بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسند در میں حاجی، معتمر یا راہ خدا کے مجاہد کے سوا کوئی سفر نہ کرے کیونکہ مسند در کے
 نیچے جہنم ہے اور پھر جہنم کے نیچے مسند در ہے“^③

جہنم کے دروازوں اور اس کے داروغوں کا ذکر

فرمان الہی ہے:

”اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے
 دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو
 تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں لیکن
 کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو
 گے۔ تکبیر کرنے والوں کا بڑا ٹھکانہ ہے“۔ (سورۃ الزمر آیت: 71-72)

فرمان الہی ہے:

”اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں“۔ (سورۃ الحج: 44)

پل صراط کی صفت اور اسے پار کرنے میں لوگوں کی رفتار کے مختلف ہونے کا بیان

اسنن الکبریٰ للبیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پل صراط جہنم کی پشت پر لغزش اور
 پھسلن کی جگہ ہے۔ (اس کے عبور کے وقت) انبیاء اللہ سلم اللہم سلم اللہم کہہ رہے ہوں گے۔ (لوگوں کی حالت متفاوت ہوگی) کچھ لوگ

① مسند احمد: ۱۷۸/۲۔ ② مسند احمد: ۲۲۳/۳۔ مجمع الزوائد: ۳۸۶/۱۰۔ ③ ابوداؤد: ۲۳۸۹۔ مجمع الزوائد: ۲۸۲/۵۔

بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پیک چھپنے کی طرح، کچھ نیز رفتار گھوڑوں، ٹیڑوں اور اونٹوں کی طرح اپنے پیروں پر گزر جائیں گے۔ کوئی انسان نجات پر جائے گا، کوئی انہی حالتوں میں پاؤں سے اترے گا اور نجات سے اس کو کب جائیں گے، ان کے حالات درج ذیل ہیں: ^۱

تہنقی میں ٹھیس بن مرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ انہیں اللہ کی اور اللہ کا چہرہ نہ ملتا۔ تلاوت نہ فرمالتے۔ نعل بن مرہ فرماتے ہیں: حواصم (یعنی قرآن پاک) میں حمرے شروع ہونے والی آیتیں (سورۃ النجم) کے ساتھ ساتھ دروازے بھی سات ہیں: بنجم، حطمہ، نطی، سعیر، بحر، ہاویہ اور جیم۔ فرمایا اور ہم قیامت کے دن آئے گی اور انہم سے ان دروازوں پر لٹری ہو جائے گی۔ پھر وہ دعا کرے گی: اے اللہ! کوئی ایسا شخص ان دروازوں میں سے داخل نہ ہو جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور میری تلاوت کرتا ہو۔ ^۲ امام تہنقی فرماتے ہیں یہ روایت منقطع ہے اور ٹھیس بن مرہ میں بھی کلام ہے۔

ابوبکر بن ابی الدنیا فرماتے ہیں خلف بن ہشام نے ابوشباب خیاط سے نقل کیا وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت علیؑ سے روایت فرماتے ہیں فرمایا: جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ (پھر آگے راوی ابوشباب نے انہیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ) پہلے یہ بھرے گا پھر یہ بھرے گا پھر یہ۔ ابن جریج فرمان الہی (اس کے ساتھ دروازے ہیں) کے متعلق فرماتے ہیں ان میں پہلا جہنم ہے، پھر نطی، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر جیم اسی میں ابو جہل ہوگا اور پھر ہاویہ ہے۔ ^۳

ترمذی میں مالک بن مغول کے حوالہ سے حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم کے ساتھ دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ اس شخص کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ ^۴ اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت غریب ہے اور اس کو ہم صرف مالک بن مغول کے حوالہ سے جانتے ہیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ حروریہ (اوائل اسلام کے ایک فرقے) کے لیے ہوگا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں جہنم کے ہر دو دروازوں کے درمیان ستر سال کا فاصلہ ہے۔ ہر دروازہ (عذاب میں) اپنے سے اوپر والے سے ستر گنا زیادہ ہے۔

فرمان الہی ہے:

”اے مؤمنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خواہی سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔“ (سورۃ التحریم آیت: 6)

یعنی جس چیز کا حکم ملتا ہے اسے عزم و استحکام اور بھرپور قوت و طاقت کے ساتھ فوراً پورا کرتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے:

”اس پر انہیں داروغہ ہیں۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں۔“ (سورۃ المدثر آیت: 30، 31)

اور آگے فرمایا:

① البیہقی: ۵۰۵۔ کنز العمال: ۳۹۰۳۳۔ الدر المنثور: ۱۰۰/۳۔ البیہقی: ۵۰۸۔ الدر المنثور: ۹۹/۳۔ کنز العمال: ۲۶۲۱۔

② البیہقی: ۵۰۸۔ الدر المنثور: ۹۹/۳۔ کنز العمال: ۲۶۲۱۔ الترمذی: ۳۱۲۳۔ مستدرک احمد: ۹۳/۳۔

بندوں کو ذرا تازے قاتے میرے بندے مجھ سے ڈرتے رہوں۔ (مرسلہ: 16)

ایسے لوگوں کے لیے (پہلوؤں میں رکھیں) انہیں (مردوں اور عورتوں اور بچوں اور عورتوں اور بچوں کو) مسکینوں کے لیے دینا ہے
ہیں۔ (سورۃ الاحزاب آیت 41)

”یہ دو (فریق) ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار (کے بارے) میں جھگڑتے ہیں تو بے شک ان کے لیے آگ کے
پکڑے قطع کئے جائیں گے (اور) ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے ان کے پیٹ کے اندر لی چیزیں اور
کھالیں گل جائیں گی اور ان (کے مارنے ٹھوکنے) کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔“ (سورۃ الحج آیات: 19-21)

حافظ ابو یعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعیدؓ سے نقل کیا ہے وہ حضور ﷺ سے روایت فرماتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا
اہل جہنم کی حدود چار دیواریں ہیں اور ہر دیوار کا حصہ چالیس سال کی مسافت کے بقدر ہے۔^① مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر جہنم کے گرزوں میں سے کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور جن وانس مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھ
پائیں گے۔^② ابن وہب فرماتے ہیں اگر جہنم کے گرز کی ایک ضرب کسی پہاڑ پر ماری جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر کے غبار بنا دے گی۔^③

جہنم کے عذابوں کی چند انواع و اقسام

حافظ ابو بکر بن مردویہ اپنی تفسیر میں حضرت یعلیٰ بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جہنم
کے لیے ایک بادل پیدا فرمائیں گے۔ وہ ان پر چھا جائے گا۔ اس میں سے ایک آواز آئے گی: اے اہل جہنم! بولو تم کس چیز کے طلب گار
ہو اور تمہارا کیا سوال ہے؟ جہنمیوں کو بادل دکھ کر دنیا کے بادل اور وہ پانی جو ان پر برستا تھا یاد آ جائے گا تو وہ سوال کریں گے: اے رب
ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے لہذا ان پر طوق برسیں گے جو ان کی گردنوں میں پڑے پہلے طوقوں میں اضافہ کر دیں گے ان پر زنجیر
برسیں گی جو ان کی زنجیروں میں اضافہ کا سبب بنیں گی اور آگ کے شعلے برسیں گے جو جہنم کی آگ کو دو چند کر دیں گے۔^④

ابو بکر بن ابی الدنیا اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوالاحوص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے لوگوں سے پوچھا
بتاؤ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ ایک شخص نے عرض کیا: منہا نقین کو۔ فرمایا: درست۔ دریافت کیا ان کو کیسے عذاب دیا جا
گا؟ فرمایا: ان کو لوہے کے تابوتوں میں بند کر کے جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں شطرنج کے مہرے سے بھی چھوٹے آگ کے تنور میں رکھ
دیا جائے گا جس کو ”جب الحزن“ یعنی غم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری اقوام کو بھی ان کے اعمال کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند کر د
جائے گا۔ ابن ابی الدنیا میں حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے فرمایا: اہل جہنم جو جہنم کے مستحق ہیں وہ نکلنے کا راستہ نہ پائیں گے۔ سو سکیں
گے اور نہ مر سکیں گے۔ آگ پر چلیں گے آگ پر بیٹھیں گے اور جہنمیوں کی پیپ پیپیں گے اور جہنمیوں کا کھانا (زقوم) کھائیں گے۔ ا
کا اوڑھنا آگ ہوگا اور کاجھونا بھی آگ کا ہوگا۔ ان کی قبریں آگ اور تارکول کی ہوں گی۔ ان کے مونہوں پر آگ کی لپٹیں مسلط رہیں

① الترمذی: ۲۵۸۳۔ مسند احمد: ۳/۲۲۹۔ مسند احمد: ۳/۲۹۔ مجمع الزوائد: ۱۰/۳۸۸۔ مسند احمد: ۳/۸۲۔ مجمع الزوائد: ۱۰/۳۸۸۔

② التزیغی: ۳/۳۷۳۔ الدر المنثور: ۵/۳۵۷۔ الکافی فی الضعفاء: ۱/۲۳۰۔

گی۔ تمام جہنمی زنجیروں میں بندھے ہوں گے جن کے سرے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گے جو ان کو آگے پیچھے کھینچتے پھریں گے۔ ان سے یہ ویسپ انہم سے کرتے ہیں، دوتے رہیں گے۔ میں ان سے پینے کا سامان ہوا۔

اس کے بعد حضرت وہب بن منہ روئے نے لکھے تھے کہ بے ہوش ہو کر پڑے۔ اس روایت کے راویوں میں حضرت ہریر بن حبیش سے روایت کرنے کے بعد ان قدر روئے کہ بات کرنے کی بہت ندرتیں اور دوسرے راوی محمد بن جعفر بھی بہت زیادہ روئے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ حضرت وہب بن منہ کا کلام تھا جو کئی کتابوں میں ملتا ہے اور اہل کتاب سے منقول ہے۔ قرآن وحدیث سے بھی اس کے شواہد ملتے ہیں۔ فرمان الہی ہے:

”اور کفار گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی (اپنے آپ پر) ظلم کرتے تھے اور پکاریں گے اے مالک! تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے۔“ (سورۃ الزخرف آیات: 74-77)

فرمان الہی ہے:

”اے کاش! کافراں وقت کو جانیں جب وہ اپنے مومنوں پر سے (دوزخ کی) آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی بیٹیوں پر سے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا بلکہ قیامت ان پر ناگہاں واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔“ (سورۃ الانبیاء: 49-40)

فرمان الہی ہے:

”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار! ہم کو نکال لے (اب) ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو (پہلے) کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تو اب مزے چکھو! ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“

(سورۃ قاطر آیت: 36-37)

فرمان الہی ہے:

”اور جو لوگ آگ میں (جل رہے) ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں! تو وہ کہیں گے تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا (اس روز) بے کار ہوگی۔“ (سورۃ غافر آیت: 49-50)

فرمان الہی ہے:

”اور (بے خوف) بد بخت پہلو تہی کرے گا جو (قیامت کو) بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا نہ بچے گا۔“

(سورۃ الاعلیٰ آیات: 11-13)

فرمان الہی ہے:

اور میں دیکھوں اور میں پائی جاؤں گا لوگوں میں اختراہوں وہ تارے (سورہ نحمد آیت: ۱۶)

فرمان الہی ہے:

”اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرین کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی ضرب (گرم ہوگا

اور جو) مونہوں کو بھون ڈالے گا (ان کے پینے کا) پانی بھی برائے۔ (سورہ انف آیت: 29)

ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون﴾

”اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔“

پھر فرمایا: اگر زقوم درخت (جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا اس) کا ایک قطرہ بھی دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو وہ اہل دنیا کا جینا دو بھر کر دے گا تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا یہ کھانا ہوگا۔^۱ ابو یعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعیدؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر جہنمیوں کے عساق (پانی) کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا بدبو دار ہو جائے۔^۲

حضرت کعب احبارؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندہ کو غصہ سے دیکھیں گے اور فرمائیں گے اسے پکڑو! تو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ فرشتے اس کو پکڑیں گے۔ وہ پیشانی اور قدموں کے درمیان اس کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ بھی اس پر غضبناک ہوں گے اور اس کو چہرے کے بل جہنم کی طرف گھسیٹیں گے اور آگ ان سے ستر گنا زیادہ اس پر غضبناک ہوگی۔ جہنمی پانی مانگے گا تو اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا جس سے اس کا گوشت اور اس کے پٹھے گرم ہو جائیں گے اور اسے جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ سو اس کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔

آپ ہی سے مروی ہے کہ آپ نے دریافت فرمایا: جانتے ہو عساق کیا چیز ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا: یہ جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں تمام سانپ، بچھوؤں اور دوسری چیزوں کا زہریلا مواد اور پسینہ بہہ بہہ کر گرتا ہے۔ آدمی کو لایا جائے گا اور اس میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کی ہڈیوں سے سارا گوشت گل کر گر جائے گا اور اس کی کھال اور گوشت اس کے ٹخنوں میں جا گرے گا۔ وہ اپنے گوشت کو یوں گھسیٹتا پھرے گا جیسے کوئی اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے۔

جہنم کے ناموں سے متعلق روایات اور ان کی وضاحت

الھاویہ: ابن جریج فرماتے ہیں یہ جہنم کا بالکل نچلا طبقہ ہے۔ فرمان الہی ہے:

”اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہاویہ ہے۔“ (سورہ القارعہ آیت: 8: 9)

ایک قول یہ ہے کہ ہاویہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سر کے بل نیچے گرایا جائے گا کیونکہ ہوی بھوی کا معنی ہے نیچے گرنا لہذا اوپر سے

۱ ابن ماجہ: ۳۲۲۵۔ ۲ الترمذی: ۲۵۸۳۔ مستدرجاً۔

جہنم میں گرایا جانا ہی فقط اس کا مطلب ہے۔ حدیث میں ہے آدمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کہتا ہے لیکن اس کی وجہ سے (بھڑی بھڑا) جہنم میں ستر سال کی گہرائی تک آرا دیا جاتا ہے۔ یہاں کسی بیوی اسی میں قتل ہوئے۔ ایک قول یہ ہے کہ فامہ ہاویہ کا مطلب جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے یا یہ خود آگ کی صفت ہے اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ بن ابی الدنیا نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مؤمن مر جاتا ہے تو (پہلے سے مرے ہونے مردوں کی روحیں) اس نئے آنے والے مؤمن سے سوال جواب کرتی ہیں کہ فلاں کا کیا بنا فلاں کا کیا بنا؟ لیکن اگر کوئی مر جائے اور ان کے پاس نہ آئے تو وہ کہتے ہیں اس کو ہاویہ جہنم میں لے گئے ہیں۔ وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہت بری پرورش گاہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی (نیک روح والا ان کے پاس) آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا کیا اس نے شادی کر لی؟ فلاں کا کیا ہوا کیا اس نے شادی کر لی؟ پھر آپس میں کہتے ہیں چھوڑو اس کو آرام کرنے دو۔ یہ سفر سے آیا ہے۔

ابن جریر میں ہے حضرت اشعث بن عبد اللہ الاعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مؤمن مر جاتا ہے تو اس کی روح مؤمنین کی ارواح کے پاس لے جائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کی شادی کر دو یہ دنیا کے غم میں تھا پھر پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا وہ کہتا ہے اس کا تو انتقال ہو گیا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اس کو امہ الہاویہ یعنی جہنم میں لے گئے ہوں گے۔^۱

حافظ ضیاء المقدسی نے پانی کتاب میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا فرمایا امانت کے ماسوا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے لہذا صاحب امانت کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا امانت ادا کر! وہ کہے گا: یا رب! دنیا ختم ہو چکی۔ یہ بات تین مرتبہ ہوگی۔ پھر حکم سنا دیا جائے گا کہ اس کو ہاویہ میں لے جاؤ۔ لہذا اس کو لے جایا جائے گا اور اس میں دھکیل دیا جائے گا وہ اس میں گرے گا حتیٰ کہ اس کی گہرائی تک جا پہنچے گا۔ وہاں اس امانت کو بعینہ پہلی شکل میں پائے گا۔ چنانچہ اس کو اٹھائے گا اور اپنے کندھے پر رکھے گا پھر اس کو لے کر جہنم کی آگ میں چڑھے گا حتیٰ کہ جب نکلنے کے قریب ہوگا پھسل جائے گا اور ہمیشہ کے لیے دوبارہ گہرائی میں جائے گا۔ نیز فرمایا: امانت نماز میں بھی ہے (کہ اس کو ادا کرے اور صحیح ادا کرے) امانت روزے میں بھی ہے۔ امانت وضوء میں بھی ہے۔ امانت بات چیت میں بھی ہے (کہ کسی کا راز یا آپس کا عہد انشاء نہ کرے) لیکن ان سب امانتوں میں سخت امانت کسی کی امانت رکھوائی ہوئی شے ہے۔ حدیث کے عالی راوی زاذران فرماتے ہیں میں نے حضرت براؤ سے کہا کہ آپ کے بھائی عبد اللہ بن مسعود یہ روایت بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: وہ سچ کہتے ہیں۔ یہ روایت مسندات میں سے نہیں اور نہ صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں ہے۔

جب الحزن یعنی غم کی وادی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب الحزن کیا شے ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ وہ

ریا کارقاریوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مبعوض اور ناپسندیدہ وہ قاری ہیں جو امراء اور خالم حکام کے دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔^①

جہنم کی نہر کا ذکر جس میں جہنمیوں کے میل پچیل اور لہو پیپ وغیرہ جمع ہوں گے اور شراب کے عادی

رشتہ ناطہ قطع کرنے والے اور جادوگر کی تصدیق کرنے والوں کو اسی نہر سے پلایا جائے گا

مسند احمد میں ابو موسیٰ کی حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو غوطہ کی نہر سے پلائیں گے۔ پوچھا گیا نہر الغوطہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ نہر جو فاحشاؤں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی غلاظت سے جاری ہوتی ہے۔ نیز اہل جہنم کو ان فاحشات کی شرمگاہوں کی بدبو سے بھی ایذا دی جائے گی۔^②

وادی لم لم کا ذکر

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لم لم ہے۔ جہنم کی دوسری وادیاں بھی اس کی تپش سے اللہ کی پناہ مانگتی ہیں۔^③ یہ روایت غریب ہے۔

جہنم کی ایک وادی کا ذکر

ابو بکر بن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام صہب ہے۔ اللہ پر لازم ہے کہ اس میں ہر جاہل شخص کو سکونت دے۔ اس فلاں! خیال رکھنا کہیں تو ان میں سے نہ ہو جائے۔^④ نیز رسول اللہ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کا نام صہب ہے اللہ پر حق ہے کہ ہر جاہل کو اس میں ٹھہرائے۔

ویل اور صعود کا ذکر

ویل یومئذ للمکذبین:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے“۔ (سورۃ المرسلات)

① الترمذی: ۲۳۸۳۔ ابن ماجہ: ۲۵۶۔ ② مسند احمد: ۳/۳۹۹۔ ③ کنز العمال: ۳۹۹۹۹۔ اتحاف السادة المستعینین: ۱۰/۵۱۲۔

④ مسند الدارمی: ۲/۳۳۱۔ المسند رک للماکم: ۴/۵۹۷۔

سارہ فقہ صعوداً:

یہ فرمان الہی ہے: ”ہم اسے صعود پر پڑھائیں گے۔“ (سورۃ المدثر آیت: ۱۷)

من احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ کفار اس میں چالیس سال تک گرتے ہی رہیں گے۔ پھر کہیں جا کر اس کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ صعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جنہی اس پر ستر سال تک چڑھتا رہے گا پھر اتنا ہی عرصہ اترنے میں صرف ہوگا۔ یہی حال ہمیشہ رہے گا۔“^۱ یہ روایت امام ترمذی اور امام ابن جریر نے بھی روایت کی ہے لیکن ضعیف ہے بلکہ اس سے مزید نیچے منکر کے درجہ میں ہیں زیادہ مناسب ویل کی تفسیر نجات اور سلامتی کی ضد ہے جیسے عرب میں عام لہا جاتا ہے ویل لہ اس کو ویل ہے۔

صعود کے معنی

امام الزہراؑ ابن جریرؑ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ایک ہی سند کے ساتھ حضرت ابوسعیدؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے اس فرمان ”سارہ فقہ صعوداً“ کے متعلق فرمایا: صعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کافر کو مجبور کیا جائیگا کہ اس پر چڑھے لہذا جب وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ (پہاڑ کی شدت تپش کی وجہ سے) پگھل جائے گا۔ جب اٹھائے گا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح جب اپنا پاؤں رکھے گا تو پگھل جائے گا۔ جب اٹھائے گا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا۔^۲ حضرت قتادہ حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ صعود جہنم میں ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ حضرت سدیؒ فرماتے ہیں صعود جہنم میں ایک پھسلن والی چٹان کا نام ہے۔ کافر کو اس پر چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں: آیت ہم سے اسے صعود پر چڑھائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مشقت والا عذاب دیں گے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس کا مطلب عام ہے یعنی ایسا عذاب دیں گے جس میں راحت نہ ہوگی۔ اسی کو امام ابن جریرؑ نے اختیار فرمایا ہے۔

جہنم کے سانپ بچھوؤں کا ذکر (اللہ اپنی پناہ میں رکھے)

ارشاد خداوندی ہے:

”جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس مال کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔“

(سورۃ آل عمران آیت: ۱۸۰)

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو صاحب خزانہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو وہ مال اس کے لیے قیامت کے دن گننے سانپ کی شکل میں متشکل ہو جائے گا۔ اس کی دوا نکھیں ہوں گی۔ وہ اپنے جیزوں سے اس

① الترمذی: ۳۱۶۳۔ ② زاد المسیر لابن الجوزی: ۸/۳۰۶۔

شخص کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا نران ہوں۔^① دوسری روایت میں ہے وہ شخص اس سانپ کو دیکھ کر بھاگے گا سانپ اس سے پیچھے دوڑے گا اور اس کو پائے گا اور اس کا ہاتھ پھانسنے کا اور اس سے کھٹے کا سون بن جائے گا۔ چہرہ اس سے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے نکل کرتے ہیں وہ ان نکل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں نکل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔“

(سورہ آل عمران آیت: 180)

اعمش، عبداللہ بن مروہ، مسروق کے سلسلہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس فرمان الہی:

”جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) خدا کے راستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ شرارت کیا کرتے تھے۔“ (سورہ النحل آیت: 88)

کے متعلق مروی ہے آپ فرماتے ہیں (عذاب پر عذاب دیں گے) کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بڑے بچھو جن کی دہیں ہوں گی شہد کی مکھیوں کی طرح چھوڑے جائیں گے۔ بیہتی میں عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں: جہنم میں ایسے سانپ ہیں جن کی موٹائی تختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوگی۔ وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈس لیں تو چالیس سال اس کی تکلیف ختم نہ ہوگی۔^② ابن ابی الدنیا میں ہے حضور ﷺ کے قدیم صحابی نفیر بن جیب فرماتے ہیں: جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں۔ ہر وادی میں ستر ہزار گھائیاں ہیں۔ ہر گھائی میں ستر ہزار گھر ہیں۔ ہر گھر میں ستر ہزار شکاف ہیں۔ ہر شکاف میں ستر ہزار اژدھے ہیں اور ہر اژدھے کے منہ میں ستر ہزار بچھو ہیں۔ کافر اور منافق ختم نہ ہوں گے بلکہ ان کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ روایت موقوف ہے اور منکر ہے۔ اس میں ایک راوی سعید بالکل مجہول ہے اور بھی کئی ضعیف ہیں۔ بعض مفسرین نے جہنم کی وادیوں میں ”خی اور اتام“ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ فرمان الہی ہے:

”اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا رکھی ہے۔“ (کہف: 52)

بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جہنمیوں کے لہو اور پیپ وغیرہ کی نہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں قیامت کے دن اہل ہدایت اور اہل ضلالت کے درمیان امتیاز قائم کر دیا جائے گا۔ بیہتی میں عبدالجبار الخولانی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں دمشق میں ہمارے پاس حضور ﷺ کے اصحاب میں سے ایک صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کا دنیا میں انہماک ملاحظہ فرمایا تو کہنے لگے ان کو کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ کیا ان کے پیچھے فلق نہیں ہے؟ لوگوں نے سوال کیا فلق کیا شے ہے؟ فرمایا: جہنم میں ایک کنواں ہے جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اہل جہنم بھی اس سے بھاگ جائیں گے۔^③

① مستدرج: ۷۵/۳۔ ② مستدرج: ۱۹۱/۴۰۔ کتر العمال: ۳۹۵۰۳۔ ③ البیہقی: ۵۲۹۔

عبرت انگیز خطبہ

امام بیہقی (ماکرم اسم ابراہیم بن مرزوق سعید بن عامر) کی سند سے حضرت شجبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شجبہ نے فرمایا: (خليفة) منصور کے پاس خط لکھا گیا جو میں نے ان کو پڑھ کر سنایا کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ یزید بن شجرہ ایک انتہائی پارسیا شخص تھا حضرت معاویہ ان کو مختلف مشکروں پر امیر بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ام کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنائے بعد فرمایا:

”اے انسانو! اپنے اوپر خدا کے احسانات کو یاد کرو۔ کاش تم وہ کچھ دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں! یہاں سرخ زرد اور ہر رنگ کے لوگ ہیں۔ دیکھو! جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حوریں بن سنور جاتی ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آگے بڑھتا حور عین اس کے لیے مزین ہوتی ہے اور سب حوریں دعا کرتی ہیں اے اللہ! اس کو ثابت قدم رکھ! جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو اس سے چھپ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ! اس کی پکڑ فرما! پس اے لوگو! تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں خون میں نہا جاؤ۔ کیونکہ پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے جیسے شاخ سے پتہ گر جاتا ہے اور دو حور عین اس (شہید) کی طرف بروہتی ہیں اور اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ کہتی ہیں: ہم تجھ پر نچھاور ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے میں تم پر قربان ہوں۔ پھر اس کو سو جوڑے پہنائے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا: اگر وہ جوڑے میری ان دو انگلیوں کے درمیان میں رکھے جائیں تو یہ جگہ ان سب جوڑوں کے لیے کافی ہوگی۔ وہ کپڑے بنی آدمی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ وہ جنتی لباس ہوں گے۔ یاد رکھو! تم اللہ کے ہاں اپنے ناموں، علامتوں، باتوں، حلال و حرام اور اپنی مجالس کی شناخت کے ساتھ لکھے ہوئے ہو۔ پس جب قیامت کا روز ہوگا تو کہا جائے گا: اے فلاں! یہ تیرا نور ہے۔ یہ تیرا نور ہے۔ اے فلاں! تیرے لیے کوئی نور نہیں اور جہنم کا بھی ایک ساحل ہے جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے۔ اس پر بڑے سختی اونٹوں کی مانند جوئیں اور سانپ ہوں گے۔ جب اہل جہنم کا بھی ایک ساحل ہے جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے۔ اس پر بڑے سختی اونٹوں کی مانند جوئیں اور سانپ ہوں گے۔ جب اہل جہنم عذاب میں تخفیف چاہیں گے تو ان کو کہا جائے گا اچھا ساحل کی طرف نکل جاؤ۔ وہ ساحل پر پہنچیں گے تو یہ زہریلے سانپ اور جوئیں اور دیگر بلائیں ان سے چٹ جائیں گی اور ان کے مونہوں اور پہلوؤں کو کاٹیں گے آخروہ لوٹ کر آگ کے مرکز میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ وہ کھجائیں گے اور کھجائیں گے کہ ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ان کو کہا جائے گا اے فلاں! کیا تجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو ایمان والوں کو ایذا پہنچاتا تھا۔“

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کیا جنت اس کے متعلق کہتی ہے: اے اللہ! اس کو جنت میں داخل فرما دے اور جس نے جہنم سے تین مرتبہ پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے: اے اللہ! اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔

جو خلوص نیت کے ساتھ جہنم کی گرمی و سردی سے خدا کی پناہ مانگے خدا کی رحمت اس کے قریب ہے:

بیہقی میں حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب گرمی کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان وزمین والوں کی طرف اپنے کان اور نگاہیں لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ہائے کسی سخت گرمی ہے۔ اے اللہ! مجھے جہنم کی گرمی سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو فرماتے ہیں: میرے ایک بندے نے تجھ سے میری پناہ مانگی ہے لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کو تجھ سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اسی طرح جب سخت سردی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان وزمین والوں کی طرف اپنے کان اور نگاہیں لگا دیتے ہیں چنانچہ جب کوئی بندہ کہتا ہے: لا الہ الا اللہ! ہائے کیسی سخت (زمرہ ریز) سردی ہے۔ اے اللہ! مجھے جہنم کی سردی سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو فرماتے ہیں: میرے ایک بندے نے تیری سردی سے میری پناہ مانگی ہے لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کو تجھ سے اپنی پناہ میں لے لیا۔^۱ صحابہؓ نے دریافت کیا: یہ زہریرہ کیا شیء ہے؟ فرمایا: زہریرہ وہ جگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں کسی کا فرکوڈ الیس گے تو سردی کی شدت سے اس کے اعضاء ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔

فصل

جہنم کے درجات کا بیان (اللہ اپنی پناہ میں رکھے):

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء کا قول ہے سب سے بالائی درجہ جہنم ہے جو امت محمدیہ ﷺ کے گنہگاروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس کو گنہگاروں کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے گا (اور جہنم کی) ہوائیں اس کے دروازوں کو بجائیں گی۔ پھر نطفی، عطمہ، سعیر، سقر، جحیم اور سب سے آخر میں ہادیہ ہے۔^۲ ضحاک کہتے ہیں سب سے بالائی طبقہ میں امت محمدیہ کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ اس کے نیچے دوسرے حصہ میں نصاریٰ تیسرے میں یہود چوتھے میں ستارہ پرست، پانچویں میں آگ پرست، چھٹے میں مشرکین عرب اور سب سے نچلے ساتویں میں منافقین ہوں گے۔ مصنف فرماتے ہیں اس تخصیص اور درجہ بندی کے اثبات کے لیے کسی مضبوط سند کی ضرورت ہے جو نبی معصوم حضور ﷺ تک پہنچتی ہو جن کے لیے فرمان باری تعالیٰ ہے:

”اور (آپ ﷺ) خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے۔ یہ تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے۔ ان کو

نہایت قوت والے نے سکھایا ہے۔“ (سورۃ النجم آیات: ۳-۵)

لہذا ان کی درجہ بندی صحیح طور پر خدا ہی کو معلوم ہے۔ ہاں آخری درجہ منافقین کے لیے ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔ نیز ان سب کا جہنم میں جانا بھی یقینی ہے۔ امام قرطبی فرماتے جہنم کے مذکورہ بالا ناموں میں بعض نام ایسے ہیں جن کا اطلاق کل جہنم پر ہوتا ہے جیسے جہنم، سعیر اور نطفی لیکن جہنم کے دروازے سات ہی ہیں۔ مصنف بھی امام قرطبی کی تائید فرماتے ہیں۔

① الحکم فی المستدرک ۳/۳۹۵۔ ② الترمذی: ۲۵۷۲۔ التسانی: ۵۵۳۶۔ ابن ماجہ: ۳۳۴۰۔

③ القرطبی سورۃ النساء الآیہ: ۱۳۵ الحدیث: ۳۲۲/۵۔

جہنم کے بعض اژدھوں کا ذکر (اللہ بناہ میں رکھے)

عبداللہ بن الحارث حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جہنم میں سانپ ہیں جو سختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ اگر وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈس لیں تو وہ شیش چالیں سال تک اس کی شدید تکلیف میں مبتلا رہے گا۔^۱ ظہرائی میں براہین عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان

”ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے۔ (سورۃ نمل آیت: ۸۸)

کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں بڑی مکھیوں (کے غولوں) کی طرح کے بچھوان پر چٹ جائیں گے اور ان کو کاٹیں گے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جہنم کے سانپ اور اژدھے وادیوں کی طرح (بڑے بڑے) ہوں گے۔ جہنم کے بچھو (بڑے بڑے) قلعوں کی طرح ہوں گے۔ ان کی دین تیز نیزوں کی طرح ہوں گی۔ ان میں سے کسی کا فرکوڈ سے گا (شدت زہر کی وجہ سے) اس کا گوشت اس کے قدموں میں گر جائے گا۔

اہل جہنم کی آہ و بکا اور چیخ و پکار

ابو یعلیٰ الموصلی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا: اے لوگو! روؤ! اگر روانہ آئے تو بھکھو روؤ کیونکہ اہل جہنم جہنم میں روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر نالہ کی صورت اختیار کر لیں گے۔ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ آنکھوں میں گڑھے بن جائیں گے اگر ان آنسوؤں میں کشتی چلائی جائے تو چل پڑے گی۔^۲ ابن ابی الدنیا میں سند ازید بن رفیع سے مرفوعاً منقول ہے: فرمایا: اہل جہنم جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک زمانہ تک آنسوؤں کے ساتھ روئیں گے۔ پھر ایک زمانہ تک خون کے آنسو روئیں گے۔ اہل داروغہ کہیں گے: اے بد بخت گروہ! گزشتہ گھر میں تم روئے نہیں۔ آج ہے کوئی جو تمہاری مدد کرے؟ وہ لوگ بلند آواز سے پکاریں گے: اے اہل جنت! اے باپو! ماؤں! اور اولاد! ہم قبروں سے پیاسے اٹھے تھے۔ میدان محشر میں بھی طویل عرصہ پیاسے رہے افسوس! آج بھی ہم شدت پیاس میں ہیں۔ ہمارے اوپر کچھ انڈیل دو یا اور کچھ جو خدا نے تم کو دیا ہے۔ فرمایا: ان کی پکار پر چالیس سال تک کوئی دھیان نہ دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا تم چپ کر کے پڑے رہو۔ تب وہ کلی طور پر مایوس ہو جائیں گے۔ فرمان الہی ہے:

”آگ ان کے مونہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔“ (سورۃ المؤمنون آیت: ۱۰۴)

مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ﴾

”اور وہ اس میں تیوری چڑھائے پڑے ہوں گے۔“ (سورۃ المؤمنون آیت: ۱۰۴)

① المسند رک للسخام ۵۹۳/۳۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۵۶۹۱۔ ② ابن ماجہ: ۴۱۹۶۔

پھر فرمایا آگ ان کے پیروں کو جھون ڈالے گی۔ ان کا بالائی ہونٹ اوپر چڑھتے چڑھتے وسط سر سے مل جائے گا اور نچلا ہونٹ نکلے نکلے نافی تک پہنچ جائے گا۔ ابن مردودہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی مریمؑ نے اللہ سے اس کی قسم لی۔

”آگ ان کے منہوں کو جیس دے گی“ (سورۃ المؤمنین آیت 104)

کے متعلق فرمایا: آگ ان کو جھلسائے دے گی کہ ایک ہی لپٹ سے ان کا گوشت ان کی ایزبوں پر گر جائے گا۔

جہنم اور اہل جہنم کی صفات سے متعلق مختلف احادیث:

ابوالقاسم الطبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ^۱ (مسلمانوں کے گنہگار) بھی ہوں گے، جن کو خدا چاہے تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے: کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ کفار کہیں گے: پھر تمہارے اسلام نے تم کو کیا فائدہ دیا؟ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو۔ مسلمان کہیں گے: ہمارے سر پر کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ باتیں سنیں گے تو حکم فرمائیں گے کہ جو اہل قبلہ جہنم میں ہیں سب کو نکال لو۔ آخر سب مسلمانوں کو نکال لیا جائے گا۔ باقی رہ جانے والے کفار دیکھیں تو کہیں گے: اے کاش! کہ ہم مسلمان ہوتے تو ہم بھی انہی مسلمانوں کی طرح نکال لئے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿اعْوِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَلرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِيْنٍ رُّسْمًا يُوَدُّ الْاَلْدِيْنَ كَفْرًا وَّالْوُ

كَانُوا مُسْلِمِيْنَ﴾ (سورۃ الحجرات آیت: 21)

”الم۔ یہ (خدا کی) کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔“

امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت صالح بن طریف سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے پوچھا: کیا آپ نے حضور ﷺ سے اس فرمان الہی: کسی وقت کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے (سورۃ الحجرات آیت: 2) کے متعلق کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں۔ آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے اور ان سے اپنا عذاب ہٹالیں گے۔^۲ نیز فرمایا: جب اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ جہنم میں داخل فرمائیں گے تو مشرکین ان سے کہیں گے: دنیا میں تم تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات سنیں گے تو ان مسلمانوں کے لیے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے لہذا ملائکہ انبیاء اور مؤمنین ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے ان کو نکال لیں گے۔ چنانچہ مشرکین جب یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے: اے کاش کہ ہم بھی ان جیسے (مسلمان) ہوتے تو آج ہمیں بھی شفاعت نصیب ہو جاتی اور ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ فرمایا: اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿رُسْمًا يُوَدُّ الْاَلْدِيْنَ كَفْرًا وَّالْوُ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ﴾

① المستدرک: ۲۳۲/۲، مجمع الزوائد: ۴۵/۲، کنز العمال: ۲۹۵۵۵۔ ② الاوسط للطبرانی: ۲۸۹۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

”ایک وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے“۔ (سورۃ الحج آیت: ۲۶)

پھر وہ بہت میں جہنمیوں ہی سے نام سے پہچانتے جائیں گے۔ یہ عداوتیں ان کے چہروں پر سیاہی ہوتی ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ رب ایہ نام ہم سے ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو ان کو جنت کی نہر میں غسل دیا جائیگا جس سے ان کے چہروں سے وہ علامت ختم ہو جائے گی۔ ابواسامہ نے اس روایت کی توثیق فرمائی ہے۔ طبرانی میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ لات و عزرائیل کے بچاری کہیں گے: تم کو لا الہ الا اللہ نے کیا فائدہ دیا؟ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو۔ ان کی بات پر اللہ کو غصہ آئے گا اور مسلمانوں کو جہنم سے نکال لے گا اور نہر حیات میں ان کو ڈال دے گا۔ پھر جیسے چاند گرہن سے نکلتا ہے اسی طرح وہ اپنی جلن سے تروتازہ نکلیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں ان کو جہنمیوں کے نام سے پکارا جائے گا۔^① ایک شخص نے حضرت انسؓ سے تاکیداً عرض کیا: اے انس! جانتے ہو نبی ﷺ کا فرمان ہے: جس نے قصداً مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو کیا آپ نے واقعی رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی ہے؟ حضرت انسؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات خوب اچھی طرح سنی ہے۔

ایک غریب روایت:

ابن ابی الدینا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں: قیامت کے روز جہنم کو ستر ہزار زماموں کے ساتھ باندھ کر لایا جائے گا۔ ہر زمام کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اس کے باوجود جہنم ان کی طرف جھک رہی ہوگی حتیٰ کہ اس کو لا کر عرش کے دائیں طرف کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کے بادل مسلط فرما دے گا۔ پھر پروردگار اس سے دریافت فرمائیں گے: (اے جہنم!) یہ کیسی ذلت ہے؟ وہ کہے گی: پروردگار! مجھے خوف ہے کہ میں میری وجہ سے آپ کی ذات پر حرف نہ آئے۔ پروردگار فرمائیں گے تو سر اسرعیب اور برائی کا مجسمہ ہے لیکن تیری وجہ سے مجھ پر کوئی قدغن عائد نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی فرمائیں گے اور وہ اس قدر کڑھائے گی کہ کسی آنکھ میں آنسو نہ پھیں گے بلکہ خوف اور ہیبت سے آنکھیں رو رو کر خشک ہو جائیں گی۔ پھر جہنم دوسری بار سخت کڑھے گی جس کی وجہ سے کوئی فرشتہ نہ بچے گا نہ نبی مرسل بلکہ ہر ایک بے ہوش ہو جائے گا صرف تمہارا پیغمبر (ﷺ) نبی رحمت رہ جائے گا جو کہہ رہا ہوگا: یا رب امتی امتی!^②

غریب روایات میں سے ایک روایت:

حافظ ابو نعیم اصبہانی اپنی سند کے ساتھ حضرت کعب احبار سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اولین و آخرین کو ایک ہی میدان میں جمع فرمائیں گے۔ ملائکہ اتریں گے اور ایک صف ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا اے جبریل! جہنم کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت جبریل جہنم کو لائیں گے جس کو ستر ہزار زماموں کے ساتھ ہانک کر لایا جائے گا۔ پھر مخلوق کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا حتیٰ کہ جب سو سال کا عرصہ گزر جائے گا تو جہنم لہلہائے گی جس سے مخلوق کے دل ہوا ہو جائیں گے۔ پھر جہنم دوسری بار سخت

① الاوسط للطبرانی ۷۲۸۹۔ مجمع الزوائد ۳۷۹/۱۰۔ الدر المنثور ۹۳/۴۔ کنز العمال: ۳۹۴۷۔ ② المستدرک: ۵۹۵/۴

گر جے گی جس کی وجہ سے دل اچھل کر حلقوں میں آ جائیں گے اور ہوش و حواس جاتے رہیں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گھبرا اٹھے گا جتنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے: آج میں خدا کے ساتھ اپنی اوستی کے فیصلے سرف اپنی ذات ہی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: اے خدا! اس عزت کے صدقہ جو تو نے مجھے بخشی آج میں اپنی ذات ہی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ مریمؑ جس نے مجھے جنم دیا تھا اس کے متعلق بھی آپ سے کچھ عرض نہیں کرتا۔ لیکن محمد ﷺ یوں عرض کریں گے: آج میں اپنی ذات کا سوال نہیں کرتا بلکہ اپنی امت کے لیے سوال کرتا ہوں۔ پروردگار آپ ﷺ کو جواب مرحمت فرمائیں گے: (اے محمد!) تیری امت میں جو میرے دوست ہیں آج انہیں کوئی خوف ہے نہ رنج۔ میری عزت کی قسم! میرے جلال کی قسم! آج میں تیری امت سے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ پھر ملائکہ اللہ عزوجل کے سامنے (ہاتھ باندھے مؤدب) کھڑے ہو جائیں گے کہ ارشاد خداوندی ہو (اور ہم فوراً تعمیل کریں) عالی و ذی مرتبت پروردگار عزوجل حکم فرمائیں گے: اے زبانیہ (جہنم کے فرشتوں) کی ایک جماعت! امت محمدیہ میں سے گناہوں پر ڈٹے رہنے والے لوگوں کو (جہنم) لے جاؤ۔ ان پر میرا شدید غضب ہے۔ دنیا میں انہوں نے میرے کام میں سستی دکھائی۔ میرے حق کی ناقدری کی۔ میری حرمت کو پامال کیا۔ لوگوں سے ڈرتے رہے لیکن مجھ سے جنگ کرتے رہے۔ حالانکہ میں نے انہیں عزت بخشی تھی۔ ان کو دوسری اقوام و امم پر فضیلت کا درجہ دیا تھا لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے میری عظمت و فضیلت کا پاس نہیں کیا۔ میری عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ پس اس وقت زبانیہ فرشتے ان کے مردوں کو داڑھیوں سے اور عورتوں کو مینڈھیوں سے پکڑ لیں گے اور جہنم کی طرف لے چلیں گے۔

اس امت کے علاوہ دیگر امم کے افراد کو سیاہ چہروں کے ساتھ لے جایا جائے گا وہ بھی اس حال میں کہ (زنجیروں وغیرہ کا) عذاب ان کے قدموں میں ہوگا اور گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے۔ لیکن اس امت کے افراد (کے ساتھ جہنم لے جانے میں بھی رعایت کی جائے گی اور ان) کو ان کے اپنے سابقہ رنگوں کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے داروغہ مالک کے پاس پہنچیں گے تو مالک ان کو کہے گا: اے بد بخت گروہ! تم کون سی امت ہو؟ تم سے اچھے چہرے والے میرے پاس اور کوئی نہیں آئے؟ وہ کہیں گے: اے مالک! ہم قرآن والی امت ہیں۔ مالک کہے گا: اے بد بخت گروہ! کیا محمد ﷺ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا؟ تب وہ امت محمدیہ کے گنہگار گریہ و زاری اور چیخ و پکار کریں گے۔ وا محمد! وا محمد! (خدا کی طرف سے حکم ہوگا) اے محمد! تیری امت میں سے جن کے لیے جہنم کا حکم ہوا ہے ان کے لیے شفاعت کرو۔ پھر مالک کو نندا دی جائے گی: اے مالک! تجھے کس نے حکم دیا ہے ان بد بختوں کے ساتھ عتاب کرنے کا؟ ان سے مکالمہ کرنے کا اور ان کو جہنم میں داخلہ سے روکے رکھنے کا؟ اچھا اے مالک! ان کے چہرے سیاہ نہ کرنا کیونکہ یہ دنیا میں رب العالمین کو سجدہ کرتے تھے۔ اے مالک! ان کو زنجیروں کے ساتھ نہ باندھنا کیونکہ یہ جنابت سے نسیل کرتے تھے۔ اے مالک! ان کو بیڑیاں نہ پہنانا کیونکہ یہ میرے حرمت والے گھر کا طواف کرتے تھے۔ اے مالک! ان کو تارکول کے لباس نہ پہنانا کیونکہ احرام کے لیے انہوں نے اپنے لباس اتار دیے تھے۔ اے مالک! جہنم کو کہہ دے کہ بس ان کو ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دینا۔ پس جہنم ان کو اور ان کے عذاب کی مقدار کو خوب اچھی طرح جان لے گی، جتنا کہ ایک ماں بھی اپنے بچے کو نہیں جانتی۔

لہذا جہنم کسی کو صرف اس کے گنہگاروں تک پکڑے گی، کسی کو گنہگاروں تک، کسی کو نافرمانوں تک اور کسی کو اس کے سینے تک جکڑے گی۔ پس

جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کبیرہ گناہوں اور ان کے گناہوں پر ڈٹے رہنے کی سزا دے لیں گے تو ان کے اور مشرکین کے درمیان دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ہر گناہ کے پھل ہبہ میں ہوں گے۔ ان امتوں نے اب تک کوئی خُصْمَتی شے، کبھی نہ کی۔ پی۔ ہوئی۔ وہ خوب روکیں گے اور کہیں گے: یا محمد! ایسی امت کے بدبختوں پر رحم فرمائیے۔ ان کی شفاعت فرمائیے۔ (جہنم کی بے رحم) آگ ان کے گوشت ہڈیاں اور خون تک کھا چکی ہے۔ پھر وہ اپنے پروردگار کو پکاریں گے: یا رب! یا سیدنا! اپنے ان بندوں پر رحم فرما جنہوں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے برے کام کئے، خطائیں کیں اور ظلم کیا۔ اس وقت مشرکین کہیں گے تمہیں اللہ اور محمد پر ایمان لانے نے کیا نفع دیا؟ یہ بات سن کر پروردگار رب العالمین غضبناک ہو جائیں گے اور جبریل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے: اے جبریل! جا جہنم سے امت محمدیہ کے تمام افراد کو نکال لا۔ حضرت جبریل ان کو جھٹوں کے جھتے نکالیں گے جو ہل کر کولمہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر نہر الحیاء میں ڈال دیں گے۔ وہ اس میں رہیں گے حتیٰ کہ پہلے سے زیادہ تازہ ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کو حکم دیں گے کہ جہنم کے آذر کردہ بندوں کو جنت میں داخل کریں۔ وہ اہل جنت میں اس علامت کے ساتھ ہی پہچانے جائیں گے (کہ یہ جہنم سے خلاصی پانے والے ہیں) پھر یہ دعا کریں گے کہ ان سے یہ علامت مٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ علامت ختم فرما دیں گے اور اس کے بعد اہل جنت میں اس علامت کے ساتھ ان کی پہچان ختم ہو جائے گی۔^①

دوسری روایات سے اس حدیث کے مختلف حصے مؤید ہیں۔

باب:

قیامت میں رسول خدا ﷺ کی شفاعت اور اس کی انواع و تعداد کا بیان

شفاعت عظمیٰ کا بیان:

حضور ﷺ کی شفاعتوں میں پہلی قسم شفاعت اولیٰ ہے۔ اسی کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین اور مومنین میں یہ شفاعت صرف حضور ﷺ کو ہی حاصل ہوگی۔ اس شفاعت کو پانے کے لیے تمام مخلوق محتاج ہوگی حتیٰ کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے کہ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں اسی طرح یکے بعد دیگرے دوسرے انبیاء کے پاس آئیں گے لیکن ہر ایک انکار کرے گا اور کہے گا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بالآخر یہ سلسلہ سید الاولیاء والا آخرین حضرت محمد ﷺ پر جا کر منتہی ہوگا۔ آپ ﷺ فرمائیں گے: ہاں ہاں، میں اس کا اہل ہوں۔^② لہذا آپ ﷺ تشریف لائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں ان کا حساب کتاب شروع فرمانے ان کو اس مقام سے نجات دینے، مومن اور کافر کے درمیان امتیاز فرمانے اور مومن کو جنت سے نوازنے اور کافر کو جہنم واصل فرمانے کی درخواست کریں گے۔ اس مقام کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں سورہ الاسراء کی ذیل آیت کے تحت بیان ہوئی ہے:

”اور کچھ حصہ شب میں بیدار ہوا کرو (اور تہجد کی نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی) تمہارے لیے سبب زیادت ہے۔ قریب ہے کہ

خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔“ (سورۃ الاسراء آیت: 79)

① تاریخ اصحاب لابی نعیم: ۱/۲۵۱۔ ② البخاری: ۷۵۱۰۔ المسلم: ۲۷۸۔

دیگر انبیاء و مرسلین کے مقابلہ میں حضور ﷺ کی خصوصیات:

صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی خصوصیات ملی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی و مرسلین کی تھیں۔ ایک ماہن مسافت کی دور سے میرا رب (دشمن پر مسلط) برے میری مدد کرتی ہے۔ میرے لیے ساری روئے زمین جائے جود اور پاک قرار دی گئی۔ اموال غنیمت میرے لیے حلال کر دیئے گئے جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں ہوئے۔ مجھے شفاعت کرنے کا اہل بنایا گیا اور یہ کہ ہر نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا جب کہ مجھے تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔^①

فرمایا: مجھے شفاعت کرنے کا اہل بنایا گیا۔ اس سے شفاعت عظمیٰ مراد ہے۔ حضور ﷺ بارگاہ خداوندی میں یہ شفاعت فرمائیں گے۔ یہ شفاعت حساب کتاب شروع ہونے سے متعلق ہوگی۔ تمام مخلوق اس شفاعت کی محتاج ہوگی کیونکہ ہر ذی روح میدان حشر میں کھڑا کھڑا تنگ ہو چکا ہوگا حتیٰ کہ ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم اور دیگر انبیاء و مرسلین رضی اللہ عنہم بھی اس شفاعت کی رغبت رکھیں گے اور اولین و آخرین سب اس کے مقترف ہوں گے۔ یہ شفاعت صرف حضور ﷺ کو حاصل ہوگی اور کسی پیغمبر کو نصیب نہ ہوگی اس کے علاوہ گنہگاروں کے متعلق شفاعت دیگر انبیاء و ملائکہ کو بھی حاصل ہوگی۔ حضرت امام اوزاعی، ابوعمار عبداللہ فن فروخ کے توسط سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں پہلا شخص ہوں جس پر سے زمین شق ہوگی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔^②

میں پہلا شخص ہوں جس پر زمین شق ہوگی کا مطلب ہے میں سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ اسی طرح امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں اور میں پہلا شخص ہوں جس کے لیے زمین شق ہوگی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد یعنی حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا ہوگا حتیٰ کہ آدم رضی اللہ عنہما اس کے نیچے ہوں گے۔^③

صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے رب نے مجھے فرمایا کہ میں ایک حرف پر قرآن پڑھوں۔ میں نے عرض کیا پروردگار میری امت پر آسانی فرماتا تو پروردگار نے جواب دیا ایک حرف پر پڑھو۔ میں نے پھر عرض کیا پروردگار میری امت پر آسانی فرماتا تو پروردگار نے تیسری مرتبہ جواب دیا اچھا سات حرف پر پڑھو۔ پھر فرمایا تم نے جتنی بار مجھ سے سوال کیا ہر سوال کے بدلہ میں جو چاہو مانگو میں نے عرض کیا اے پروردگار ایک تو میری امت کی مغفرت فرمادے اور باقی سوال میں آخرت کے دن کے لیے اٹھا رکھتا ہوں جس دن ساری مخلوق میری طرف رغبت رکھے گی حتیٰ کہ حسرت ابراہیم رضی اللہ عنہما بھی۔^④

تنبیہ:

مذکورہ بالا حدیث میں قرآن کو سات حرف پر پڑھنے کی اجازت دی گئی اس سے مراد عرب کی مختلف زبانوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہی سات قراءت کہلاتی ہیں۔ یہ ساتوں قراءتیں قراء اور علماء کے ہاں محفوظ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور طریق سے

① البخاری: ۳۴۵۰۔ المسلم: ۱۱۶۳۔ النسائی: ۴۳۰۱۔ مسند احمد: ۳۰۴۱۳۔ ② الترمذی: ۳۱۳۸۔ ابن ماجہ: ۴۳۰۸۔ ③ تخریجہ: کما سبق الن۔ ④ المسلم: ۱۹۰۱۔

قرآن پڑھنا ممنوع ہے۔ ہمارے دیار مشرق میں عموماً قراءتِ حفص پڑھی جاتی ہے۔

شفاعت کی دوسری اور تیسری قسم

یام مسلمان لوگوں کے لیے حضور کی شفاعت ہے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور ان لوگوں کے واسطے جن کے لیے دخولِ جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا تاکہ وہ دخولِ جہنم سے بچ جائیں

حافظ ابو بکر بن ابی الدین اپنی کتاب الاحوال میں عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن انبیاء کے لیے نور کے منبر نصب کئے جائیں گے جن پر وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ میرا منبر رہ جائے گا میں اس پر نہ بیٹھوں گا بلکہ اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ اپنی امت کی فکر میں کہہیں مجھے جنت بھیج دیا جائے اور میرے بعد میری امت رہ جائے۔ سو میں عرض کروں گا: یارب! میری امت۔ پروردگار فرمائیں گے: اے محمد! تو کیا چاہتا ہے کہ تیری امت کے ساتھ ویسا معاملہ کروں۔ میں عرض کروں گا: یارب! ان کا حساب جلد لے لیجیے۔ پس ان کو بلایا جائے گا اور حساب کتاب لیا جائے گا۔ کوئی تو اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا اور کوئی میری سفارش کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا اور میں مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے ان لوگوں کے لیے دستاویز لکھ دی جائے گی جن کو جہنم بھیج دیا ہوگا جس کی وجہ سے جہنم کا داروغہ مالک کہے گا: اے محمد! تو نے اپنی امت پر اپنے رب کے غضب کے لیے کوئی سزا نہیں چھوڑی۔^①

(منہال بن عمرو عن عبد اللہ بن الحارث) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کو ننگے جسم میدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا۔ وہ اپنی ننگا ہیں آسمان کی طرف اٹھائے جمع ہوں گے اور فیصلہ کئے جانے کے انتظار میں چالیس سال تک کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے کرسی کی طرف نزولِ اجلال فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان کو دو جنتی ریشم کے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میرے پاس نبی امی محمدؐ کو لاؤ۔ فرمایا: پس میں کھڑا ہوگا اور مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا اور میرے لیے حوض کوکھول دیا جائے گا جس کی چوڑائی ایلہ سے کعبہ تک ہے۔ میں اس سے پیوں گا اور غسل کروں گا جب کہ شدتِ پیاس کی وجہ سے مخلوق کی گردنیں کٹ رہی ہوں گی۔ پھر میں کرسی کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ اس مقام پر میرے سوا کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ پھر مجھے کہا جائے گا: سوال کرتے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کرتی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس موقع پر ایک شخص نے آپ ﷺ سے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو اپنے والدین کے لیے کسی بھلائی کی توقع ہے۔ آپ ﷺ نے جواب دیا میں ان کے لیے شفاعت کروں گا یا تو قبول کر لی جائے گی یا منع کر دیا جائے گا اور مجھے ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔^②

آگے منہال بن عمرو فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ مجھے عبد اللہ بن الحارث نے حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا: اپنی امت میں سے ایک قوم پر میرا گزر ہوگا جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے: اے محمد! ہماری شفاعت کر دیجیے۔ میں ملائکہ کو حکم دوں گا

① المغنی عن حمل الاسفار للعراقی ۵۱۰/۳۔ ② المستدرک للحاکم ۳۳۸/۲۔ مسند احمد ۲۲۳/۱۔

کہ ان کو روکے رکھیں۔ میں پروردگار کے حضور میں جاؤں اور اجازت طلب کروں گا مجھے اجازت دی جائے گی۔ میں خدا کے حضور سر بسجود ہو کر عرض کروں گا: پروردگار میری امت میں سے ایک قوم کے متعلق آپ نے جہنم کا حکم فرمایا ہے۔ پروردگار فرمائیں گے: جا جس کو میں چاہوں نکال لے۔ پھر باقی لوگ بھی پکارا نہیں گے: اے محمد! ہمارے لیے بھی شفاعت فرمادیتھیے۔ پس میں پروردگار کے پاس دو بار حاضر ہوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت ملے گی اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پروردگار فرمائیں گے: اپنا سرا تھاؤ اور سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں کھڑا ہوں گا اور خدائے ذوالجلال کی وہ حمد و ثناء کروں گا کہ ویسی حمد و ثناء کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر عرض کروں گا میری امت میں سے ایک قوم کے متعلق جہنم کا حکم ہو چکا ہے۔ پروردگار فرمائیں گے: جا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا سے جہنم سے نکال لے۔ میں عرض کروں گا اور جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو؟ پروردگار فرمائیں گے: اے محمد! یہ تیرے نہیں ہے یہ میرے لیے ہے۔ پس میں جاؤں گا اور جس کو مشیت ایزدی ہوگی جہنم سے نکال لوں گا۔ صرف ایک قوم رہ جائے گی جو جہنم میں داخل ہوگی۔

دوسرے اہل جہنم ان کو عا ردلائیں گے اور کہیں گے تم تو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے تھے اس کے باوجود اس نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ فرمایا: یہ بات سن کرو وہ لوگ انتہائی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے جو اپنا ایک چلو پانی کا جہنم میں پھینک دے گا۔ پس کوئی لا الہ الا اللہ والا نہ بچے گا بلکہ ہر ایک کے چہرے پر اس پانی کا ایک قطرہ ضرور گرے گا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے بچان لے جائیں گے۔ پھر دوسرے اہل جہنم ان پر رشک کریں گے لہذا ان کو نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اہل جنت ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کریں گے۔ اگر وہ سب بھی کسی ایک جنت کے پاس ٹھہر جائیں تو اس کے پاس سب کے لیے بہت گنجائش ہوگی ان کو محررین (آزاد کردہ) کہا جائے گا۔ صرف ایک قوم رہ جائے گی جو جہنم میں داخل ہوگی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو نکالنے کے الفاظ استعمال ہوئے ان کا مطلب بچانا ہے یعنی میں ان کو جہنم سے بچالوں گا۔ نیز اس روایت سے متعدد شفاعتوں کا پتہ چلتا ہے۔

شفاعت کی چوتھی قسم:

حضور ﷺ کی شفاعت اہل جنت کے لیے ہوگی تاکہ ان کے درجات میں مزید ترقی ہو سکے اور ان کو اپنے اعمال سے زیا درجات مل سکیں۔ معتزلہ صرف اسی شفاعت کے قائل ہیں اس کے علاوہ دیگر شفاعتوں کے منکر ہیں۔ حالانکہ ان کے متعلق احادیث تو اس کے ساتھ وارد ہیں۔ اس چوتھی قسم پر دلیل صحیحین کی حدیث ہے کہ غزوہ اوطاس^۱ میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے ماموں ابو عامر کو کار زخم پہنچا۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضور ﷺ کو اس کی اطلاع دی تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ بلند کئے اور دعا کی: اے اللہ اپنے بند۔ ابو عامر کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن ان کو کثیر مخلوق پر نوبت دے۔^۲

① اوطاس دیار ہوازن میں ایک وادی کا نام ہے۔ قبیلہ ہوازن اور نجی ﷺ کے درمیان ایک معرکہ پیش آیا تھا جو جنگ حنین کہلاتا ہے۔

② البخاری: ۲۸۸۳۔ المسلم: ۲۳۵۶۔

قیامت کے دن ان کو کثیر مخلوق پر فوقیت دے۔ یہ درجات میں ترقی کے لیے شفاعت ہے نیز معلوم ہوا کہ شفاعت صرف آخرت سے ساتھ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب ان سے تو ہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمائی: اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہدایت پانے والوں میں ان کے درجات بلند فرما۔ پیچھے رہ جانے والوں میں ان کو اچھا نام دے۔ اس کی اور ہماری مغفرت فرما اے رب العالمین! اور اس کی قبر کو کشادہ و منور فرمایا۔^① یہ روایت صحیح مسلم میں بھی مروی ہے۔

جنت میں بغیر حساب داخل کرنے والی اور گنہگار کے عذاب میں تخفیف کرنے والی شفاعتوں کا بیان

شفاعت کی پانچویں قسم:

قاضی عیاض وغیرہ نے ایک اور پانچویں قسم متعارف کروائی ہے۔ جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل کروانے والی شفاعت۔ مصنف فرماتے ہیں: میرے علم میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ نیز قاضی عیاض نے بھی اس کی کوئی مستند دلیل پیش نہیں کی ہے لیکن اس کی تائید میں حضرت عکاشہ کی حدیث پیش کی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو ان ستر ہزار افراد میں داخل فرمادے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث صحیحین میں مروی ہے اور اس مقام کے مناسب ہے۔

شفاعت کی چھٹی قسم:

ابو عبد اللہ القرطبی نے شفاعت کی ایک اور چھٹی قسم بیان فرمائی ہے۔ وہ ہے حضور ﷺ کی شفاعت اپنے چچا ابوطالب کے لیے کہ اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمادے۔ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ابوطالب کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن شاید میری شفاعت ان کے کام آسکے اور ان کو صرف آگ کے ایک گڑھے میں داخل کر دیا جائے وہ آگ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی۔ (لیکن) اسی سے ان کا دماغ کھولے گا۔^② لیکن اگر اس پر اعتراض کیا جائے کہ فرمان الہی اس کے معارض ہے: ”تو (اس حال میں) سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔“ (سورۃ المدثر: 48)

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شفاعت جہنم سے تو نہ نکلوا سکے گی لیکن تخفیف عذاب کا فائدہ دے گی جیسے گنہگار مؤمنین کو جہنم سے نکلوا بھی دے گی۔

شفاعت کی ساتویں قسم:

حضور ﷺ کی یہ شفاعت تمام مؤمنین کے لیے ہوگی اور جنت میں داخلگی کی اجازت کے لیے ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت میں میں پہلا شافع ہوں گا۔^③ حدیث صورت میں ہے: جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آپس میں کہیں گے پروردگار کے پاس اب کون سفارش

① المسلم: ۲۱۲۷۔ ابوداؤد: ۴۱۱۸۔ ابن ماجہ: ۱۲۵۳۔ البخاری: ۲۔ ۲۸۸۵۔ المسلم: ۵۱۲۔ ② المسلم: ۲۸۸۳۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

لے کر جائے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ لوگ کہیں گے اپنے جدا مجد حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ اور کون زیادہ مناسب ہوگا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا ان میں اپنی روں چھوٹی تھی اور یہ نہ ان کو سامنے کھڑا کرتے، نہ گھام ہونے سے ایذا سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور یہ مطالبہ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا یاد کر کے فرمائیں گے: میں تو اس کا اہل نہیں ہوں۔ ہاں تم محمد (ﷺ) کے پاس جاؤ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور پروردگار مرزوق جل کے ہاں میری تین سفارشیں (باقی) ہوں گی جن کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما رکھا ہوگا۔ پس میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازے کا حلقہ پکڑوں گا اور دروازہ کھلوں گا۔ پس میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ مجھ پر سلام پیش کیا جائے گا اور مرحبا کہا جائے گا۔ میں داخل ہو کر رب ذوالجلال کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمد و تقدیس القاء فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی کو القاء نہیں کی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے: اے محمد! اپنا سراٹھائے اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سراٹھاؤں گا تو اللہ جل شانہ (باوجود سب کچھ جاننے کے) فرمائیں گے تم کیا چاہتے ہو؟ میں عرض کروں گا یا رب! آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا لہذا اہل جنت کے لیے میری شفاعت قبول کر لیجئے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے: میں نے تمہارا شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی۔

رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے تم دنیا میں اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ٹھکانوں کو اس سے زیادہ نہیں جانتے ہو گے جتنا کہ اہل جنت اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ٹھکانوں کو جانتے ہوں گے۔ جنت میں ہر جنتی کو بہتر حوریں اور دو دنیا کی عورتیں ملیں گی۔ ان دو عورتوں کو باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ انہوں نے دنیا میں خدائے عز و جل کی عبادت کی ہوگی۔

شفاعت کی آٹھویں قسم:

حضور ﷺ کی یہ شفاعت اپنی امت کے اہل کبار کے لیے ہوگی جس کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لئے جائیں گے۔ اس شفاعت کے متعلق جو اتر احادیث وارد ہیں۔ عجیب بات ہے کہ احادیث کے تو اتر کے باوجود خوارج اور معتزلہ (مطلق) شفاعت کے منکر ہو گئے یا تو صحیح احادیث سے ان کی جہالت مانع ہوئی یا پھر علم کے باوجود عناد کی وجہ سے اس پر ڈٹے رہے ہیں۔ یہ شفاعت ملائکہ انبیاء اور مومنین کو بھی حاصل ہوگی۔ حضور ﷺ کی طرف سے اس کا بار بار صدور ہوگا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

مختلف شفاعتوں سے متعلق مختلف احادیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت:

ابن ابی الدنیا میں حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میں انبیاء کا خطیب ہوں گا۔ ان کا امام اور ان کا شفیع ہوں گا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت:

ابن ابی الدنیا میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں سب سے پہلے (اپنی قبر سے) نکلوں گا۔ جب لوگ وفد بنائیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب سب روک

دیئے جائیں گے تو میں ان کا شفیق ہوں گا۔ جب سب مایوسی کا شکار ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ عزت اور جاہلیاں ان میں سے ہوں گی۔ اللہ میں سے ان کی سزا کا جھنڈا لگے گا اور ان کو اللہ سے ہمت دے گا۔ اللہ نے ان کو اللہ سے ہمت دینے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے ان کو اللہ سے ہمت دینے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ نے ان کو اللہ سے ہمت دینے کی تعلیم دی ہے۔

مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لیے ہوگی۔^۱ یہ روایت بہت سی کتب حدیث میں مذکور ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے ایک ایک سوال کیا تھا یا فرمایا میری امت کے ایک ایک دعا کی تھی جو قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی قبول فرمائی اور قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت قبول فرمائی۔^۲ اس مقام پر مصنف نے اسی مضمون کی کئی ایک روایات بیان کی ہیں۔ (مترجم)

قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی شفاعت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان ہلاکت میں ڈالی

بیہقی میں محمد سے مروی ہے وہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لیے ہوگی۔^۳ محمد کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے کہا یہ کیا بات ہے اے جابر! حضرت جابر نے فرمایا: ہاں محمد! کیونکہ جن کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ گئیں وہ تو جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہو جائیں گے اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس سے معمولی اور آسان حساب ہوگا اور بالآخر وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آنحضرت ﷺ کی شفاعت تو ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنی جان کو بندھوا دیا اور اپنے آپ کو لٹکا دیا۔

امام بیہقی نے دوسرے طریق کے ساتھ یہی روایت یوں نقل کی ہے کہ محمد سے مروی ہے وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمان الہی تلاوت کیا جس کا ترجمہ ہے:

”اور وہ (اس کے پاس کسی کی) سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔“ (سورۃ الانبیاء آیت: 28)

اس کے بعد فرمایا: میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لیے ہوگی۔^۴ امام حاکم فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے۔

تشریح: امام بیہقی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں: جس کی شفاعت کی جائے اس کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ (وہ اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو) سے یہی مراد ہے لہذا کفار و مشرکین جن پر خدا غضبناک ہوگا ان کی سفارش نہیں کی جاسکتی۔ نیز ان روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اہل کبار کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اہل صغائر کے لیے جنتیوں کے رفع درجات کے لیے ملائکہ شفاعت کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

① الداری: ۲۲۱/۱، ابوداؤد: ۴۲۴۲، الترمذی: ۲۴۳۵، مسند احمد: ۲۱۳، مسند احمد: ۳۱۹

② السنن الکبریٰ للبیہقی: ۸/۱۷، الکامل: ۳/۱۰۷۷، ابن ماجہ: ۳۲۱۰، ابوداؤد: ۴۲۴۹، الترمذی: ۲۴۳۵، مسند احمد: ۲۱۳

دیگر انبیاء کی شفاعت:

مسند احمد میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت اور اہل جہنم کو الگ کر دیا جائے گا اور اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو (انبیاء و) رسل کھڑے ہوں گے اور شفاعت کریں گے۔ ان کو کہا جائے گا: جاؤ اور جس جس کو تم جانتے ہو (کہ وہ صاحب ایمان ہے) اسے نکال لو۔ لہذا وہ ان کو نکالیں گے اور وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کو ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا جس کو نہر الحیات کہتے ہیں: فرمایا: ان کا جلا ہوا حصہ نہر کے کناروں پر گر جائے گا اور وہ ششے کی مانند سفید ہو کر نکلیں گے۔ اس کے بعد پھر شفاعت کریں گے اور ان کو کہا جائے گا جاؤ اور جس جس کو تم جانتے ہو اس کے دل میں ایک قیراط برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو۔ پس وہ نکالیں گے اور لوگ جلدی جلدی نکلیں گے اور شفاعت کریں گے۔ ان کو کہا جائے گا جاؤ اور جس جس کو تم جانتے ہو کہ اس کے دل میں ایک رائی برابر بھی ایمان ہے نکال لو۔ پس وہ نکالیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اب اپنے علم اور اپنی رحمت کے ساتھ نکالو گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو پہلے نکالے گئے ہوں گے کئی گناہ زیادہ افراد کو نکالیں گے۔ ان کی گردنوں میں لکھ (کر لٹکا) دیا جائے گا "اللہ کے آزاد کردہ" پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو جہنمیوں کے نام سے پکارا جائے گا۔^① امام احمد اس روایت میں منفرد ہیں۔

عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث

مسند احمد میں عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ ﷺ کو قافلہ کے درمیان میں جگہ دی تھی لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ آپ غائب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھبرا اٹھے اور خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے ہم سے بہتر ساتھی اختیار فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی خیال میں غلطاں تھے کہ آپ کو دیکھ کر صدائے اللہ اکبر بلند کی۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم تو ڈر گئے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے سوا دوسرے اصحاب نہ پسند کر لئے ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ہی دنیا و آخرت میں میرے اصحاب ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیدار کیا اور فرمایا: اے محمد! میں نے کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا لیکن اس کی کوئی خواہش اور سوال ضرور پورا کیا ہے چنانچہ تو بھی اے محمد! کوئی سوال کر۔ میں نے عرض کیا: میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری امت کی شفاعت مل جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شفاعت کیا ہے؟ فرمایا: میں عرض کروں گا یا رب! میں نے اپنی امت کے لیے تیرے پاس شفاعت رکھوائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے میری بقیہ امت کو نکال دیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔^②

شفاعت کے متعلق ایک طویل روایت:

مسند احمد میں (عفان) حماد بن سلمہ (علی بن زید بن ابی نصرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بصرہ کے

① مسند احمد: ۳/۳۲۵-② مسند احمد: ۵/۳۲۶

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

منبر پر ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس کی ایسی کوئی دعا ضرورتی جیسے اللہ نے دنیا میں یوراکیا لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے اٹھا رکھا ہے۔ قیامت کے دن میں ادا آؤں گا۔ اور ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں نواہ اُمد ہوگا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اور ان کے بعد اے والے اب اس کے بیٹے ہوں گے اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگ ظہیل عرصہ تک کھڑے رہیں گے پھر آپس میں مشورہ کریں گے ہمیں آدم علیہ السلام کے پاس چانا چاہیے تاکہ وہ پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت کریں کہ ہمارا حساب کتاب ایسا ہے کہ ہمارا حساب کتاب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے آدم (علیہ السلام)! آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اپنی جنت میں آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اپنے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا۔ لہذا آپ پروردگار کے پاس ہماری شفاعت کریں گے کہ ہمارا جلد فیصلہ کر دے۔

حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: میں اس مقام کا اہل نہیں ہوں۔ اپنی خطا کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں۔ آج تو مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ جو نبیوں کے سردار ہیں تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح ہمارے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں۔ میری بددعا کی وجہ سے اہل زمین غرق کر دیئے گئے تھے اس لیے مجھے تو آج اپنی فکر پڑی ہوئی ہے البتہ تم ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام! پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ جلد ہمارا حساب لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے: میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ میں نے اسلام میں تین جھوٹ بولے تھے۔ اللہ کی قسم! ان سے بھی ان کا مقصود صرف اسلام کا دفاع تھا۔ ایک تو ان کا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا اسی سے دریافت کرو۔ تیسرے آپ کا اپنی بیوی کے متعلق بادشاہ کو کہنا کہ یہ میری بیوی ہے۔ (الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان باتوں کو یاد کر کے فرمائیں گے) آج تو میرے لیے سب سے اہم معاملہ اپنی جان کا ہے۔ ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔

پس لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ! پروردگار کے پاس ہماری شفاعت کریں کہ وہ ہمارا جلد فیصلہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: میرا یہ منصب نہیں ہے۔ مجھ سے ناحق ایک قتل سرزد ہو گیا تھا۔ آج میرے لیے سب سے اہم مسئلہ اپنی جان کا درپیش ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام! پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ جلد ہمارا حساب لے لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں۔ مجھے خدا کے مقابلہ میں معبود بنا لیا گیا تھا۔ آج تو میرے لیے سب سے اہم معاملہ اپنی جان کا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ کسی برتن کے منہ پر مہر لگی ہوئی ہو تو کیا اس مہر کے ختم کئے بغیر برتن کے اندر کی شے کو نکالا جاسکتا ہے؟ لوگ عرض کریں گے: نہیں؟ آپ علیہ السلام فرمائیں گے پس اسی طرح محمد خاتم النبیین ہیں (نبیوں کے اختتام پر ان کی مہر لگی ہوئی ہے) لہذا آج کا دن (بڑا دن) درپیش ہے اور محمد ﷺ کے گلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ (تم انہی کے پاس جاؤ)

حضور ﷺ نے فرمایا: پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد! اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرو کہ وہ ہمارے لیے جہنم میں آگے سے ہمیں نکالے۔ میں نے کہا: یہ کہہ لو! (۱) حضرت ابراہیمؑ کی شہادت: کہ تمہارا دل میں اتنا اتمامِ شقاقت ہے کہ تمہارا دل شوق فرمائے کہ اے رب! میری امت کو جہنم سے نکال دے۔ پس اے رب! اتنا دعا کی فیصلہ فرمائے کہ اے رب! میری امت کو ایک منیٰ میں نکال دے۔ اے رب! میری امت کو جہنم سے نکال دے اور ابراہیمؑ کی امت کے اور ابراہیمؑ کی امت سے آخری امت ہیں اور مساب کتاب میں سب سے پہلی امت ہیں۔ پس یہ دعا ان پر تمام ہو تو اے ہمارے لئے راستہ پھول دین کی۔ ہمہ و شہداء کے سب روشن چہروں اور چمکتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ درمیان سے گزریں گے۔ نوگ حیران ہو کر کہیں گے یہ سہاری امت نبیوں کی ہے! پھر میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازے کا حلقہ تھاموں گا اور کھٹکھاؤں گا تو آواز آئے گی تم کون ہو؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ پس دروازہ کھول دیا جائے گا۔ میں پروردگار عزوجل کو دیکھوں گا کہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔

میں رب ذوالجلال کو دیکھتے ہی سجدہ میں گر پڑوں گا اور بارگاہ ایزدی میں وہ حمد و ثناء کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھاؤ اور سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی۔ سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ فرمایا: میں اپنا سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: اے رب! میری امت! میری امت! پروردگار فرمائیں گے: جس کے دل میں اتنا اتمامِ شقاقت بھی ایمان ہوا سے جہنم سے نکال لو۔ (یہاں راوی کو بھول ہوگئی ہے) پھر میں دوبارہ سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور (حمد و ثناء) عرض کروں گا۔ کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھاؤ اور بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی۔ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ فرمایا: میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت! میری امت! پروردگار فرمائیں گے: جس کے دل میں اتنا اتمامِ شقاقت بھی ایمان ہوا سے جہنم سے نکال لو (پہلے سے کم مقدار کے ساتھ) میں پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور پہلے کے مثل (حمد و ثناء) عرض کروں گا۔ کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھاؤ اور بات کرو سنی جائے گی۔ سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ فرمایا: میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت! میری امت! پروردگار فرمائیں گے: جس کے دل میں اتنا اتمامِ شقاقت بھی ایمان ہوا سے جہنم سے نکال لو (مزید پہلے سے کم مقدار کے ساتھ)

شفاعت اور نصف امت کے جنت میں داخلہ کے درمیان حضور ﷺ کا اختیار

مسند احمد میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے شفاعت اور اپنی صف امت کے جنت میں داخلہ کے درمیان اختیار دیا گیا تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ یہ زیادہ اہم اور مفید ہے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ شفاعت متقیین کے لیے ہے؟ نہیں بلکہ یہ تو خطا کا توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔^①

اے محمد! ہم تجھے خوش کریں گے

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذیل کی آیات تلاوت فرمائیں: (حضرت

① ابن ماجہ: ۴۳۱۱۔

ابراہیم علیہ السلام کا وہی ان کی میں عرض کرتے ہیں)

”اب پروردگار انہوں نے رحمت سے انہیں کو گمراہ کیا ہے۔ سو انہیں تمہیں نے یہ انہیں مانا وہ میرا اب اور تمہیں نے میری نافرمانی کی تو تمہیں والا مہربان ہے۔ (سورۃ المائدہ آیت: 55)
(حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں):
”اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو (تیری مہربانی ہے) بے شک تو غائب (اور) حکمت والا ہے۔“ (سورۃ المائدہ آیت: 118)

(حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں):

”پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے۔“ (نوح آیت: 26)

آپ ﷺ نے انبیاء کی یہ دعائیں پڑھیں تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور عرض کیا: اے اللہ میری امت! اے اللہ میری امت! اس کے بعد آپ ﷺ نے اختیار رو دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا: محمد ﷺ کے پاس جاؤ جب کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود پوچھا: پوچھو کیا چیز تمہیں راز رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا آپ ﷺ نے (اپنی امت کے علم کی کیفیت کا) جواب مرحمت فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پروردگار عزوجل کو خبر دی۔ باوجود اس کے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبریل! محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور کہو ہم تجھ کو تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تجھے کچھ تکلیف نہ ہونے دیں گے۔

ایک وفد کا قصہ

یہی حق میں حضرت عبدالرحمن بن عقیل سے مروی ہے کہ میں ایک وفد کے ہمراہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم لوگوں نے اپنی سواریاں دروازے پر بٹھا دیں۔ اس وقت جس کے پاس ہم جا رہے تھے اس سے مبعوض اور ناپسندیدہ شخص ہمارے نزدیک کوئی نہیں تھا لیکن جب ہم نکلے اس وقت اس سے زیادہ محبوب شخصیت ہمارے نزدیک اور کوئی نہیں تھی۔ (یہ کفر کی حالت میں آئے تھے اور اسلام سے مشرف ہو کر نکلے سجان اللہ) ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے اپنے رب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا سوال نہیں کیا؟ حضور ﷺ نے یہ سوال سن کر ہنس پڑے اور فرمایا: اللہ کے ہاں تمہاری حاجات کا پورا ہونا سلیمان کی بادشاہت سے افضل ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کو اس کی کوئی ایک مراد ضرور عطا کی ہے۔ پس کسی نے دنیا کو اختیار فرمایا اور وہ ان کو مل گئی۔ کسی نے اپنی قوم پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے بددعا کی اور وہ ہلاک کر دی گئی لیکن اللہ نے مجھے میری مراد دی تو میں نے اس کو قیامت کے دن کے لیے اللہ کے پاس اٹھا رکھا تا کہ قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کر سکوں۔ مصنف فرماتے ہیں یہ غریب الاسناد اور غریب الحدیث روایت ہے۔

شفاعت کے اہل انبیاء پھر علماء اور پھر شہداء ہوں گے:

حافظ ابو یعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تین

قسم کے لوگ شفاعت کریں گے انبیاء پھر علماء پھر شہداء ❶

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت

ابوبکر البزار (محمد زید المداری عمرو بن عاصم) نے واسطہ سے حرب بن الشرح البزاز فرماتے ہیں میں نے ابوبکر محمد بن علی سے کہا: یہ کیوں سی شفاعت ہے جس کا اہل عراق ذکر کرتے ہیں؟ کیا یہ برحق ہے؟ میں نے پوچھا کون سی شفاعت؟ کہا حضور ﷺ کی شفاعت۔ فرمایا: اللہ کی قسم یہ برحق ہے۔ واللہ! مجھے میرے چچا محمد بن علی بن الحنفیہ نے حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ پروردگار عزوجل فرمائیں گے: اے محمد! کیا تم راضی ہو؟ میں عرض کروں گا پروردگار میں راضی ہوں۔ ❷ مصنف فرماتے ہیں یہ روایت صرف اسی سند کے ساتھ مروی ہے۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت

ابن ابی الدنیا میں حضرت عوف بن مالک الأشجعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کو میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کا حق مل جائے۔ چنانچہ میں نے شفاعت کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم آپ کو اللہ کا اور اپنی رفاقت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت میں کر لیجیے آپ ﷺ نے فرمایا: میں حاضرین کو گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ ❸

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت

مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ صبح کو بیدار ہوئے اور فجر کی نماز ادا فرمائی اور وہیں تشریف فرما ہو رہے۔ جب سورج چڑھا تو آپ ہنسنے لگے۔ پھر بھی بیٹھے رہے حتیٰ کہ ظہر کی نماز ادا کی پھر عصر اور مغرب کی نماز ادا کی۔ کسی نماز کے درمیان آپ نے بات چیت نہیں فرمائی حتیٰ کہ عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ پھر اپنے اہل خانہ کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: آپ رسول اللہ ﷺ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں آج مجھ پر وہ سب کچھ پیش کیا گیا جو آئندہ ہونے والا ہے اور وہ جو آخرت میں پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ (آخرت میں) اولین و آخرین سب کو ایک ہی میدان میں جمع فرمائیں گے۔ تمام لوگ اسی طرح (ایک میدان میں) ہوں گے حتیٰ کہ لوگ (انتظار کرتے کرتے جب جھک جائیں گے تو) حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ پسینے نے سب کو گام ڈال رکھی ہوگی۔ لوگ کہیں گے: اے آدم علیہ السلام! آپ ابوالبشر ہیں۔ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے لہذا اپنے پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت کر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام

❶ ابن ماجہ: ۴۳۱۳۔ کنز العمال: ۳۹۰۷۲۲۔ ❷ مجمع الزوائد: ۱۰/۳۷۷۔ کنز العمال: ۳۹۷۵۸۔ ❸ المسند رک: ۱۱/۶۷۱۔ البحر المحیط: ۱۳/۵۔

فرمائیں گے جو تمہارا حال ہے وہی کچھ میرے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے لہذا تم اپنے دوسرے باپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فرمان الہی ہے:

”خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام بہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔“

(سورہ آل عمران آیت: 33)

فرمایا: پس لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ حاضر ہوں گے اور کہیں گے: اپنے پروردگار کے ہاں ہماری شفاعت کر دیجیے کیونکہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے اور کسی نبی نے آپ کی مثل دعائیں مانگی۔ وہ فرمائیں گے: یہ کام میرے بس کا نہیں ہے تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے (اور اپنا مدعا عرض کریں گے)۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے پاس جاؤ کہ وہ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں البتہ تم لوگ اولاد آدم کے سردار کے پاس جاؤ کیونکہ اس دن انہی سے زمین سب سے پہلے شق ہوئی ہے۔ (یعنی سب سے پہلے قبر سے اٹھے ہیں لہذا) تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں۔

پس لوگ اس کے بعد میری طرف آئیں گے اور میں اپنے پروردگار سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت ملے گی تو خدا کے حضور حاضر ہوں گا اور جناب الہی کو دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جب تک اللہ چاہیں گے مجھے اسی حال میں رہنے دیں گے۔ پھر پروردگار فرمائیں گے اپنا سراٹھاؤ اور کو تمہاری بات سنی جائے گی۔ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا: پھر میں اپنا سراٹھاؤں گا جب میں پروردگار کی طرف دیکھوں گا تو پھر دوبارہ سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور بقدر ایک ہفتہ کے سجدہ میں پڑا رہوں گا۔ پھر پروردگار فرمائیں گے: اپنا سراٹھاؤ اور کو تمہاری بات سنی جائے گی۔ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا: پھر میں اپنا سراٹھاؤں گا۔ فرمایا: اس دفعہ میں پھر سجدہ میں گرنے لگوں گا تو جبریل علیہ السلام میرا بازو تھام لیں گے اور مجھے ایسی دعا بتائیں گے جو اس سے پہلے کسی بشر کو نہیں بتائی گئی ہوگی۔ پس میں عرض کروں گا: اے پروردگار! تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا کر پیدا فرمایا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے اس قیامت کے روز مجھی سے زمین پہلے شق ہوئی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میرے حوض پر صنعا اور ایلمہ کے درمیان سے زیادہ لوگ میری امت کے آئیں گے پھر کہا جائے گا صدیقین کو بلاؤ چنانچہ صدیقین شفاعت کریں گے۔ پھر کہا جائے گا انبیاء علیہم السلام کو بلا یا جائے چنانچہ کوئی نبی آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی اور کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ پانچ افراد ہوں گے اور کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ چھ افراد ہوں گے اور کوئی نبی ایسا بھی آئے گا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ ہوگا پھر شہداء کو بلا یا جائے گا اور سب جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ جب شہداء بھی شفاعت سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اللہ ہوں ارحم الراحمین ہوں میری جنت میں ہر اس شخص کو داخل کر دو جس نے میرے ساتھ کسی اور شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ پس وہ لوگ جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنہم میں دیکھو کیا

ایسا کوئی شخص ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، جو نہ میں ایک ایسے شخص کو یا نہیں ہے اور اتنا ہی کہیں سے کیا تو نے کسی کوئی نیک عمل کیا ہے، وہ کہہ گا نہیں میں نے اس کے سوا کوئی نیک کام نہیں کیا کہ میں لوگوں کو خرید و فروخت میں مہمات دے دیا کرتا تھا۔ پروردگار فرمائیں گے میرے بندے کے ساتھ کئی ترسبات اور دشمنی پیش ہو موملہ کر، جیسے یہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ پھر ان طرح ایک اور شخص کو انہم سے نکالتے اور پوچھیں کہ کیا تو نے بھی کوئی نیک عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، انہیں میں نے مرتے وقت اپنی اولاد کو حکم کیا تھا کہ وہ میرے مرنے کے بعد میری نعش جو جاوےں پھر میرے باقیات کو اچھی طرح پیس کر سہمہ کی طرح باریک کر، میں اور پھر اس خاک کو سمندر میں بہا دیں اور ہواؤں میں اڑا دیں اللہ کی قسم پھر پروردگار مجھ پر کبھی قادر نہ ہو سکے گا۔ پروردگار فرمائیں گے تجھے اس بات پر کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ وہ کہے گا: پروردگار! تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اب دیکھ بادشاہوں کے بادشاہ کو۔ جا تیرے لیے جنت اور اس کے مثل دس جنتیں ہیں۔ وہ کہے گا پروردگار! آپ بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اس بات کی وجہ سے میں صبح کے وقت ہنساتھا۔^۱ اس حدیث پر مسند الصدیق کے آخر میں طویل کلام ہے۔ از مصنف۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت

مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم کی پشت پر پہل صراط رکھا جائے گا اس پر کانٹے ہوں گے سعدان جنگل جیسے۔ لوگ اس پر سے گزریں گے۔ کوئی سلامتی کے ساتھ پار ہو جائے گا۔ کوئی زخمی حالت میں نجات پا جائے گا اور کوئی پھنس کر اٹلے منہ گرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہو جائیں گے تو مومنین اپنے کچھ ساتھیوں کو گم پائیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ ان کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ان کی طرح زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ ان کی طرح حج کرتے تھے اور انہی کی طرح غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے تو وہ کہیں گے آج ہم ان کو نہیں دیکھ رہے یہ کیا بات ہے؟ ارشاد ہوگا: جہنم کی طرف جاؤ۔ ان میں سے جس کو پاؤ نکال لو۔ پس وہ اپنے ساتھیوں کو جہنم میں اپنے اعمال کے مطابق سزا میں گھرا دیکھیں گے۔ کسی کو آگ نے قدموں تک، کسی کو نصف پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک اور کسی کو گردن تک پلڑ رکھا ہوگا لیکن منہ آگ سے صحیح و سالم ہوں گے۔ پس یہ لوگ ان کو نکالیں گے اور ماء الحیاء میں ڈال دیں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ! یہ ماء الحیاء کیا ہے؟ فرمایا: اہل جنت کے غسل کا پانی۔ وہ اس میں کھتی کی طرح اگیں گے۔ پھر انبیاء صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کو جہنم سے نکلوائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان پر تجلی فرمائیں گے۔ پس کوئی ایسا بندہ نہ رہے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔^۲

جہنم میں مومنین کے ساتھ عظیم رعایت

مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جہنم جو جہنم کے (دانگی باسی اور) اہل ہوں گے وہ

① مسند احمد: ۴/۱۱۳۔ ② مسند احمد: ۱۱/۳۔

کبھی مرے گا نہ نہیں گے لیکن پرندہ رات آسنا چیتے گا ان کو جہنم میں (ماضی) موت دے گا۔ چہ شہادت کرنے والوں کی شہادت سے انہیں نکالے گا اور نکالنے سے بعد ان کو دیکھتے ہیں ان کے صیوں کو مارا دیتے ہیں جیسے سب سے گھسٹا آتی ہے۔ چہ آپ ﷺ نے دریافت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کو دیکھتے ہیں۔ پچھلے زمانہ میں چہ ہوا ہے نہیں پھر سبز ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ ﷺ کا اندازہ ایسا تھا تو کیا آپ کا ہاں کے باشندے ہیں۔^① مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: لوگوں کو جہنم کے پل پر لایا جائے گا اس پر کانٹے اور آکٹڑے ہوں گے جو لوگوں کو اچک رہتے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو بجلی کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے کچھ ہوا کی طرح کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح اور بہت سے گھبرا کر اندر گر جائیں گے۔ اہل جہنم (کافر و مشرک) تو مرے گا نہ نہیں گے۔ لیکن (مسلمان) گنہگار ان کو ان کے کئے کی سزا ملے گی لہذا وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمادیں گے۔ چنانچہ ان کو جماعت درجماعت نکالا جائے گا اور ایک نہر میں ڈالا جائے گا۔ وہ اس نہر میں یوں اگیں گے جیسے بارش میں داندا گتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: پھر جہنم سے ایک ادنیٰ (مسلمان) کو نکالا جائے گا وہ جہنم کے کنارے پر پڑا ہوگا۔ کہے گا: پروردگار! میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ پروردگار فرمائیں گے تو اپنا عہد اور ذمہ دے کہ اس کے علاوہ کوئی سوال نہ کرے گا۔ بندہ کہے گا: پروردگار! میں اپنا عہد اور ذمہ دیتا ہوں کہ آپ سے اور کچھ سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جائے گا۔ وہ ایک درخت کو دیکھے گا تو پکارا اٹھے گا: یارب مجھے صرف اس درخت کے قریب فرمادے تاکہ میں اس کے سائے میں آ جاؤں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ پروردگار فرمائیں گے تو اپنا عہد اور ذمہ دے کہ اس کے علاوہ کوئی سوال نہ کرے گا۔ بندہ کہے گا: پروردگار! میں اپنا عہد اور ذمہ دیتا ہوں کہ آپ سے اور کچھ سوال نہیں کروں گا لہذا اس کو درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ وہ وہاں پہنچ کر ایک اور اس سے عمدہ درخت دیکھے گا تو پھر بول اٹھے گا۔ مجھے اس دوسرے درخت کی طرف منتقل فرمادے میں اس کے سائے میں آنا چاہتا ہوں اور اس کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ پروردگار فرمائیں گے تو اپنا عہد اور ذمہ دے کہ اس کے علاوہ مزید کوئی سوال نہ کرے گا۔ بندہ کہے گا: پروردگار! میں اپنا عہد اور ذمہ دیتا ہوں کہ آپ سے اور کچھ سوال نہیں کروں گا۔ لہذا اس کو اس دوسرے درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک تیسرے درخت کو دیکھے گا تو (پھر پل اٹھے گا اور) کہے گا: یارب مجھے صرف اس درخت کے قریب فرمادے تاکہ میں اس کے سائے میں آ جاؤں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ پروردگار فرمائیں گے تو اپنا عہد اور ذمہ دے کہ اس کے علاوہ کوئی سوال نہ کرے گا۔ بندہ کہے گا: پروردگار! میں اپنا عہد اور ذمہ دیتا ہوں کہ آپ سے اور کچھ سوال نہیں کروں گا لہذا اس کو اس تیسرے درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ وہاں وہ لوگوں کی جماعت دیکھے گا ان کی آوازیں سنے گا اور پھر پکارے گا پروردگار! مجھے بس جنت میں داخل فرمادے۔^②

مصنف فرماتے ہیں حضرت ابوسعیدؓ اور ایک دوسرے صحابی کا اختلاف ہوا حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کر کے دنیا جتنی جنت اور اس کے مثل ایک اور جنت دے دی جائے گی لیکن دوسرے صحابی فرماتے ہیں اس کو جنت میں داخل کر کے دنیا کے مثل

① مسند احمد ۳/۵۰ ② مسند احمد ۳/۲۵

جنت اور مزید اس کے ساتھ دس مثل اور عطا کیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا: قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میرا پہلے ہی خیال تھا کہ اس کے متعلق پوچھنے والا تم سے زیادہ آگے اور کوئی نہیں ہوگا کیونکہ میں حدیث میں تمہاری حرص اور شوق کو دیکھ چکا تھا۔ تو (جان لو کہ) قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔^۱ یہ روایت صحیح الاسناد ہے اور شیخین کی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ مصنف نے یہاں اسی حدیث کے اور بھی کئی طرق نقل کئے ہیں۔

صحیح میں حضرت عطاء بن یسار کے طریق سے منقول ہے وہ حضرت ابوسعیدؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں فرمایا: مؤمنین جب پل صراط سے پار ہو جائیں گے اور ان کو اطمینان ہو جائے گا کہ وہ نجات پا گئے ہیں تو اس وقت وہ اپنے جہنمی بھائیوں کے بارے میں اپنے رب سے بات چیت کرنے میں تم سے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہیں گے: یارب! ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے اور ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے تھے؟ (ان کو جہنم سے نکال دیں) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان پاؤ اس کو جہنم سے نکال لو۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں: اگر تم چاہو یہ آیت پڑھ سکتے ہو: ”خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر نیکی (کی) ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے

گا“۔ (سورۃ النساء آیت: 40)

پھر آگے حضور ﷺ کی روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ملائکہ شفاعت کر چکے انبیاء شفاعت کر چکے اور مؤمنین شفاعت کر چکے۔ اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی نہیں بچا۔ پس اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے نکالیں گے اور ایسی قوم کو نجات دیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے منہ پر بنی نہروں میں سے ایک نہر میں ڈال دیں گے جس کا نام نہر الحیاء ہے۔ وہ اس میں یوں تروتازہ آئیں گے جیسے بارش کے سیلاب میں گھاس اُگ آتی ہے اور اس میں سے موتیوں کی طرح چمک دار ہو کر نکلیں گے۔ ان کی گردنوں میں ہار ہوں گے جس کی وجہ سے اہل جنت ان کو پہچان لیں گے اور ان کو ”عقواء اللہ“ کہیں گے (اللہ کے آزاد کردہ) کہیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی خیر کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو جنت میں داخل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم دیکھو وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ کہیں گے پروردگار! اس سے افضل اور کیا شیء ہو سکتی ہے؟ تو نے ہم کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ان کو کہا جائے گا: میرے پاس اس سے کہیں زیادہ چیز افضل ہے۔ وہ عرض کریں گے: پروردگار! اس سے افضل وہ کیا چیز ہے؟ پروردگار فرمائیں گے: میری رضا۔ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

قیامت کے دن مؤمنین شفاعت کریں گے سوائے لعنت کرنے والوں کے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر میں عرض کروں گا: یا رب میری امت میں سے جو افراد جہنم میں پرے ہیں ان کے بارے میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ پروردگار فرمائیں گے: ہاں جہنم سے ہر شخص کو نکال لو جس کے دل میں دو تہائی دینار ایمان ہو یا نصف دینار یا ایک تہائی دینار یا چوتھائی دینار حتیٰ کہ جس کے دل میں دو قیراط بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لو بلکہ جس نے کبھی بھی کوئی نیکی کی ہو اس کو بھی نکال لو۔ پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی، کوئی شخص ایسا نہ بچے گا جو شفاعت نہ کر سکے۔ سوائے لعنت کرنے والے کے وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ (اس دن خدا کی رحمت اس قدر بے بہا ہوگی کہ) جہنم میں شیطان بھی آس لگا لے گا کہ شاید میری شفاعت بھی ہو جائے حتیٰ کہ جب کوئی بھی (مسلمان) شفاعت کرنے سے باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میں ارحم الراحمین بنچ گیا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ جہنم سے اس قدر افراد نکالیں گے کہ ان کا شمار خدا کے سوا کسی سے ممکن نہ ہوگا۔ وہ سوختہ لکڑی کی مانند ہو چکے ہوں گے۔ ان کو جنت کے دروازے پر ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا جس کو نہر الحیاء کہا جاتا ہے۔ وہ اس میں ایسے پرورش پائیں گے جیسے سیلاب کے پانی میں ہری بھری گھاس اگتی ہے۔^①

ابن ابی الدنیانے اس کو روایت کیا ہے۔ حافظ ابو یعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جہنمیوں کی صفیں بنا دی جائیں گی۔ مؤمنین کا ان پر سے گزر ہوگا کوئی جہنمی کسی مؤمن کو دیکھ کر پہچانے گا تو اس سے کہے گا اے فلاں! وہ دن یاد کر جب تو نے مجھ سے فلاں حاجت میں مدد مانگی تھی؟ اور کیا تجھے وہ دن یاد نہیں ہے جب میں نے تجھے یہ کچھ دیا تھا؟ فرمایا اس طرح وہ اپنے احسانات گنوائے گا۔ مؤمن کو یاد آئے گا اور اس کو پہچان لے گا اور پروردگار کے پاس اس کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔^② مصنف فرماتے ہیں اس کی اسناد میں ضعف ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ صف در صف کھڑے ہو جائیں گے۔ (حدیث کے ایک راوی ابن نمیر کہتے ہیں یہ مؤمنین ہوں گے) پھر کوئی جہنمی کسی جنتی پر سے گزرے گا تو کہے گا: اے فلاں کیا تجھے یاد نہیں ہے تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ پس وہ جنتی اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ایک آدی دوسرے کے پاس سے گزرے گا اور اس کو کہے گا کیا تجھے وہ دن یاد نہیں ہے۔ میں نے تجھے وسموء کے لیے پانی دیا تھا۔ پس وہ بھی اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ کوئی دوسرے کے پاس سے گزرے گا اور اس کو کہے گا: کیا تجھے یاد نہیں تو نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا اور میں چلا گیا تھا پس وہ بھی اس کے لیے شفاعت کرے گا۔^③

مؤمنین کی اپنے اہل و عیال کی شفاعت:

بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت اداؤد علیہ السلام کے صحیفہ زبور میں لکھا ہے: میں اپنے زاہد بندگان کو قیامت کے دن کہوں گا: اے

① البخاری: ۷۳۳۷، المسلم: ۳۵۰، مسند احمد: ۵/۳، ② مسند ابی یعلیٰ الموصلی: ۷/۳۰۰۶، ③ ابن ماجہ: ۳۶۸۵

میرے بلند امیں نے دنیا کو مقرر کر دیا۔ ان کے لیے نہیں لکھا تھا کہ تم میرے غلاموں کے وقت تھے بنا میرا اور تمہارا آج تم یارینا اور اہل حق و معول کرواؤ ہند آصفوں میں جس جا اور جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے یا کسی نے تمہاری کوئی حاجت روائی کی یا کسی نے تمہاری نیابت کا دعویٰ کیا یا کسی نے میری بدنامی کے لیے تم کو کھاتے یا ایک تمہارے کھاتوں پر میری شہادت لکھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت میں اہل حق و معول اور اہل بائنی میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک شخص پوری پوری جماعت کی شفاعت کرے گا۔ اس طرح پوری جماعت اس کی شفاعت کی بدولت جنت میں جائے گی۔ کوئی آدمی قبیلہ کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ سب قبیلہ والے اس کی شفاعت کے سہارے جنت میں جائیں گے۔ کوئی شخص اپنے کسی آدمی اور اہل وعیال کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔^①

مسند الزہرار میں مرفوعاً نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی تیس لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا۔^② ایک روایت میں حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی کو کہا جائے گا: اے فلاں! اٹھ کھڑا ہو اور شفاعت کر۔ پس آدمی کھڑا ہوگا اور قبیلہ کے لیے شفاعت کرے گا۔ اہل خانہ کے لیے ایک آدمی کے لیے اور دو آدمیوں کے لیے الغرض اپنے عمل کے مطابق (کم یا زیادہ کے لیے) شفاعت کرے گا۔^③ حضرت ابو ثامہؓ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: میرے ایک امتی کی شفاعت سے مضر قبیلہ سے زیادہ افراد جنت میں جائیں گے۔ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت کرے گا اور اپنے عمل کے مطابق شفاعت کرے گا۔^④ حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک شخص جو نبی نہیں ہوگا مگر اس کی شفاعت سے ربیعہ اور مضر دونوں قبیلوں یا ان میں ایک قبیلے کی تعداد کے برابر افراد جنت میں داخل ہوں گے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ربیعہ مضر کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرمایا: جو میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں (تم مقصود یعنی کثرت کی طرف دھیان دو)۔^⑤

دوسری جگہ حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک شخص کی شفاعت سے ربیعہ اور مضر میں سے ایک قبیلہ جتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ربیعہ و مضر (اتنے بڑے قبیلے)؟ فرمایا: جو میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں۔^⑥ ربیعہ و مضر تعداد افراد میں عرب کے سب سے بڑے قبیلے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عثمان بن عفانؓ ہیں جن کی شفاعت سے اس قدر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری روایت میں ابن ابی الجداء سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم سے زیادہ افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ فرمایا: ہاں میرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔^⑦

① الترمذی: ۲۳۴۰، مسند احمد: ۳/۲۰۰/۶۳، ② الزہرار: ۳۲۲۳، ③ اتحاف السادة المتقين: ۱۰/۳۹۵، ④ البیہقی: ۶/۲۸۸، اتحاف: ۸/۱۲۳

⑤ مجمع الزوائد: ۱۰/۳۸۱، ⑥ کنز العمال: ۷۸۴۲، ⑦ ابن ماجہ: ۲۴۱۶، مسند احمد: ۳/۲۶۹/۵

پانی کے بدلہ شفاعت کا قصہ:

یہی دن حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ، میں ایک بار بیت المقدس میں گیا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ہرگز نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ کو کہا: اے فلاں! مجھے پانی پلاؤ۔ میں مر رہا ہوں۔ گنہگاروں کے ساتھ پانی کا برتن تھا۔ عابد کے پاس پانی نہیں تھا۔ عابد کو پیاس تھی۔ اس نے گنہگار کو کہا: اے فلاں! مجھے پانی پلاؤ۔ میں مر رہا ہوں۔ گنہگاروں کے پاس ایک ہی برتن ہے اور ہم جنگل میں ہیں۔ اگر میں تجھ کو پانی پلا دوں تو میں مر جاؤں گا۔ آخر دونوں چل پڑے۔ عابد کی پیاس اور شدید ہو گئی اور پھر بولا: اے فلاں! مجھے پانی پلاؤ۔ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس نے پھر وہی جواب دہرایا۔ میرے پاس ایک ہی برتن ہے اور ہم جنگل میں ہیں۔ اگر میں تجھ کو پانی پلا دوں تو میں مر جاؤں گا۔ آخر چل پڑے۔ عابد راستے میں گر گیا اور بولا: اے فلاں! مجھے پانی پلاؤ۔ میں مر رہا ہوں۔ تب گنہگار کو خیال آیا کہ اللہ کی قسم! یہ نیکو کار بندہ ہے۔ بے کار موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اگر یہ مر گیا تو اللہ پاک مجھے معاف نہیں فرمائیں گے۔ آخر کار اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو پانی پلا دیا اور پھر دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن دونوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ عابد کو جنت اور گنہگار کو جہنم کا حکم سنایا جائے گا۔ گنہگار عابد کو پہچان لے گا لیکن عابد گنہگار کو نہ پہچان پائے گا۔ گنہگار عابد کو پکارے گا: اے فلاں! یاد کر میں نے اس دن جنگل میں اپنی ذات پر تجھ کو ترجیح دی تھی؟ اب مجھ کو جہنم کا حکم سنایا جا چکا ہے تو اپنے رب کے پاس میری شفاعت کر دے۔ عابد بارگاہ الہی میں عرض کرے گا: اے رب! اس نے واقعی اپنی ذات پر مجھ کو فوقیت دی تھی۔ اے رب! آج یہ شخص مجھے بدیہ کر دے۔ پس وہ گنہگار اس کو بدیہ کر دیا جائے گا۔ عابد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔^①

اعمال کی شفاعت صاحب اعمال کے لیے (الحديث):

حضرت عبداللہ بن مبارک سنداً حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں: روزہ اور قرآن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: یا رب! میں نے اس کو کھانے پینے سے اور دن میں خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا۔ لہذا اس کے حق میں مجھے شفاعت کا موقعہ دیجیے۔ قرآن کہے گا: پروردگار! میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔^②

ایک واقعہ:

نعیم بن حماد ابو القلاب سے سنداً ایک قصہ نقل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں: میرا بھتیجا شراب کا بہت عادی تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا اور اس نے مجھے کہلوا یا کہ مجھ سے مل لو۔ میں اس کے پاس چلا آیا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ دو سیاہ فام شخص اس پر چھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا: انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرا بھتیجا تو ہلاک ہو گیا۔ پھر قریب ہی ایک کھڑکی سے دو سفید پوش شخص ظاہر ہوئے اور ایک نے دوسرے

① مجمع الزوائد: ۳/۱۳۲/۱۰-۳۸۲- مطالب العیال: ابن حجر: ۳۶۵۸- کنز العمال: ۱۷۰۳۵- ② ابوداؤد بن المبارک: ۱۱۳۳

سے کہا: اس کے پاس جاؤ۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو پہلے دونوں سیاہ فام لوگ ہٹ گئے۔ سفید فام بزرگ نے اس کے منہ کو سونگھا اور کہا اس سے ذکر کی خوشبو نہیں آ رہی۔ پھر اس کے پیٹ کو سونگھا اور کہا اس میں روزہ کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ پھر اس کے قدموں کو سونگھا اور کہا ان میں نماز کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کے ساتھی نے کہا: انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ تو محمد (ﷺ) کا امتی ہے اس میں کہیں بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے! تنف، ہوا تھ پر، دیکھ دو بارہ دیکھ۔ لہذا پہلے سفید پوش بزرگ نے دوبارہ اس کو دیکھا اور کچھ نہ پایا۔ آخر کار دوسرا شخص اس کے پاس آیا اور اس کو سونگھا لیکن پہلی مرتبہ اس کو بھی کوئی خیر کی شے نہ ملی لیکن جب دوبارہ دیکھا تو اس کی زبان کے کنارے میں ایک تنکیر پائی جو اس نے اللہ کی رضاء کے لیے انطا کیہ میں اس کی راہ میں کبھی تھی۔ آخر انہوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ لوگوں نے گھر میں مشک کی خوشبو محسوس کی اور اس کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ یہ روایت نہایت غریب ہے۔ لیکن اعمال کے شفاعت کرنے پر دلیل ہے۔ علامہ قرطبی نے التذکرہ میں کتاب الدبیاج کے سند احوال سے نقل کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلہ سے فارغ ہو جائیں گے تو عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالیں گے۔ (جس پر لکھا ہوگا) میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ فرمایا: پھر اہل جہنم سے اہل جنت کے مثل (کثیر) افراد نکالے جائیں گے یا فرمایا: و مثل افراد نکالے جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں میرا غالب رجحان یہ ہے کہ ایک مثل فرمایا تھا۔ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا: ”عقبا اللہ“ اللہ کے آزاد کردہ۔^① ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے مجھے کسی دن یاد کیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت حسن ہے۔

ترمذی ہی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں جانے والوں میں سے دو شخص بہت چیخ و پکار کریں گے۔ پروردگار عالی شان فرمائیں گے: ان کو نکالو۔ ان کو نکال لیا جائے گا تو پروردگار ان سے دریافت فرمائیں گے: کس وجہ سے اتنی چیخ و پکار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے یہ حرکت ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو ہم پر رحم آجائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رحمت تمہارے لیے یہی ہے کہ تم دونوں (واپس و ہیں) چلے جاؤ۔ پس وہ دونوں اپنے آپ کو پھر جہنم کے پاس لائیں گے۔ ایک تو جہنم میں چھلانگ لگا دے گا لیکن دوسرا کھڑا رہ جائے گا۔ پروردگار اس سے دریافت فرمائیں گے تو نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا جیسے تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ وہ عرض کرے گا: پروردگار! مجھے تیری رحمت سے بعید لگتا ہے کہ تو مجھے ایک مرتبہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں ڈال دے۔ پروردگار فرمائیں گے: جا تجھے تیری اچھی امید مبارک ہو۔ (اور دوسرے کو اس کی تابعداری مبارک ہو) پھر دونوں کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔^②

اس روایت کی سند میں رشدین بن سعد ابن ابی نعیم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں ضعیف راوی ہیں لیکن ترغیب ثواب و امید میں مفید ہیں۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں رشدین بن سعد ابو ہانی الخولانی، عمرو بن مالک الخثعمی کے سلسلہ سند سے مروی ہے کہ فضالہ

① ذکرہ الحدیث فی تفسیرہ: ۳/۲۵۷۔ الدر المنثور: ۶/۳۔ ② الترمذی: ۲۵۹۹۔

بن عبید اور عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے فیصلہ سے فارغ ہو جائیں گے تو صرف دو آدمی رہ جائیں گے۔ ان دونوں کو جہنم کا حکم نادا مائے گا۔ ایک مڑ مڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھے گا۔ جبار عزوجل فرمائیں گے اس کو واپس لایا جائے۔ فرشتے اس کو بارگاہ خداوندی میں واپس لائیں گے تو پروردگار اس سے دریافت فرمائیں گے تو کیوں مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا؟ بندہ عرض کرے گا: پروردگار! مجھے امید تھی کہ آپ مجھے جنت میں داخل فرمادیں گے۔ پس اس کو جنت کا حکم دیا جائے گا۔ بندہ (جنت میں نعمتوں کی بارش دیکھ کر) کہے گا: پروردگار نے مجھے اتنا وافر عطا کر دیا ہے کہ اگر میں سارے جنتیوں کی دعوت کروں تو خدا کے دیئے ہوئے میں کچھ کمی نہ آئے۔ حضور ﷺ جب بھی اس حدیث کا ذکر فرماتے مسرت آپ کے چہرہ اقدس سے پھوٹ پڑتی۔^①



① سند احمد: ۵/۶۲۳۰/۲۱۔ کنز العمال: ۳۹۳۳۳۔ مجمع الزوائد: ۱۰/۳۸۳۔ اتحاف: ۹/۱۷۲۔

فصل

اصحاب اعراف کا بیان

فرمان الہی ہے:

”ان دونوں (یعنی بہشت اور دوزخ) کے درمیان (اعراف نام کی) ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب (اہل جہنم اور اہل جنت) کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ (انجی) بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ (شامل) نہ کرنا“۔ (سورۃ الاعراف: 46، 47)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کا نام ہے۔ حضرت عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے زفر سے وہ حضرت حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا: اصحاب الاعراف کو جہنم میں جانے سے ان کی نیکیاں آڑے آگئیں اور ان کی بدیوں نے ان کے لیے جنت کا راستہ کاٹ دیا۔ فرمان الہی ہے:

”اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ (شامل) نہ کرنا“۔ (سورۃ الاعراف: آیت: 47)

پس یہ لوگ ایک عرصہ تک اسی امید و بیم کی حالت میں ہوں گے کہ پروردگار ان پر جلوہ افروز ہوگا اور ان کو فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ امام بیہقی نے سنداً حضرت عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئیں۔ ان کو ایک نہر پر لے جایا جائے گا جس کو نہر الحیاء کہتے ہیں۔ اس نہر کی مٹی ورس اور زعفران کی ہوگی۔ اس کے کنارے سونے کے سہکندوں کے ہولناکیاں ہوں گی۔ جن پر موتی جڑے ہوں گے۔ وہ اس میں غسل کریں گے جس سے ان کے سینوں پر ہلکی سفیدی ظاہر ہوگی۔ وہ دو بار غسل کریں گے پھر ان کی سفیدی بڑھ جائے گی۔ پھر ان کو کہا جائے گا: تم جو چاہو اپنی خواہشات کا اظہار کرو۔ وہ اپنی خواہشات بتائیں گے۔ ان کو کہا جائے گا جو تم نے بتایا اور اس سے ستر گنا زیادہ تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مساکین البخت ہوں گے۔^① مصنف ابوالفداء علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اصحاب الاعراف کے متعلق کئی احادیث

① بیہقی: ۱۴۰۔

وارد ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان کو ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔

سب سے پہلے جو شخص جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا:

صحیح مسلم میں زہری عن عطاء بن یزید اللیشی کی روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا: کیا چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! پھر فرمایا: کیا جب سورج کا مطلع بادلوں سے صاف ہو اس وقت تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! فرمایا: پس اسی طرح قیامت کے دن پروردگار کو دیکھو گے جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا: جو شخص جس چیز کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے آئے۔ پس جو سورج کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو جائے گا جو سرکش شیاطین کی عبادت کیا کرتا تھا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ بس یہ امت اور اس کے منافقین رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے جس سے وہ آشنا نہ ہوں گے۔ پروردگار فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں! وہ کہیں گے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہم یہیں ایستادہ ہیں تا وقتیکہ ہمارا رب آجائے اور ہم اس کو پہچان لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے جس سے وہ آشنا ہوں گے۔ پروردگار فرمائیں گے: میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر وہ پروردگار کے پیچھے آئیں گے اور جہنم پر پل قائم کر دیا جائے گا۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں: پس میں اور میرے امتی سب سے پہلے اس پل پر سے گزریں گے۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہ کر سکے گا اور اس دن سب رسولوں کی زبان پر یہ دعا ہوگی: اے اللہ! سلامتی فرما! اے اللہ! سلامتی فرما۔ مقام سعدان کے کانٹوں کے مثل (بڑے بڑے) آٹکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! فرمایا: بس وہ آٹکڑے ان کے مثل ہوں گے البتہ جس امت ان کی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑیں گے۔ کوئی تو اپنے عمل کی پاداش میں ہلاک ہونے والا ہوگا اور کوئی نجات پانے والا ہوگا حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ قصاص سے فارغ ہو جائیں گے اور جہنم سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں جس جس کو نکالنا چاہیں گے تب فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ فرشتے ان کو سجدہ کے نشانات سے پہچان لیں گے کیونکہ آگ ان نشانات کو جلانے پر قادر نہ ہوگی۔ وہ جہنم سے کولہ ہو کر نکلیں گے پھر ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا۔ اس سے ان کے جسم یوں تروتازہ آگ آئیں گے جیسے بارش میں گھاس اگ آتی ہے۔

جب اللہ تعالیٰ فیصلہ سے فارغ ہو جائیں گے اور ایک شخص جہنم کی طرف منہ کئے باقی رہ جائے گا وہ منہ پھیرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ وہ پکارے گا: پروردگار! مجھے جہنم کی (آتشیں) ہوا آ رہی ہے۔ اس کی پیش مجھے جلائے دے رہی ہے۔ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ وہ مسلسل اللہ کو پکارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا جائے کچھ اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا: تیری عزت کی قسم! اور کوئی سوال نہ کروں گا اور اس پر رب تعالیٰ اس سے عہد و پیمانہ کرے گا۔ پس اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جائے گا پھر جب وہ

جنت کو دیکھے گا تو کچھ عرصہ خاموش رہے گا لیکن پھر سوال کرے گا یارب! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نہیں کہا تھا کہ اور کوئی سوال نہ کرو گے۔ بندہ کہے گا: تیری عزت کی قسم! اب کوئی سوال نہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے عہد و پیمانے لے گا اب وہ دوبارہ کوئی سوال نہ کرے گا اور پھر اس کو باب الجنۃ سے قریب کر دیا جائے گا۔ وہ جنت میں ہمیشہ بہانعتیں دیکھے گا تو کچھ عرصہ ناموش رہے گا پھر بول اٹھے گا: یارب! مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نہیں کہا تھا کہ اور کوئی سوال نہ کرو گے۔ اے ابن آدم! انفس! تو کس قدر دعا باز ہے۔ بندہ کہے گا یارب! مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بد بخت نہ فرما! پس وہ مسلسل اللہ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ پاک ہنسیں گے جب اللہ عزوجل اس کو دیکھ کر خٹک (ہنسی) فرمائیں گے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما دیں گے۔ جب وہ داخل ہو جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا: اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ وہ اظہار کرے گا۔ اسے پھر کہا جائے گا چاہو تو کچھ اور خواہش بتاؤ۔ وہ پھر اپنی خواہشات بتائے گا حتیٰ کہ اس کی تمنائیں اور خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ تب اس کو کہا جائے گا تجھے یہ بھی اور اس جتنا مزید عطا کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ حدیث سناتے وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ شروع سے حدیث ختم تک ساتھ موجود تھے لیکن کہیں بھی انہوں نے انکار نہیں فرمایا۔ صرف یہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری الفاظ یہ سنے تھے کہ یہ اور اس سے دس گنا زیادہ دیا جاتا ہے جب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ اور اس جتنا اور عطاء کیا جاتا ہے کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شخص جنت میں داخل ہونے والوں میں سے سب سے آخری شخص ہوگا (جس کا یہ اعزاز ہوگا) بعض روایات میں آیا ہے جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا اس شخص کا جہنم سے نکلنے کے بعد جنت میں داخلہ تین مراحل میں ہوگا۔ ہر مرحلہ میں وہ ایک درخت کے پاس فروکش ہوگا اور ہر درخت پہلے والے سے اچھا ہوگا۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔^①

سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا شخص:

عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم عبیدہ کے سلسلہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے شخص کو میں جانتا ہوں وہی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ وہ شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے: جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے پاس آ کر خیال کرے گا کہ جنت تو اب تک بھر چکی ہوگی لہذا وہ لوٹ کر پروردگار کے پاس آئے گا اور عرض کرے گا: پروردگار! جنت کو تو میں بھرا ہوا پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے: جا جنت میں داخل ہو جا۔ تیرے لیے دنیا اور اس کے دس مثل جنت عطا کی جاتی ہے۔ وہ حیرت میں عرض کرے گا: یارب! آپ بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس قدر ہنسنے کہ آپ

① بخاری: ۷۳۲۷۷۔ ۷۳۱۵۷۔ ۷۳۱۵۸۔ ۷۳۱۵۹۔ ۷۳۱۶۰۔ ۷۳۱۶۱۔

کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ یہ شخص جنت میں سب سے کم مرتبہ والا ہوگا۔^①

فصل

امام الدارقطنی نے اپنی کتاب ”الرداء عن مالک“ اور خطیب بغدادی نے ایک غریب طریق کے ساتھ عبدالملک بن الحکم سے روایت کی ہے وہ مالک عن نافع کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص جہینہ کا ایک فرد ہوگا۔ اس کو جہینہ ہی کہا جائے گا۔ اہل جنت کہیں گے جہینہ کے پاس یقینی خبر ہے اس سے سوال کرو کہ کیا کوئی مخلوق میں سے باقی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس روایت کی نسبت امام مالک کی طرف کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی مجہول ہیں۔ اگر آپ سے یہ روایت ثابت ہوتی تو کتب مشہورہ جیسا کہ خود آپ کی کتاب موطا امام مالک میں ضرور ہوتی۔ امام قرطبی پر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس روایت کو التذکرہ میں بیان کر کے اس پر یقین کر لیا اور فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص جہینہ کا ایک فرد ہوگا۔ اس کو جہینہ ہی کہا جائے گا۔ اہل جنت کہیں گے: جہینہ کے پاس یقینی خبر ہے۔ محدث سہیلی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس کی تضعیف نہیں فرمائی۔ فاعجب! صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے شخص کو میں جانتا ہوں۔ وہی سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کو اس کے گناہ یاد دلانے جائیں گے۔ تو نے اس دن یہ کیا کیا۔ فلاں دن یہ کیا کیا۔ اس کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہ ہوگا لہذا وہ ہاں ہاں کہتا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اسے پریشانی بھی ہو رہی ہوگی کہیں اس کے بڑے بڑے گناہ نہ پیش کر دیئے جائیں۔ پھر اسے کہا جائے گا: تجھے ہر ہدی کے عوض نیکی دی جاتی ہے۔ تب وہ کہے گا: پروردگار میں نے اور بھی بہت سے برے کام کئے ہیں۔ ان کو یہاں نہیں دیکھ رہا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا آپ اس قدر بے سے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں۔^②

السعم الکبیر للطبرانی میں سنداً حضرت ابو امامہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں سب سے آخر میں جو شخص داخل ہوگا وہ پل صراط پر ایسے پلٹیاں کھا رہا ہوگا جیسے وہ بچہ جسے اس کا باپ مار پیٹ رہا ہو اور وہ اس کی مار سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہو۔ اس کا عمل اس سے عاجز ہوگا کہ اس کو دوڑا سکے۔ وہ خدا سے کہے گا پروردگار! مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وحی بھیجیں گے: میرے بندے! اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے دوں اور جنت میں داخل کر دوں تو کیا تو اپنے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ وہ کہے گا: پروردگار! تیری عزت کی قسم! اگر تو مجھے جہنم سے نجات دے دے تو میں اپنے سب گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ پس وہ پل عبور کر جائے گا۔ پھر بندہ دل میں خیال کرے گا اگر میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لوں تو ممکن ہے اللہ پاک مجھے واپس جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وحی فرمائیں گے میرے بندے اب اپنے گناہوں کا اعتراف کر میں

① البخاری: ۶۵۶۷-۵۷۱۱-② المسلم: ۳۶۶۰

تیری مغفرت کر دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ وہ کہے گا: پروردگار! تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم! میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور نہ کوئی مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ پروردگار فرمائے گا: بندے! میرے پاس تیرا گواہ موجود ہے۔ وہ اپنے دام میں دیکھے گا اور کس کو نہ پا کر کہے گا: پروردگار مجھے اپنے گواہ دکھائیے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی کمال کو بلائیں گے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بتائے گی۔ بندہ جب یہ ماجرا دیکھے گا تو پکاراٹھے گا: یا رب! تیری عزت کی قسم! میرے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ پاک وحی فرمائیں گے: بندے میں ان کو تجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں تو ان کا اعتراف کر لے میں ان کو بخش دوں گا۔ پس بندہ گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادیں گے۔

یہ حدیث ارشاد فرما کر آپ ﷺ اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئیں اور فرمایا: یہ تو سب سے کم مرتبہ والے جنتی کا حال ہے۔ اس سے اوپر والے کیا کیا حال ہوگا (اور کیا شان و شوکت ہوگی) ^① مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں ایک بندہ ایک ہزار سال تک خدا کو 'یا حنان یا منان' کہہ کر پکارتا رہے گا۔ حنان کا مطلب ہے شفقت فرمانے والا، منان کا مطلب ہے احسان کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے: جاؤ میرے اس بندے کو لے کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے اور اہل جہنم کو گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے اور روتے ہوئے پائیں گے۔ (حضرت جبریل نہ پہچاننے کی وجہ سے) دوبارہ واپس جائیں گے اور بارگاہ الہی میں خبر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اس کو لاؤ وہ فلاں فلاں جگہ میں ملے گا۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے آئیں گے اور پروردگار کے سامنے اس کو کھڑا کر دیں گے۔ پروردگار فرمائیں گے: اے میرے بندے! اپنے ٹھکانے اور جائے آرام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا: پروردگار وہ انتہائی بے ٹھکانہ ہے اور بری آرام گاہ ہے۔ پروردگار فرمائیں گے: اس کو دوبارہ اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ بندہ عرض کرے گا: پروردگار مجھے تو آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ مجھے ایک مرتبہ نکال کر دوبارہ اس میں لوٹا دیں گے۔ پروردگار فرمائیں گے: میرے بندے کو چھوڑ دو۔ ^② امام احمد اس کی روایت میں منفرد ہیں۔

مسلمانوں کے نکلنے کے بعد کافرین کے ساتھ پیش آنے والے احوال:

جب اہل عصیان جہنم سے نکال لئے جائیں گے اور صرف کافر اس میں رہ جائیں گے تو وہ اس میں مریں گے نہ جنیں گے۔ جیسے فرمان الہی ہے:

”سو آج یہ لوگ دوزخ سے نہ نکالے جائیں گے۔“ (سورۃ الباقیہ آیت: ۳۵)

ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی بلکہ اسی آگ کے ٹھکانے میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن نے مجبوس کر رکھا ہوگا اور ان پر ہمیشہ کے لیے جہنم کا حکم عائد کیا ہوگا جیسے فرمان الہی ہے:

① المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۰/۱۰۰، ② مسند احمد: ۳/۲۳۰۔

”اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرنے کا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ یہ دُک و دُور زمین نہ دیکھیں گے۔ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مہلوم و مہملوم بنائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شاکر کس کا تھوڑا ہے۔“ (سورۃ الجن آیتان: 23، 24)

نیز فرمان الہی ہے:

”بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے (جہنم کی) آگ تیار کر رکھی ہے اس میں ابدالاً بادر ہیں کے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔“ (سورۃ الاحزاب: 64، 65)

فرمان الہی ہے:

”جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے خدا ان کو بخشے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ دکھائے گا ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ (چلتے) رہیں گے اور یہ (بات) خدا کو آسان ہے۔“ (انشاء: 168، 169)

یہ تین آیات ان کافروں کے لیے جہنم میں ابدالاً بادر بننے کا حکم ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تین آیات ان کے لیے سخت ترین ہیں۔ اس کے علاوہ مشیت کے ساتھ جو دوام کے حکم ہیں ان پر کلام ہوا ہے ان کی الگ تفصیل ہے۔ جیسے فرمان الہی ہے فرمایا:

”جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جتنا اللہ چاہے۔ بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے۔“

(سورۃ الانعام آیت: 129)

نیز فرمایا:

”تو جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں (ڈالے جائیں گے) اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا (اور) جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔“

(سورۃ ہود آیتان: 106، 107)

مسند احمد میں ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو (مینڈھے کی شکل میں) لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی نداء دے گا: اے اہل جنت! اب دوام ہی دوام ہے۔ موت کبھی نہیں آئے گی۔ اے اہل جہنم! دوام ہی دوام ہے۔ موت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ اعلان سن کر اہل جنت کی خوشیاں دو بالا ہو جائیں گی اور اہل جہنم کا رنج و غم اور بڑھ جائے گا۔^①

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا اور پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر اعلان ہوگا: اے اہل جنت! اہل جنت خوفزدہ ہو کر دیکھیں گے کہ کہیں ان کو ان کے ٹھکانے سے تو نہیں نکالا جا رہا ہے۔ پھر کہا جائے گا: کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی پروردگار! یہ موت ہے۔ پھر اعلان ہوگا: اے اہل جہنم! اہل جہنم خوش

ہو کر دیکھیں گے کہ شاید ان کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا: کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی پروردگار! یہ موت ہے۔ پس اس کے لیے حکم جاری کر دیا جائے گا اور موت کو پل مسراط پر لایا جائے گا اور دونوں فرشتوں کو کہا جائے گا: ہر جہاں باریک بینی سے دیکھو، ہمیشہ رہے گا اور موت کبھی نہیں آئے گی۔^۱ مصنف فرماتے ہیں اس روایت کی سند قوی اور جید ہے۔ نیز صحیح کی شرط کے مطابق ہے لیکن اس طریق کے ساتھ صحیحین میں سے کسی نے تخریج نہیں فرمائی۔

اہل جنت کی صفات اور نعمتوں کا بیان

www.KitaboSunnat.com

جنت کے دروازوں کا بیان:

فرمان الہی ہے:

”اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام! تم بہت اچھے رہے! اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں تو (اچھے) عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔“ (سورۃ الزمر آیتان: 73، 74)

فرمان الہی ہے:

”ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔“ (سورۃ ص آیت: 50)

فرمان الہی ہے:

”اور فرشتے (بہشت کے) باہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے (اور کہیں گے) تم پر رحمت ہو (یہ) تمہاری

ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب (گھر) ہے۔“ (سورۃ الرعد آیتان: 23، 24)

پہلے احادیث میں گزر رہے کہ مومنین جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس کو بند پائیں گے پس وہ شفیع کو تلاش کریں گے جو اللہ عزوجل کے ہاں شفاعت کر کے ان کے لیے دروازہ کھلوا سکے۔ پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ پھر نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام کے پاس یکے بعد دیگرے آئیں گے لیکن ہر ایک انکار کر دے گا پھر حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوں گے۔ پس آپ ﷺ باب الجنۃ کے حلقہ کو کھٹکھٹائیں گے۔ داروغہ جنت عرض کرے گا کون؟ آپ ﷺ فرمائیں گے: محمد۔ وہ عرض کرے گا: مجھے آپ ہی کا حکم ملا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں لہذا آپ ﷺ داخل ہوں گے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دوسرے تمام مومنین کے داخلہ کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ چنانچہ انبیاء میں آپ ﷺ اور امتوں میں آپ ﷺ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔

صحیح میں آپ ﷺ کا فرمان ہے: جنت میں سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پر
 سب سے پہلے بھی ۱۰۰ گنا اجر ہے۔ اور اہل سنس نے عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے ہاتھ حضرت عمر بن الخطاب سے نقل کیا ہے کہ
 حضور ﷺ کا ارشاد ہے: جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا پھر آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور یہ پڑھا:

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ﴾

اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔^① مسند احمد میں (عقنان بن بشر بن
 الفضل، عبدالرحمن بن اسحاق، ابی حازم کی سند کے ساتھ) حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کا ایک
 دروازہ باب الریان کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن روزہ داروں کو اس سے بلایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہاں ہیں روزے دار؟ پس جب وہ
 داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔^② مسند احمد میں ہے کہ جس نے اپنے مال
 میں سے کسی چیز کی دو جوڑیاں اللہ کی راہ میں خرچ کیں اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو
 اہل صلاۃ میں سے ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جو اہل الزکوٰۃ ہوں گے ان کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا۔ جو اہل
 الصوم (روزے دار) ہوں گے وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا کوئی شخص نہ ہوگا
 کہ وہ جس دروازے سے چاہے اسے اسی سے بلایا جائے؟ کیا کسی کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اور
 ابو بکر مجھ امید ہے کہ تم بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہو گے۔^③

عتبہ بن عبد اللہ بن المسلمی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس مسلمان کے تین بچے
 بلوغت کو پہنچنے سے قبل وفات پا جائیں تو وہ بچے اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں پر ملیں گے وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابن ماجہ
 نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔^④ بیہقی میں عتبہ بن عبد اللہ المسلمی سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ تلوار
 گنا ہوں کو مٹانے والی ہے لیکن نفاق کو نہیں مٹا سکتی۔^⑤ شفاعت سے متعلق ابو زرہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے متفق علیہ روایت ہے جس
 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے محمد! اپنی امت میں سے ہر اس شخص کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر لے جس پر حساب کتاب
 نہیں ہے۔ باقی دوسرے دروازوں میں سب شریک ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان
 ہے! جنت کی چوکھٹ کے درمیان کا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلے جتنا ہے۔^⑥ صحیح مسلم میں خالد بن عمیر العدوی سے
 مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں عتبہ بن غزو ان نے خطبہ دیا اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

”اِنَّا بَعْدُ لَوَ گُوَا دُنْيَا غَرِيبٌ دُنْيَانَا هُوَ نَا كَا اِعْلَانِ كَرِجْلِي هُوَ اُو رِبِيْطُهُ بَحِيْرٌ كَرِجْلِي هُوَ بَرْتَنُ كَا بَنِي كَحْفِيْ طَانِي كَا طَرْحُ دُنْيَا كَا مَعْمُوْلِي

① المسلم: ۱۳۹/۱۳۹۔ مسند احمد: ۹۱/۱۔ ② مسند احمد: ۳۳/۵۔ ③ بخاری: الحدیث: ۱۸۹۷۔ مسلم: الحدیث: ۲۳۶۸۔ ترمذی: الحدیث: ۳۶۷۳۔ مسند احمد:

الحدیث: ۲/۲۶۸ والحدیث: ۲/۳۶۶ والحدیث: ۳/۳۸۶۔ ④ ابن ماجہ: ۱۶۰۳۔ ⑤ البیہقی فی البعث والنشور: ۲۵۷ و فی السنن: ۱۶۳/۹۔

⑥ البخاری: ۳۳۶۱/۳۳۶۱۔ مسلم: ۳۷۹۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

حصہ رہ گیا ہے۔ ابن آدم اس بچے کھچے پانی کو بھی اپنے اوپر انڈیل رہا ہے۔ یقیناً تم سب اس دنیا کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جو کسی فنا نہ ہوگا۔ تمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دو کواڑوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے۔ اس پر ایک سال مسافت ہے۔ اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس پر انسانوں کا ازدحام ہوگا۔^۱ مسند احمد میں معنی یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ستر آدمیوں کے برابر ہو۔ ان میں سب سے آخر میں ہوا اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ باعزت ہوا اور جنت کے کواڑوں میں سب سے پہلے کواڑوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے۔ اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس پر انسانوں کا ازدحام ہوگا۔^۲

امام بیہقی نے اس کو دوسرے طریق سے نقل کیا ہے اور اس میں ستر سال کی مسافت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن امام بیہقی نے ما قبل کی چالیس سال والی روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کا دروازہ جس سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس کی چوڑائی تیز رفتار سواری کے لیے تین دن کی ہے۔ اس کے باوجود وہ اس میں اس قدر رش کے ساتھ داخل ہوں گے کہ ان کے مونڈے چھیل رہے ہوں گے۔^۳ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے لیکن وہ خود فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے لای علمی کا اظہار فرمایا: مسند عبد بن حمید میں ایک سند کے ساتھ جس میں ابن ابیہر بھی ایک راوی ہیں روایت کی ہے کہ حضرت اسوسعید خدری سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے درمیان کا فاصلہ ستر سال کی مسافت کا ہے۔

امام قرطبی نے دعویٰ بلا دلیل کیا ہے کہ جنت کے تیرہ دروازے ہیں اور اس کے سوا کئی دلیل پیش نہیں^۴ فرمائی کہ جنت کے آٹھ سے زیادہ دروازے ہیں جیسا کہ حدیث عمر میں ہے: جس نے وضوء کیا پھر کہا: اشهد ان لا اله الا الله تو اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے آٹھ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس روایت کو امام ترمذی وغیرہ نے تخریج فرمایا ہے۔ آجری نے کتاب النبیۃ میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کی ہے: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب النضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک منادی نداء دے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جو چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور ان سے کہا جائے گا: یہ تمہارا دروازہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔^۵

جنت کے دروازوں کے نام:

حلیبی فرماتے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کا نام باب محمد ہے۔ یہی باب التوبہ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ باب الصلوٰۃ، باب الصوم، باب الزکوٰۃ، باب الصدقہ، باب الحج، باب العمرہ، باب الجہاد اور باب الصلۃ نام کے دروازے ہیں۔ حلیبی کے علاوہ دوسرے شیوخ نے کچھ اور نام بھی گنوائے ہیں: باب الکافئین، باب الراضین اور باب الایمن، جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن پر کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ امام قرطبی نے اس آخری دروازے کے دو کواڑوں کے درمیان کی چوڑائی تیز رفتار سواری کے حساب سے

① مسلم ۴۳۶۱-۲، مسند احمد ۳/۵-۱، الترمذی: ۲۵۲۸، التبیح فی البعث والنشور: ۲۵۹۔

② تفسیر القرطبی: سورۃ الزمر الآیہ: ۸۳۔ الحدیث: ۲۷۴/۱۵۔ البخاری: ۱۸۹۶۔ المعجم الکبیر لطرطبی: ۱۸۸/۶۰۔ کنز العمال: ۳۵۷۹: ۲۱۳۹۰۔

تین دن کی مسافت بتائی ہے۔ واللہ اعلم۔

جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت اور نیک اعمال اس چابی کے دندانے ہیں

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے۔^① صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت وہب بن منبہ سے پوچھا گیا: کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں؟ لیکن چابی جب ہی کھولے گی جب اس کے دندانے بھی ہوں ورنہ نہیں کھولے گی یعنی توحید کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور طاعات کا بجالانا اور منہیات سے اجتناب کرنا بھی لازمی شے ہے۔^②

جنت کے محلات کی تعداد ان کی بلندی اور فراخی و کشادگی کا بیان

فرمان الہی ہے:

”اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شانیں (یعنی قسم قسم کے میوؤں کے درخت ہیں) تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دو چشمے بہ رہے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (اہل جنت) ایسے پچھونوں پر جن کے استراطلس کے تکلیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب (جھک رہے) ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے اہل رہے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت (اور) خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (وہ) حوریں خیموں میں مستور (ہیں) تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو (اہل جنت سے) پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکلیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (اے محمد ﷺ) تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔“ (سورۃ الرحمن آیات: 46-78)

① الدر المنثور: ۶۲/۲۔ الترفیہ والترہیب: ۶۱۳/۲۔ تفسیر ابن کثیر: ۱۱۲/۷۔ ② البخاری۔

صحیح بخاری میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو جنتیں سونے کی ہیں۔ ان کے برتن وغیرہ ہر چیز سونے کی ہے۔ دو جنتیں چاندی کی ہیں۔ ان کے برتن وغیرہ ہر چیز چاندی کی ہے۔ جنت عدن میں ان لوگوں اور خدائے عزوجل کے درمیان صرف ایک کبریائی کی چادر ہوگی جو خدائے عزوجل کے چہرے پر ہوگی۔^① امام بیہقی نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سابقین کے لیے سونے کی دو جنتیں ہیں اور اسحاب الہین کے لیے دو جنتیں چاندی کی ہیں۔^② امام بخاریؒ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں یوم بدر کو حضرت حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کو انجان تیرا لگا تھا (جس کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش فرما گئے) ان کی اہلیہ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جانتے ہیں حارثہ کی میرے دل میں کیا وقعت تھی لہذا اگر تو وہ جنت میں ہیں تو میں ان پر نوحہ زاری نہیں کرتی۔ ورنہ ابھی آپ دیکھ لیں گے میں کیا (رونا دھونا) کرتی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کے لیے کیا ایک ہی جنت ہے!! بلکہ بہت سی جنتیں ہیں اور وہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔

اللہ کے راستہ میں معمولی عمل اور جنت کی کم ترین شے دونوں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں:

فرمان رسول اللہ ﷺ ہے: راہ خدا میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور تمہاری (اہل جہاد کی) کمان کی مقدار اور کوڑے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک آسمان وزمین پر جلوہ گر ہو جائے تو آسمان وزمین کے درمیان کوروشن و تابناک کر دے اور سارا جہاں خوشبو سے مہک اٹھے۔ جنتی عورت کی اوڑھنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔^③ حضرت قتادہؓ سے مروی ہے فرمایا: فردوس جنت میں سب سے بالائی و سٹی اور افضل ترین جگہ ہے۔^④ فرمان الہی ہے:

”یعنی اونچے (اونچے محلوں کے) باغ میں“۔ (سورۃ الحاقہ آیت: 22)

فرمان الہی ہے:

”تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں“۔ (سورۃ طہ آیت: 75)

فرمان الہی ہے:

”اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو (خدا سے) ڈرنے والوں کے لیے تیاری کی گئی ہے“۔ (سورۃ آل عمران آیت: 133)

فرمان الہی ہے:

”(بندو) اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی (طرف) جس کا عرض آسمان اور زمین کا عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیاری کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو! یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے“۔ (الحدید: 21)

① البخاری رقم الحدیث: ۲۸۷۸ و الحدیث: ۲۸۸۰۔ المسلم: ۳۳۷۔ البيهقي في البعث والنشور: ۲۳۲۔ البخاری: ۶۵۶۷۔ ۶۵۶۸۔ ۶۵۶۹۔ المعجم الکبیر: ۲۵۸/۷۔

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے خواہ اس نے اللہ کے راست میں ہجرت کی ہو یا جی جائے پیدائش میں بیٹھا رہا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو خبر دے دیں؟ فرمایا: جنت میں سو درجات ہیں۔ اللہ نے وہ اپنے راستے کے مجاہدین کے لیے تیار کئے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا بیچ اور جنت کا سب سے بالائی درجہ ہے۔ اس کے اوپر عرشِ رحمن ہے۔ اسی سے جنت کی تمام نہریں پھوٹی ہیں۔ امام بخاری نے بھی اس کے ہم معنی حدیث روایت فرمائی ہے۔^①

فردوس کا سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ ہے نماز اور روزہ اللہ کی مغفرت کا سبب ہیں

ابوالقاسم الطبرانی اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے: جس شخص نے پانچ نمازیں قائم کیں، رمضان کے روزے رکھے (حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) میں بھول گیا کہ آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کی مغفرت فرمادے۔ ہجرت کرے یا وہیں بیٹھا رہے جہاں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں جا کر لوگوں کو نہ بتا دوں؟ فرمایا: چھوڑو! انہیں عمل کرنے دو۔ بے شک جنت میں سو درجات ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ اسی پر عرشِ خداوندی ہے۔ یہ جنت کا بالکل درمیانی حصہ ہے۔ اسی سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں۔ پس تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی اس کو مختصر روایت کیا ہے۔^②

جنت کی نہریں فردوس سے پھوٹی ہیں

مسند احمد میں عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کے سو درجے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے۔^③ ابن عفان فرماتے ہیں: آسمان و زمین کے درمیان جتنی مسافت کے بقدر جنت کے درجوں کا درمیانی فاصلہ ہے۔ فردوس ان میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی سے چاروں نہریں نکلتی ہیں۔ عرش اس کے اوپر ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ مصنف فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ فردوس کی مذکورہ صفت گنبد نماز عمارت میں ہی ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا وسط اور بالائی حصہ گنبد کی چوٹی پر بنتی ہوتا ہے۔

ابوبکر بن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کے سو درجات ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔^④ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے لیکن اس میں ہر دو درجوں کے

① البخاری: ۲۴۲۳۔ مسند احمد: الحدیث: ۲/۳۳۵ والحدیث: ۲/۳۳۹ والحدیث: ۲/۳۱۶۔ ② الترمذی: ۵۲۳۰۔ ابن ماجہ: ۲۴۳۱۔

③ مسند احمد: ۲۴۱۵/۵۔ ④ المسجد رک للہی: ۱/۸۰۔ کنز العمال: ۳۹۲۲۱۔ الدر المنثور: ۲/۲۰۵۔ ۲/۲۵۵۔

درمیان سو سال کی مسافت کا ذکر ہے۔^① اور اس کے متعلق امام ترمذی نے حسن صحیح کا حکم عائد فرمایا ہے لہذا سو سال کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حافظ ابو نعیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رشتہ کے اعتبار سے اگر سارے جہاں والے ایک ہی درجہ میں آجائیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔^② امام ترمذی اور امام احمد نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے۔

اہل جنت میں ادنیٰ اور اعلیٰ جنتی کے لیے نعمتوں کا بیان

فرمان الہی ہے:

”اور بہشت میں (جہاں) آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم (الشان) سلطنت دیکھو گے۔“ (سورۃ الدھر: 20)

پہلے متفق علیہ حدیث میں گزر چکا ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کو کہا جائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا جتنی جنت اور اس کے بھی دس مثل مزید دی جائے۔^③ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ حضور ﷺ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اہل جنت میں سب سے کم درجہ والا جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغات، نعمت و آسائش، حشم و خدم اور تخت و سریر کو ہزار سال کی مسافت سے ہی دیکھ لے گا اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت و کرامت والا شخص وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کے دیدار کا مستحق ہوگا۔^④ پھر آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی: جس کا ترجمہ ہے:

”اس روز بہت سے مندرجہ دار ہوں گے (اور) اپنے پروردگار کے دیدار میں محو ہوں گے۔“ (القیامہ: 22-23)

مسند احمد میں ہی حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں سب سے کم مرتبہ والا بھی وہ شخص ہوگا جو اپنی سلطنت کو دو ہزار سال کی مسافت سے بھی یوں دیکھے گا جیسے قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی ازواج اور حشم و خدم کو بخوبی دیکھے گا اور اہل جنت میں سب سے زیادہ مرتبہ والا وہ شخص ہوگا جو ہر روز دو مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا۔^⑤ مسلم اور طبرانی میں سفیان بن عیینہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: یارب! مجھے اہل جنت میں سب سے کم مرتبہ والا شخص بتائیے۔ فرمان ہوا: ہاں! میرا وہ بندہ جو تمام لوگوں کے (جنت میں) اپنے اپنے ٹھکانوں پر منتقل ہو جانے اور اپنی اپنی مصروفیات میں محو ہونے کے بعد آئے گا۔ اسے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا: پروردگار! میں کیسے اس میں داخل ہوں جب کہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر منتقل ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی مصروفیات میں محو ہو گئے ہیں۔ پروردگار اس کو فرمائیں گے: کیا تو اس پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسا (ٹھانڈا بانڈھا) ہو جائے۔ وہ عرض کرے گا: یارب! میں راضی ہوں۔ پروردگار فرمائیں گے: تیرے لیے اتنا اور اتنا ہوا۔ اس موقع پر حضرت سفیانؓ نے اپنی پانچوں انگلیوں کو ملا کر (غالباً دس کا) اشارہ کیا۔ بندہ کہے گا: یارب! میں راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار! اب مجھے اہل جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ والا شخص کا بتائیے۔ فرمایا: ہاں! وہی لوگ میرے خیال میں ہیں

① الترمذی: ۲۵۲۹۔ ② الترمذی: ۲۵۳۲۔ مسند احمد: ۳۱۶/۵۔ ۳۱۶/۵۔ ۲۹۲/۲۔ ۳۳۱/۵۔ بخاری: ۶۵۷۱۔ المسلم: ۳۶۰۔

④ مسند احمد: ۶۳/۲۔ ۱۳/۲۔ ۱۳/۲۔ ۲۵۵۳۔ مسند احمد: ۶۳/۲۔ ۱۳/۲۔ ۱۳/۲۔

ان کا میں بتاتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ میں نے ان کی عزت کو پودا لگایا ہے۔ انہی پر میں نے کرامت کو ختم کر دیا ہے۔ (ان کے لیے میں سے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں) جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں جملہ کی بشر کے دل پر ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔^۱

اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اس امر کا مصداق ہے فرمان الہی ہے

”کوئی تنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔“

(سورۃ السجدہ آیت: ۱۷)

صحیحین میں ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں بلکہ کسی بشر

کے دل پر ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔^۲ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اس کا مصداق ہے فرمان الہی ہے:

”کوئی تنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔“

(سورۃ السجدہ آیت: ۱۷)

مسند احمد میں حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی مجالس میں حاضر ہوا، جس میں جنت کی صفات بیان کی جا رہی تھیں حتیٰ کہ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا: اس میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں بلکہ کسی بشر کے دل پر ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔^۳ پھر آپ ﷺ نے فرمان الہی کی تلاوت فرمائی:

”ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں (اور) وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو (مال) ہم نے

ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی تنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے

یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔“ (سورۃ السجدہ آیتان: ۱۶، ۱۷)

امام مسلم نے ہارون بن معروف سے اس کو روایت فرمایا ہے۔

جنت کے بالا خانوں، ان کی بلندی، کشادگی اور فراخی کا ذکر (اللہ پاک ہمیں ان کی سکونت بخشے):

فرمان الہی ہے:

”لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں (اور)

ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (یہ) خدا کا وعدہ ہے خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔“ (سورۃ الزمر آیت: ۲۰)

فرمان الہی ہے:

”ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ دلجمعی سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔“ (سورۃ السبا آیت: ۳۷)

① المسلم: ۳۶۳۔ الطبرانی فی الکبیر: ۶/۵۸۲۷/۶-۶۰۰۰/۶-۶۰۰۰۳

② البخاری: ۸۳۹۸۔ المسلم: ۳۶۳۔ مسند احمد: ۵/۳۳۳

صحیحین میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت اپنے امیر سے کمروں کے اندر (دوسرے جنتیوں کو) یوں دیکھیں گے جیسے تم مشرق و مغرب سے اپنے اوپر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ تفاوت اہل جنت کے درجات کے تفاوت سے ہوگا۔ اوّلوں نے عرض لیا: یا رسول اللہ! کیا یہ (اوپنی) منازل انبیاء کے لیے ہوں گی جن تک کسی اور کی رسائی نہ ہو سکے گی۔ فرمایا: نہیں! قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے؟ یہ انبیاء کی منازل ہوں گی اور (ان کے علاوہ) ان لوگوں کی بھی منازل ہوں گی جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔^①

صحیح میں سہل بن سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو یوں دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق میں دور گہرے اور چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔^② مسند احمد حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو یوں دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق میں گہرے اور چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ یہ ان کے درمیان درجات کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ان (اوپنی) منازل میں انبیاء ہوں گے؟ فرمایا نہیں! قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اور بہت سے لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یزروایت امام بخاری کی شرط پر پوری ہے۔^③

اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں کے محلات

مسند احمد میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے جنت میں بالا خانے یوں دکھائی دیں گے جیسے مشرق یا مغرب میں طلوع ہونے والا ستارہ۔ پوچھا جائے گا: یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے۔^④ ابو عیوبہ حضرت ابوسعیدؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ اہل علیین کو دوسرے جنتیوں دیکھیں گے جیسے آسمان کے افق میں ستارہ دیکھا جاتا ہے اور ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں۔

جنت سب اعلیٰ ترین مرتبہ ”وسیلہ“ جس میں حضور ﷺ کھڑے ہوں گے

صحیح البخاری میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے وہ آپ ﷺ سے نقل کرتے ہیں: جس نے اذان سن کر یہ کہا:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَالْأَفْضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَنَّهُ.

تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔^⑤ صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم موزن کی آواز سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے وہی تم بھی کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جس نے مجھ

① البخاری: ۳۲۵۶۔ المسلم: ۴۰۷۳۔ البخاری: ۶۵۵۵۔ المسلم: ۴۰۷۳۔ ② البخاری: ۶۵۵۵۔ مسند احمد: ۳۳۹/۲۔

③ مسند احمد: ۸۷/۳۔ البخاری: ۶۱۳۔

پر درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ جس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال لیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگئی۔^۱

وسیلہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم مجھ پر درود پڑھو تو اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وسیلہ کیا شیء ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو ایک ہی شخص پائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔^۲ مسند احمد میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ہاں وسیلہ ایسا درجہ ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ پس اللہ سے سوال کرو کہ مجھے وسیلہ عطا فرمائے۔^۳ طبرانی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ دنیا میں جس بندے نے بھی میرے لیے اس کا سوال کیا قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا یا فرمایا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔^۴

جنت کے خمیر کا ذکر کہ کس چیز سے اس کی تعمیر ہوئی؟

مسند احمد میں ہے ام المومنین حضرت عائشہؓ کے آزاد کردہ غلام ابوہمد کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اہل آخرت میں سے ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو دنیا میں لگ جاتے ہیں اور بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہنے لگے جو مجھ سے ملاقات کے وقت رہتا ہے تو ملائکہ تم سے مصافحہ کرنے لگیں اور وہ تمہارے گھروں میں آ آ کر تمہاری زیارت کرنے لگیں۔ لیکن اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلہ دوسری قوم کو لے آئیں جو گناہ کریں (اور اللہ سے مغفرت مانگیں) اور اللہ ان کی مغفرت فرماتا رہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں جنت کا بتائیے کہ کس چیز سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ فرمایا: ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی۔ اس کا گندھاؤ مشک سے ہے۔ اس کے پتھر لولو اور یاقوت ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے جو اس میں داخل ہو گیا تو تازہ رہتا ہے کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ رہتا ہے کبھی نہیں مرتا نہ اس کا لباس پرانا ہوتا ہے اور نہ اس کا شباب زائل ہوتا ہے۔

ابن ابی الدنیا میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا: ایک اینٹ سفید موتی سے ایک اینٹ سرخ یاقوت سے اور ایک اینٹ سبز زبرجد سے۔ اس کی ملاوٹ مشک کی رکھی۔ اس کے کنکر لولو ہیں اور اس کی گھاس زعفران ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے فرمایا: بول تو جنت گویا ہوئی: قد افلح المؤمنون۔ بے شک مومنین فلاح پا گئے۔ (سورۃ المؤمنون آیت ۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت کی قسم! میرے جلال کی قسم! کوئی بخیل میرا پڑوسی نہیں بنے گا۔ پھر

① المسلم: ۸۴۷۔ ② مسند احمد: ۲/۲۶۵۔ ③ مسند احمد: ۳/۸۳۔ ④ الاوسط للطبرانی: ۶۷۷۔ مجمع الزوائد: ۱/۳۳۳۔

آپ نے یہ فرمان الہی تکرار فرمایا:

”اور جو شخص طبیعت کے نخل سے بچ گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں“۔ (سورۃ النعیم: 16)

ابن ابی الدنیا میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جنت کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا: جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی نہ مرے گا۔ تر و تازہ رہے گا بھی بوسیدہ نہ ہوگا۔ نہ اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کا شباب زائل ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! جنت کی تعمیر کس چیز سے کی گئی ہے؟ فرمایا: ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی۔ اس کا گندھاؤ مشک ہے۔ اس کے پتھر لولہ اور یاقوت ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے۔^① گندھاؤ سے مراد گارا ہے جس سے اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ مسند الہزار میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی سے۔ اس کا گارا مشک ہے۔ جنت کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا: کلام کر تو جنت گویا ہوگی: قد افلح المؤمنون۔ بے شک مؤمنین فلاح پائیں گے۔ (سورۃ المؤمنون آیت: 1) ملائکہ نے جنت کو کہا: خوشخبری ہو تجھے تو (آخرت کے) بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔

امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے لیکن اس میں خوشخبری ہو تجھے تو (آخرت کے) بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے اللہ کا فرمان ہے۔ داؤد بن ابی ہند نے حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فردوس کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ہر مشرک اور شراب کے عادی پر اس کو ممنوع قرار دے دیا۔^② طبرانی میں (احمد بن خلید، ابوالیمان الحکم بن نافع، صفوان بن عمرو، مہاجر بن میمون کی سند کے ساتھ) حضرت فاطمہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد فداء ابی وای حضور ﷺ سے عرض کیا: ہماری ماں خدیجہ کہاں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: موتی کے اس گھر میں جہاں کوئی شور ہے نہ شغب۔ مریم اور خاتون فرعون آسیہ کے درمیان۔^③ حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا: کیا یہی موتی؟ فرمایا نہیں بلکہ وہ چمکدار موتی جو یاقوت اور لولہ اور دوسرے موتیوں کے ساتھ پروردیا گیا ہو۔

امام طبرانی فرماتے ہیں: حضرت فاطمہؓ سے صرف اسی سند سے روایت ہوئی ہے۔ صفوان بن عمرو اس میں متفرد ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے لیکن صحیح بخاری میں اس کا شاہد موجود ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دوں جو چمکدار موتی کا بنا ہوا ہے اس میں شور ہوگا نہ شغب۔^④ حدیث میں ”فی بیت من قصب“ کے الفاظ ہیں قصب کے بہت سے معنی ہیں۔ یہاں مقام کی مناسبت سے چمکدار موتی معنی لیا گیا ہے۔ قصب کا اطلاق اس نشان پر بھی ہوتا ہے جو دوڑ کے مقابلے میں انتہاء پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت خدیجہ کے لیے قصب اللؤلؤ اس لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ حضرت خدیجہؓ رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنے میں سب سے سبقت لے گئیں تھیں جیسا کہ اول بعثت والی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ کو وحی آنے کی خبر دی اور بہت زدگی کی وجہ سے فرمایا: مجھے اپنے ہوش و حواس جاتے رہنے کا ڈر

① مجمع الزوائد: ۱۰/۳۹۷۔ کنز العمال: ۳۹۳۸۹۔ ② کنز العمال: ۱۳۱۸۵۔ الدر المنثور: ۲/۳۲۲۔

③ مجمع الزوائد: ۹/۲۲۳۔ ④ تفسیر ابن کثیر الحدیث: ۳/۳۵۷۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

ہو چلا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ایسے الفاظ سے تسلی دی جو رہتی دنیا تک سبھی حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: "اگر میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ آپ کو کبھی بیمار مان کر کے آپ سے آج کو تیریں۔" چھ کارا تہ، یہ ہیں پندرہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں بے کس و سہارا دیتے ہیں مصائب زمانہ پر (لوگوں کی) مدد کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر مریم اور آسیہ رضی اللہ عنہما کے درمیان لیا گیا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں یہ دونوں تقسیم خواہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں گی۔ بعض علماء نے اس کو ذیل کی سورۃ سے استنباط فرمایا ہے: یسا ایہا السبی لبہ تحوم^۱ اس میں آگے چل کر فرمایا: نیسات و ابکارا یعنی کنواریاں اور شادی شدہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی شادی فرمادیں گے۔ کنواری تو حضرت مریم ہیں اور شادی شدہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ حضرت براء وغیرہ اسلاف سے اس کے مثل منقول ہے۔

قیام اللیل، کھانا کھلانا اور کثرت صیام کی فضیلت

ابن ابی الدنیا میں حضرت علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر کے مناظر دیکھے جاسکتے ہیں اور باہر سے اندر کے مناظر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! یہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا: اس کے لیے جس نے اچھا کلام کیا (بھوکے کو) کھانا کھلایا یا پابندی و دوام کے ساتھ روزے رکھے اور رات کے اس پہر میں نماز (تہجد) پڑھی جب لوگ سو رہے ہوتے۔^۲ امام ترمذی نے اس کو علی بن حجر عن علی بن مسہر عن عبدالرحمن بن اسحاق کے طریق سے روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ روایت غریب ہے اور ہم اس کو صرف اسی (راوی) کی حدیث سے پہچانتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر کے مناظر دیکھے جاسکتے ہیں اور باہر سے اندر کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جس نے (بھوکے کو) کھانا کھلایا یا پابندی و دوام کے ساتھ روزے رکھے اور رات کے اس پہر میں نماز (تہجد) پڑھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔^۳

دوسری روایت میں ہے کہ جنت کی چھتیں نور کی ہیں۔ بجلی کی مانند چمکتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہ لکھی ہوتی کہ جنتیوں کی نگاہیں صحیح سالم رہیں گی تو ان کی بصارت جاتی رہتی۔ بیہوشی میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم کو جنت کے بالا خانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں تمام قیمتی جوہروں سے بنے ہوئے بالا خانے ہیں۔ ان کے اندر سے باہر کا نظارہ ہوتا ہے اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ ان میں وہ نعمتیں لذتیں اور مرغوب غذاؤں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا: جس نے سلام کو رواج دیا (بھوکے کو) کھانا کھلایا یا روزوں پر دوام کیا اور رات کے اس پہر میں نماز پڑھی جب لوگ سو رہے ہوں۔^۴

راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کس میں ان سب چیزوں کی ہمت ہو سکتی ہے؟ فرمایا: میری امت اس کی طاقت

① تحريم: الآیة: ۱۱۔ ② الترمذی: ۲۵۷۷۔ ③ کنز العمال: ۲۳۳۰۶۔ ④ تحف السادة المتقين الحدیث: ۵۲۹/۱۰۔ المغنی للراوی الحدیث: ۵۱۰/۳۔

رکھتی ہے اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ جس نے اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت سلام کیا اور اس نے جواب دیا تو بس اس نے سلام کو رواج دے دیا اور جس نے اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلایا اور اس کو کیر کدیر یا تو بس اس نے کھانا کھلا دیا اور جس نے راد مضامین کو پڑھا اور جس نے ہر مہینے میں سے تین دن کے مزید روزے رکھے پس اس نے روزوں پر مداومت کر لی اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے اس وقت نماز پڑھی جس وقت یہود انصاری اور مجوسی لوگ سو رہے تھے۔ نتیجتاً میں حسن بن فہر حضرت حسن بصری سے اور حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا:

﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾

”اور بہشت ہائے جادوانی میں نفیس مکانات کا (وعدہ کیا ہے)۔“ (سورۃ التوبہ: 72)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: (بہت بڑے) موتی کا ایک محل ہے۔ اس محل میں یا قوت سے بنے ہوئے گھر ہیں۔ ہر گھر میں سبز مرد کے ستر کمرے ہیں۔ ہر کمرے میں ایک تخت ہے۔ ہر تخت پر ہر رنگ کے ستر بستر ہیں اور ہر بستر پر ایک حور عین ہے اور ہر کمرے میں ستر دسترخوان ہیں۔ ہر دسترخوان پر ستر رنگ کے کھانے ہیں۔ ہر کمرے میں ستر خادم ہیں اور مؤمن کو ان چیزوں کے تمام لوازمات بھی دیئے جائیں گے۔^① امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ روایت نہایت غریب ہے کیونکہ اس میں انقطاع ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہب عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد زید بن اسلم سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص کو ایک موتی کا بنا ہوا محل دیا جائے گا اس محل میں ستر کمرے ہوں گے۔ ہر کمرے میں ایک حور عین ہوگی۔ ہر کمرے کے ستر دروازے ہوں گے۔ جنتی پر ہر دروازے سے جنت کی خوشبو آئے گی اور ہر دروازے کی خوشبو دوسرے دروازے سے یکسر مختلف ہوگی۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”کوئی تنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے

تھے۔“ (سورۃ السجدہ آیت: 17)

امام قرطبی نے حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً نقل فرمایا ہے۔ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے اور نہ کوئی ستون ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ان میں اہل جنت کیسے داخل ہوں گے؟ فرمایا: پرندوں کی مانند۔ عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ فرمایا: مصیبت زدوں، بھوکوں اور بے کسوں کے لیے (جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں)^②

جنت کے خیموں کا ذکر

فرمان الہی ہے:

” (وہ) حوریں (ہیں جو) خیموں میں مستور (ہیں) تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔“

(سورۃ الرحمن آیتان: 72، 73)

① تفسیر القرطبی: ۸۸/۱۸، تفسیر القرطبی: ۸۸/۱۸، تفسیر الطبری: ۱۰۰/۱۲۴، ② تفسیر القرطبی: ۸۸/۱۸

صحیحین میں ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کے اندر بنا خیمہ ہوگا۔ اس خیمہ کی لمبائی ماٹھ میل ہوگی۔ اس میں نو مومن کے اہل خانہ لیس گے۔ نو مومن ایک کے پاس آئے گا لیکر کرنی ایک دوسرے نہ کو دیکھ پائے گا۔ مذکورہ روایت میں مسلم کے الفاظ ہیں لیکن بخاری کی روایت میں خیمہ کی لمبائی تیس میل آئی ہے لیکن صحیح مسند میں ابن ابی الدنیا میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں: ”کھوکھلے موتی کا ایک خیمہ ہوگا اس کی لمبائی ایک فرسخ (یعنی تین میل) ہوگی۔ اس کی چوڑائی بھی ایک فرسخ ہوگی۔ اس میں سونے کے ایک ہزار دروازے ہوں گے۔ اس کے گرد و پیش بھی پچاس فرسخ تک شامیانے ہوں گے۔ جنتی کے پاس ہر دروازے سے اللہ کی طرف سے تحفہ آئے گا اور یہی مطلب ہے اس فرمان باری کا:

”اور فرشتے (بہشت کے) ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے“۔ (سورۃ الرعد آیت: 23) ❶

ابن المبارکؒ فرماتے ہیں ہمیں ہمام نے عکرمہ کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرمایا ہے کہ خیمہ ایک ایسا موتی ہوگا جو اندر سے خالی ہوگا اور ایک مربع فرسخ اس کی پیمائش ہوگی اس کے چار ہزار سونے کے کواڑ ہوں گے۔ حضرت قتادہؒ خالد العصریؒ کے توسط سے حضرت ابوالدرداءؒ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں: خیمہ ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ ستر اس کے دروازے ہوں گے اور سب کے سب موتی کے ہوں گے۔

جنت کی مٹی کا ذکر:

صحیحین میں حدیث معراج میں حضرت ابوالدرداءؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے جنت میں لے جایا گیا دیکھا تو وہاں موتی کی چٹانیں ہیں اور وہاں کی مٹی مشک ہے۔ ❷ مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن صائد سے جنت کی مٹی کے بارے میں پوچھا: ابن صائد نے عرض کیا: وہ انتہائی ملائم نرم سفید اور مشک ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔ مسند احمد میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود کے متعلق فرمایا: میں یہود سے جنت کے بارے میں پوچھتا ہوں اور (انتابتادوں کہ) وہ مٹی نرم و ملائم اور سفید ہے۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا: یا ابا القاسم وہ روٹی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: موتی کی روٹی ہے۔ گزشتہ اوراق میں جنت کی تعمیر کے بارے میں گزر چکا ہے کہ اس کا گارامشک ہے۔ اس کے پتھر موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ بعض روایتوں میں مشک کی مٹی آئی ہے لہذا ممکن ہے کہ کہیں مشک بطور مٹی استعمال ہو اور کہیں زعفران۔

یہ وسعت اور کشادگی اس قدر قیمتی ہوگی صحیح میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کی کمان کی جگہ یا اس کے پاؤں کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ❸ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی جنتی کے کوڑے کی رسی آسمان وزمین سے بہتر ہے۔ ❹ یہ روایت شیخین کی شرط پر ہے۔ ابن وہبؒ فرماتے ہیں ہمیں عمرو بن

❶ البخاری: ۳۲۲۳، المسلم: ۷۰۸۹۔ الترمذی: ۲۵۲۸۔ مسند احمد: ۳۰۰/۳۔ ۳۱۱/۳۔

❷ مسند احمد: ۱۳۳/۵۔ ۱۳۳/۵۔ اتحاف السادة المتقين: ۷/۷۵۔ ❸ مسند احمد: ۳۱۵/۲۔

الحارث نے سلیمان بن جنید کے حوالہ سے خبر دی کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے فرمایا جنید راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہ عامر نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کی نسبت بیان کیا یا نہیں؟ ان کے کہنے پر کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے اگر کسی نے دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آمان و زمین کے درمیان کوروشن کر دے۔

جنت کی نہروں اور درختوں کا بیان

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں“۔ (سورۃ البقرہ آیت: 25)

”ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی“۔ (سورۃ الاعراف آیت: 43)

جنت جس کا پرہیز گاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بونہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہے اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں (جس میں حلاوت ہی حلاوت ہے)

”اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے“۔ (سورۃ محمد آیت: 15)

”جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پھل ہمیشہ

(قائم رہنے والے) ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے“۔

(سورۃ الرعد آیت: 35)

مسند احمد میں حکیم بن معاویہ سے مروی ہے وہ اپنے والد معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں دودھ کا سمندر ہے پانی کا سمندر ہے شہد کا سمندر ہے شراب کا سمندر ہے اور سب نہریں انہی سے پھولتی ہیں۔^① ترمذی میں ابو بکر بن قیس سے مروی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا خیال ہے کہ جنت کی نہروں کی زمین میں حدود ہوں گی۔ نہیں اللہ کی قسم! وہ تو زمین کی سطح پر تیرتی ہیں اور ان کے کنارے موتیوں کے ہیں۔ ان کے بندھوتیوں کے ہیں اور ان کی مٹی اذخر خالص مشک ہے۔^② عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ اذخر کیا شیء ہے؟ فرمایا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو یہ بات اچھی لگے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو شراب پلائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اس سے کنارہ کش رہے اور جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ریشم پہنائیں تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں اس کے پہننے سے باز رہے۔ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑ کے نیچے سے پھوٹ رہی ہیں۔ اگر کسی اونٹنی جنتی کے لباس کا دنیا کے تمام لباسوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اونٹنی جنتی کا لباس سب سے بہتر ہوگا۔^③

① مسند احمد: ۳/۳۱۱۔ ② الترمذی: ۳۳۶۰۔ ③ کنز العمال: ۱۳۲۲۰، التحف السادة: ۵۳۲، موارد العظام: ۲۶۲۲۔

جنت کی مشہور ترین خبر کوثر کا بیان (اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عیوب سے بے نیاز فرمائے)

فرمان الہی ہے:

”(اے محمد!) تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نمار پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا

دشمن ہی بے اولاد رہے گا“۔ (سورۃ الکوثر آیات: 3-1)

صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر سورت بالا نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس میں بہت ہی خیر ہے۔^① صحیحین میں حضرت انسؓ سے حدیث معراج منقول ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ایک نہر پر آیا اور اس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا اے جبریل! یہ کیا ہے؟ عرض کیا: (یہ نہر) کوثر ہے جو اللہ عزوجل نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔^②

ایک روایت میں مزید اضافہ ہے کہ پھر میں نے اس نہر میں ہاتھ مارا تو (اس کی مٹی) خالص مشک پائی۔ مسند احمد میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے کوثر عطا کی گئی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایک نہر تھی جو زمین کی سطح پر بہ رہی تھی۔ اس کے کنارے موتیوں کے گنبد تھے۔ نہر پر کوئی (ساتبان یا) چھت نہیں تھی۔ لہذا میں نے اس کی مٹی میں ہاتھ مارا تو خالص مشک پائی اور اس کے کنکر موتی تھے۔^③ مسند احمد میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس کی مٹی مشک ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس نہر پر ایسے پرندے آتے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح (لمبی لمبی) ہیں۔^④

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ پرندے کیا ہی تر و تازہ ہوں گے فرمایا: ان کے کھانے والے ان سے زیادہ تر و تازہ ہوں گے۔ امام حاکم کی روایت میں حضرت حذیفہؓ سے یہی روایت مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر کو یہ بھی فرمایا: اے ابو بکر تو بھی ان پرندوں کے کھانے والوں میں سے ہے۔^⑤ مسند احمد میں یہی روایت دوسرے طریق سے مروی ہے اس میں مذکورہ بالا سوال حضرت عمرؓ نے کیا اور آنحضرتؐ نے ان کو وہی جواب عنایت فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ تر و تازہ ہوں گے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ اس کا پانی موتیوں پر بہتا ہے اور وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔^⑥ ایک روایت میں برف سے زیادہ سفید ہونے کے الفاظ آئے ہیں۔^⑦

① تخریج کا سبق الشن۔ ② المسنم ۱۸۹۳، ابوداؤد ۸۳۰۷۔ مسند احمد ۱۰۲/۳۔ ③ مسند احمد ۲/۳-۱۵۲/۳۔ ④ مسند احمد ۱۰۲/۳-۲۲۶/۳۔

⑤ اتحاف السادة المتقين ۱۰/۵۴۱۔ ⑥ مسند احمد ۲۲۶/۳۔ ⑦ الرندی ۲۲۲۱، ابن ماجہ ۲۲۲۳، مسند احمد ۲۲۶/۳۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اور کوثر کی ایک اور تفسیر:

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ کوثر کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر سے مروی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ: کوثر ایک خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا فرمائی ہے۔ ابن بشر کہتے ہیں میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ ما مَطْبُورٌ پر تو یہ مشہور ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا: جنت کی کوثر نامی وہ نہر بھی اسی خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں: کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہیں۔ اس کا پانی یا قوت اور موتیوں پر بہتا ہے اور وہ پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔^①

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت:

بخاری میں ابو سعیدؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا:

﴿إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكُوثَرَ﴾

”ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا“۔ (سورہ کوثر آیت: ۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے کنارے (گنبد نما) موتیوں کے ہیں۔ اس کے (پینے کے) برتن آسمان کے ستاروں کی طرح (لا تعداد اور روشن) ہیں۔^②

نہر کوثر کی آواز:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزید فرمایا: جنت میں جو داخل ہوگا اس کی آواز نہیں سنے گا الا یہ کہ اس قدر جب آدمی اپنے کان بند کرتا ہے تو سائیں سائیں کی مدہم سی آواز سنائی دیتی ہے۔

جنت میں نہر بیدخ کا ذکر

ایک صحابیہ کے سچے خواب کا بیان:

مسند احمد میں سنداً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سچے خواب پسند تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ فرماتے: کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لہذا کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں آپ ﷺ سے دریافت کر لیتا۔ اگر اس میں کوئی بری بات نہ ہوتی تو آپ اس کو پسند فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت خدمت رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں (خواب میں کیا) دیکھتی ہوں گویا میں جنت میں داخل ہو گئی۔ میں نے ایک تیز آواز سنی جس کو سن کر اہل جنت رونے لگے

① الترمذی: ۳۳۶۱، ابن ماجہ: ۴۳۴۳، مسند احمد: ۳/۲۳۶۔ ② البخاری: ۴۹۶۶۔

گئے۔ میں نے دیکھا تو فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں کو لایا گیا حتیٰ کہ میں نے بارہ آدمی گن لئے۔ راوی کہتے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے پہلے ایک جنگی دستہ بھیج چکے تھے۔ عورت نے آ کے ڈنڑیا پھر ان بارہ آدمیوں کو لایا گیا ان کے بسوسوں پر پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ان کی رگوں سے خون پھوٹ رہا تھا۔ پھر کہا گیا ان کو بیدن یا نہر بیدن کہا گیا میں لے جاؤ۔ وہ اس میں غوطہ زن ہو گئے۔ پھر جب نکلے تو ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی مانند ہو گئے۔ پھر کرسیاں لائی گئیں اور وہ ان پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک بڑا بچھوٹا پیالہ لایا گیا۔ اس میں تازہ پھل تھے۔ انہوں نے ان کو کھایا۔ وہ جب بھی لقمہ لیتے اور کسی نے ذائقہ کا خیال کرتے تو وہی ذائقہ اس میں پاتے۔ میں نے بھی اس میں سے کھایا۔ راوی کہتے ہیں: اس کے بعد اس جنگی دستہ کا خبر رساں شخص آ گیا اور خبر دی: یا رسول اللہ! یوں یوں اور فلاں فلاں شہید ہو گئے حتیٰ کہ اس نے وہی بارہ اشخاص گنوائے جن کو اس سے پہلے عورت گنوا چکی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس عورت کو میرے پاس لاؤ۔ وہ بلوائی گئی آپ ﷺ نے عورت کو فرمایا: اس شخص کو بھی اپنا خواب سناؤ۔ عورت نے مجھ کو خواب گوش گزار کیا تو وہ شخص بولا: یا رسول اللہ! بالکل ایسا ہی ہوا جیسا یہ کہہ رہی ہے۔^①

جنت کے دروازے پر جاری نہر بارق کا ذکر اور جنت کی نہروں کے نام:

مسند احمد میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہداء جنت کے دروازے پر (جاری) نہر بارق کے قریب سبز گند میں ہوں گے۔ صبح و شام جنت سے ان کا رزق آئے گا۔^② حدیث الاسراء میں سدرۃ المنتہیٰ کے ذکر میں آپ ﷺ نے فرمایا: اس (سدرۃ المنتہیٰ) کی جڑ سے دو نہریں باطنی اور دو نہریں ظاہری پھوٹ رہی ہیں۔ دو باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور دو ظاہری نہریں (زمین میں) نیل اور فرات ہیں۔ مسند احمد اور صحیح مسلم میں (بالفاظ مسلم) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سیکون جیحون فرات اور نیل ہر ایک جنت کی نہریں ہیں۔^③

حافظ ضیاء نے اپنے طریق کے ساتھ جس میں مسلمۃ بن علی النخعی راوی بھی ہیں، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت سے پانچ نہریں نازل فرمائیں ہیں: سیکون، یہ ہند کی نہر ہے، جیحون، یہ نخ (افغانستان) کی نہر ہے۔ دجلہ اور فرات، یہ عراق کی نہریں ہیں۔ نیل، یہ مصر کی نہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنت کے چشموں میں سے ایک ہی چشمے سے جاری فرمایا ہے۔ یہ چشمہ جنت کے درجات میں سب سے نچلے درجہ میں جبریل علیہ السلام کے پروں پر واقع ہے۔ اللہ نے اس کو پہاڑوں کے پاس امانت رکھوایا اور زمین میں اس کو جاری فرمایا اور لوگوں کے لیے اس میں ان کی معیشت کے فوائد رکھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا۔“ (سورۃ المؤمنون آیت: ۱۸)

آگے فرمایا: پس جب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجیں گے اور زمین سے قرآن اٹھالیا جائے گا، سارا علم اٹھالیا جائے گا حجر اسود اٹھالیا جائے گا، رکن البیت کے پاس سے مقام ابراہیم اٹھالیا جائے گا، موسیٰ کا تابوت اپنے مشمولات کے ساتھ اٹھا

① مسند احمد ۳/۱۳۵۔ ② مسند احمد ۱/۲۶۶۔ ③ المسلم ۲۰۹۰/۲۔ مسند احمد ۲/۲۸۹۔

لیا جائے گا اور یہ یا نیچوں نہر میں اٹھائی جائیں گی۔ سب چیزیں آسمان کی طرف اٹھائی جائیں گی۔ یہ مطلب ہے اس فرمان الہی کا: ”اور ہم اس کے اٹھالے جانے پر بھی قادر ہیں۔“ (سورۃ المؤمنین آیت: 18)

پس جب یہ سب چیزیں اٹھائی جائیں گی تو اہل زمین پر دنیا و آخرت کی نیرو جلائی سے خروم ہو جائیں گے۔^① مصحف فرماتے ہیں یہ روایت نہایت ضعیف ہے بلکہ من گھڑت ہے۔ اس میں مسلمہ بن علی راوی ائمہ کے ہاں حدیث میں ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہروں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ بہتی ہوں گی۔ اہل جنت جہاں چاہیں گے ان کو بانگ کر لے جائیں گے۔ یہ نہریں مختلف جگہوں سے ان کے لیے پھوٹ رہی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: جنت میں کوئی ایسا چشمہ نہیں جو مسکد کے نیچے سے نہ پھوٹ رہا ہو۔^② (جبل مسکد سے مراد مشک کا پہاڑ ہے) مذکورہ روایت مرفوعاً بھی منقول ہے۔

امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں شراب پلائیں اس کو چاہیے کہ دنیا میں اس سے اجتناب کرے۔ اور جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ریشم پہنائیں تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں اس کے پینے سے باز رہے (یاد رکھو!) جنت کی نہریں مشک کے پہاڑ یا ٹیلہ کے نیچے بہ رہی ہیں۔ اگر کسی ادنیٰ جنتی کے لباس کو دنیا کے لباسوں کے ساتھ موازنہ کرایا جائے تو ادنیٰ جنتی کا لباس جو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں پہنائیں گے دنیا کے تمام لباسوں کو مات کر دے گا۔^③

جنت کے درختوں کا بیان

فرمان الہی ہے: ”اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔“ (سورۃ النساء آیت: 57)

فرمان الہی ہے: ”ان دونوں میں بہت سی شانیں (یعنی قسم قسم کے میوؤں کے درخت ہیں) تو تم اپنے پروردگار کی کون کون نعمت کو جھٹلاؤ گے۔“ (سورۃ الرحمن آیتان: 48، 49)

فرمان الہی ہے: ”دونوں خوب گہرے گہرے۔“ (سورۃ الرحمن آیت: 64)

فرمان الہی ہے: ”(اہل جنت) ایسے بچھونوں پر جن کے استراطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب (جھک رہے) ہیں۔“ (سورۃ الرحمن آیت: 54)

فرمان الہی ہے: ”جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔“ (سورۃ الحاقہ آیت: 23)

فرمان الہی ہے: ”اور میوؤں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔“ (سورۃ الدھر آیت: 14)

① تفسیر القرطبی: ۱۱۳/۱۲، الدر المنثور: ۵/۸، ② موارد الظمآن: ۲۶۲۲، ③ کنز العمال: ۱۳۲۲۰، تحائف السادة: ۱۰/۵۳۲۔

فرمان الہی ہے ”اور دانے ہاتھ والے (سبحان اللہ) دانے ہاتھ والے کیا (یسی عیش میں) ہیں (یعنی) بے شمار کی بی بیوں اور تہ بند بیویوں اور سب سے ساریوں اور پانی کے بھرتوں اور میوہ ہائے شیشہ (سے ہاتھوں) میں بونے تہی تمہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور اونچے اونچے فرشوں میں ان کے (سورۃ الرحمن آیات ۲۷-۲۸)۔
فرمان الہی سے ”ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں“۔ (سورۃ الرحمن آیت ۶۸)
”ان میں سب میوے دودو قسم کے ہیں“۔ (سورۃ الرحمن آیت: ۵۲)

ابوبکر بن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کی شاخ سونے کی نہ ہو۔^۱ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی الدنیا میں ابن عباسؓ سے مروی ہے آپؓ نے فرمایا: جنت کے درختوں کی بڑی شاخیں سبز زرد کی ہیں۔ ٹہنیاں سرخ سونے کی ہیں۔ ان کا رواں اہل جنت کے لیے لباس ہے۔ ان کے چھوٹے کیڑے اور جوڑے انہی سے بنتے ہیں۔ ان درختوں کے پھل گھڑوں اور ڈولوں کی مانند بڑے ہیں۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ ان میں گھلیاں نہیں ہیں۔^۲ ابن ابی الدنیا میں ابن عباسؓ سے مروی ہے فرمایا: قرآن میں ظل ممدود سے مراد ایک درخت ہے جس کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں سو سال تک بھاگتا رہے گا۔ اہل جنت اس کے سائے تلے آکر محفلیں جمایا کریں گے۔ اور جب وہ دنیا کی کسی عیش اور نعمت کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیجیں گے جو آکر اس درخت کو ہلائے گی جس کی وجہ سے اس درخت سے وہ سامان عیش گرے گا۔

جنت کے ایسے درخت کا ذکر جس کے سائے تلے سو سال تک تیز رفتار گھوڑا بھاگتا ہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا:

صحیحین میں حضرت سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایسا درخت ہے کہ گھوڑا اپنے سوار کے ساتھ اس کے سائے میں سو سال تک بھاگتا رہے تب بھی اس کے سائے کو قطع نہیں کر سکے گا۔^۳ ابو حازم کہتے ہیں میں نے یہ حدیث النعمان بن ابی العباس الرزقی کو سنائی تو انہوں نے فرمایا: مجھے حضرت ابوسعید خدریؓ نے بھی اس کے مثل سنایا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: جنت میں ایسا درخت ہے کہ انتہائی تیز رفتار سوار اس کے سائے میں سو سال تک بھاگتا رہے تب بھی اس کے سائے کو قطع نہیں کر سکے گا۔^۴ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”اور لمبے لمبے سایوں (میں ہوں گے)“ (سورۃ الواقعة آیت: ۳۰) کے متعلق مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: جنت میں ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک بھاگتا رہے تب بھی اس کے سائے کو قطع نہیں کر سکے گا۔^۵ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: جنت میں ایک کمان یا کوڑے کی مقدار جگہ ہر اس شیء سے بہتر ہے

① الترمذی: ۲۵۲۵۔ ② کنز العمال: ۳۹۷۲۲۔ ③ البخاری: ۲۵۵۲۔ ۴۔ المسلم: ۶۹۰۷۔

④ البخاری: ۲۵۵۲۔ ۵۔ المسلم: ۶۹۰۷۔ ⑤ البخاری: ۲۵۵۲۔ مستدرجہ: ۲۵۷۷۔

جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔

شجرہ طوبی

مسند احمد میں عقبہ بن عبید اللہ السلمی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے جنت اور حوض کے بارے میں سوال کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اور اس میں ایک درخت ہے جس کو طوبی کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ ﷺ نے اس کے علاوہ بھی کچھ فرمایا جس کا مجھے علم نہیں۔ اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا وہ درخت ہماری زمین کے درختوں جیسا ہے؟ فرمایا: تیری زمین کے درختوں جیسی کوئی مشابہت ان میں نہیں ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تو کبھی ارض شام گیا ہے؟ اعرابی نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا شام میں ایک درخت ہے جس کو 'جوزہ' کہا جاتا ہے اس کے ساتھ فقط اتنی مماثلت ہے کہ وہ ایک ہی تنے پر سیدھا جاتا ہے اور اوپر جا کر اس کی ٹہنیاں پھیلتی ہیں۔ (جوزہ اردو میں اخروٹ کا درخت کہلاتا ہے)

اعرابی نے عرض کیا: اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہے؟ فرمایا: اگر تو اونٹنی کے بچے کو لے کر جائے اور اس درخت کی جڑ میں اترنا چاہے تو اس بچہ کے ٹخنے ٹوٹ جائیں گے لیکن اس کی جڑ کو نہیں پہنچ پائے گا۔ عرض کیا: اس میں انگوڑی بھی ہیں؟ فرمایا: ہاں عرض کیا: انگوڑوں کا گچھا کتنا بڑا ہے؟ فرمایا: کالے سفید کوے کی ایک مہینے کی مسافت کے بعد بھی وہ ختم نہ ہو۔ عرض کیا: پھر اس کا دانہ کتنا بڑا ہوگا کیا ہم اس (کے رس) سے ایک ڈول بھر سکتے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ عرض کیا: کیا وہ جنت میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا بلکہ تیسرے سارے قبیلے کے لیے وہ کافی ہے۔^①

حرمہ بن وہب اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعیدؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اس کے لیے کیا ہی خوشی کا مقام ہے؟ فرمایا: ہاں اس کے لیے (ایک مرتبہ) خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس کے لیے خوشخبری ہے پھر مکر خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور جو دیکھ اس نے مجھے دیکھا نہیں۔^② یہاں طوبی کا معنی خوشخبری کیا گیا ہے۔ لہذا ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ طوبی کیا شے ہے؟ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس (کے سائے) کی مسافت سو سال ہے۔ اہل جنت کے اس درخت کے ٹکڑوں سے نکلتے ہیں۔

سدرۃ المنتہی

فرمان الہی ہے:

”اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس۔ اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے جب کہ اس بیری پر چھارہ تھا جو چھارہ تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ (حد سے) آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار

① مسند احمد: ۱۸۳/۳۔ ② مسند احمد: ۲۳۸/۵۔

(کی قدرت) کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ (سورۃ النجم آیات: 13، 18)

سدرۃ المنتہیٰ ایک بیری کا درخت ہے جس کو پروردگار کا نور دکھانا ہے ہونے ہے۔ ملاکہ اس پر چھائے رہتے ہیں۔ بعض پرندے اس کو گھیرے رکھتے ہیں۔ سونے کے پروانے اور متعدد رنگ اس پر رونق افروز رہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اس پر بہت سے رنگ پھائے رہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں؟ کوئی ان کی صفات بیان نہیں کر سکتا۔“ صحیحین میں آپ ﷺ کا فرمان ہے جو حدیث معراج کے ذیل میں آیا ہے کہ: پھر مجھے ساتویں آسمان میں سدرۃ المنتہیٰ کی طرف اوپر لے جایا گیا۔ دیکھا تو اس کے پھل جگر کے (بڑے بڑے) گھڑوں کی مانند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ دیکھا تو اسی کیسے تنے سے دو طاہری نہریں اور دو باطنی نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ بولے: دو باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور دو طاہری نہریں (زمین میں) نیل اور فرات ہیں۔^①

حافظ ابو یعلیٰ اپنی سند کے ساتھ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو سدرۃ المنتہیٰ کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا: اس کے سائے میں سو سو سال تک چلتا رہا یا فرمایا سو سو سال کے سائے میں آسکتے ہیں۔ اس میں سونے کے پروانے ہیں اس پھل گویا گھڑے ہیں۔^② ابن ابی الدنیا میں سلیم بن عامر سے مروی ہے وہ فرماتے تھے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعراب (دیہاتیوں) کے سوال کرنے سے بہت نفع پہنچاتے ہیں۔ سلیم بن عامر فرماتے ہیں اسی طرح ایک اعرابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت (یعنی بیری) کا ذکر کیا ہے جس کے کانٹوں سے ایذا پہنچتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

﴿فِي سِدْرٍ مَّحْضُودٍ﴾

”(یعنی) بے خار کی بیڑیوں میں۔ (سورۃ الواقعة آیت: 28)

اللہ تعالیٰ اس کے کانٹوں کو ختم فرما کر ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمادیں گے۔ چنانچہ اس درخت سے ایسے پھل پھوٹیں گے جن میں بہتر بہتر ذائقے ہوں گے۔ ہر ذائقہ دوسرے سے جدا ہوگا۔^③ امام ترمذی نے حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اس رات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے فرمایا: اے محمد! میری طرف سے اپنی امت کو سلام دیجیے گا اور ان کو بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے۔ اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے لیکن وہ جنت چشیل میدان ہے اور اس کے درخت ”سبحان اللہ الحمد للہ الا لا اللہ واللہ اکبر“ ہیں۔^④

امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت حسن غریب ہے۔ ترمذی کے اسی باب میں اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک پودا لگا رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا ان کے پاس سے گزر ہوا آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تجھے اس سے بہتر پودا

① البخاری: ۳۲۰۷۔ المسلم: ۳۱۵۔ ② ابو یعلیٰ فی مسندہ: ۲۹۹۱/۵۔ ۳۰۳۸۔ ۵۸۵۳/۱۰۔

③ تاریخ اصحاب لابی نعیم: ۳۵۱/۲۔ الترغیب والترہیب: ۵۲۸/۳۔ ④ الترمذی: ۳۳۶۲۔

لگانے کا نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتاتا ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! الحمد للہ! لا الہ الا اللہ! اکبر! اکبر! ایک کے عوض جنت میں تیرے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا“^①

امام ترمذی نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ”سبحان اللہ العظیم و الحمد للہ اکبر“ کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔^② امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت حسن صحیح غریب ہے۔

جنت کے پھلوں کا ذکر (اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بھی ان سے کھلائے)

فرمان الہی ہے: ”ان میں میوے اور گھجوریں اور انار ہیں۔“ (سورۃ الرحمن آیت: 68)

فرمان الہی ہے: ”ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔“ (سورۃ الرحمن آیت: 52)

فرمان الہی ہے: ”(اہل جنت) ایسے کچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں بانگوں کے

میوے قریب (جھک رہے) ہیں۔“ (سورۃ الرحمن آیت: 54)

یعنی ان کو لیٹے لیٹے بھی کھا سکیں گے جیسے دوسری جگہ فرمایا:

”اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔“ (سورۃ الدھر آیت: 14)

فرمان الہی ہے: ”اور دانے ہاتھ والے (سبحان اللہ) دانے ہاتھ والے کیا (ہی عیش میں) ہیں (یعنی) بے خار کی بیڑیوں

اور تہہ کیوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ ہائے کثیرہ (کے بانگوں) میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے

کوئی روکے اور اونچے اونچے فرشوں میں۔“ (سورۃ الواقعة آیت: 29-34)

فرمان الہی ہے: ”اس کے پھل ہمیشہ (قائم رہنے والے) ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی

ہیں۔“ (سورۃ الرعد آیت: 35)

یعنی دنیا کے پھلوں کی طرح موسم کے ساتھ مقید نہ ہوں گے بلکہ ہر وقت ہر زمانے میں لدے پھندے رہیں گے۔ اسی طرح

ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے ان پر کبھی خزاں نہ آئے گی اور نہ ان سے کوئی روکنے والا ہوگا۔ بلکہ جو بھی ارادہ کرے گا اس کے لیے ان کا

حصول انتہائی آسان ہوگا حتیٰ کہ لیٹے لیٹے بھی اشاروں سے ان کی ٹہنیاں آ موجود ہوں گی اور اگر جنتی درخت کے بالائی حصہ سے کھانا چاہے

گا وہ حصہ از خود جھک کر قریب ہو جائے گا۔ ابواسحاق حضرت براءؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:

﴿وَذَلَّلَتْ فَطُوفُهَا تَذَلُّلًا﴾

”اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔“ (سورۃ الدھر آیت: 14)

کا مطلب ہے کہ پھل اس قدر قریب آ جائیں گے کہ جنتی لیٹے لیٹے بھی ان کو تناول کر سکیں گے۔ فرمان الہی ہے:

”اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے (نعمت کے) باغ ہیں جن کے نیچے

① ابن ماجہ: ۷۷۰۷، ② الترمذی: ۳۳۶۳۔

نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دینے جائیں گے اور وہ ان کے لیے باگ بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ (سورۃ البقرہ آیت 25)

فرمان الہی ہے:

”بے شک پرہیزگار مسایاں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جوان کو مرغوب ہوں۔ جو عمل کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ ہم نیلوی کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔“ (سورۃ المرسلات آیات 41:44)

فرمان الہی ہے: ”اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے (حفاظت سے) تہ کئے ہوئے (آب دار) موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔“

(سورۃ الواقعة آیات 20:24)

پہلے گزر چکا کہ جنت کی مٹی مشک اور زعفران ہے اور جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو اور ان درختوں کی جڑوں کا ذکر بھی ہوا تو ایسے درختوں سے کس قدر عمدہ اور لذیذ شیء پیدا ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ دنیا میں ان پھلوں کا صرف نام ہے ورنہ جنتی پھلوں کی دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جنت میں دنیا کی کوئی شے نہیں ہے سوائے نام کے۔ دنیا میں پیری کا درخت انتہائی معمولی پھل اور وہ بھی ایک سادہ ذائقہ کے ساتھ پیدا کرتا ہے جب کے اس کے ساتھ کانٹے بھی کثیر ہوتے ہی جب کہ جنت میں پیری کا ایک پھل اپنے اندر ستر ذائقے سموئے ہوگا۔ ہر ذائقہ دوسرے سے قطعی مختلف ہوگا۔ اسی پر دوسرے سب پھلوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جنت میں ایسی اشیاء ہوں گی جن کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال تک گزرا۔

صحیحین میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صلاۃ الکسوف کے بعد فرمایا: جب کہ لوگوں نے یہ سوال کیا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ بڑھا کر کوئی شیء پکڑنے لگے تھے (جب کہ یہاں ایسی کوئی شیء نہیں ہے اور) اس کے بعد آپ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا: میں نے جنت کو دیکھا تھا تو میں نے اس سے انگوروں کا ایک گچھا لینا چاہا اگر میں اس سے لے لیتا (اور تم کو دیتا) تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔^① یہی روایت مسند احمد میں حضرت جابرؓ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر جنت اپنی تمام تر عنایتوں اور زیب و زینت کے ساتھ پیش کی گئی۔ میں اس میں سے انگور کا ایک خوشہ لینے لگا تا کہ تمہارے پاس لاؤں لیکن کوئی شیء اس کے اور میرے درمیان آڑے آگئی۔ اگر میں اس کو لے آتا تو آسمان وزمین کے درمیان کے تمام لوگ کھاتے اور اس سے کچھ کم نہ ہوتا۔^②

المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنتی جب جنت کا کوئی پھل توڑے گا تو اس کی

① البخاری: ۱۰۵۲، المسلم: ۱۷، مسند احمد: ۳۵۸، ② مسند احمد: ۳۵۸۔

جگہ و سراپھل لگ جائے گا۔^① لیکن حافظ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس روایت کے ایک راوی عباد کے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اہم ظہر الی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ بنی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حضرت آدم مرتے تک سب سے اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کی صنعت سکھا دی تھی اور جنت کے پھلوں کا توشہ بھی ساتھ کر دیا تھا۔ یوں یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں (کی نسل) سے ہیں لیکن یہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ خراب نہیں ہوتے۔^②

فصل

فرمان الہی ہے:

”اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے“۔ (سورۃ الواقحہ: 20، 21)

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو (جنت میں) کسی پرندے کو دیکھے گا اور اسے کھانے کی خواہش لرب گا تو وہ آ کر تیرے سامنے بھنا ہوا گر جائے گا۔^③ ترمذی میں حضرت انس سے ایک روایت منقول ہے جس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے فرمایا: ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو وہ پرندے بڑے لذیذ اور تروتازہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: ان کو کھانے والے ان سے زیادہ تروتازہ ہوں گے۔^④

تفسیر ثعالبی میں حضرت ابوالدرداء سے مرفوعاً مروی ہے کہ: جنت میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی مانند ہیں۔ وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا اللہ کے ولی! میں نے عرش کے نیچے چراگا ہوں میں چرا ہے اور نسیم چشموں کا پانی پیا ہے لہذا مجھے کھا۔ یوں پرندہ مسلسل اپنی تعریف کر کے جنتی کو اپنے کھانے کی طرف رغبت دلانے کا حتیٰ کہ جنتی اس کے کھانے کی طرف جیسے ہی مائل ہو گا وہ پرندہ مختلف ذائقوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر گر جائے گا۔ پس وہ اس سے جو چاہے گا کھائے گا حتیٰ کہ جنتی جب سیر ہو جائے گا تو اس پرندے کی ہڈیاں جڑ جائیں گی اور وہ جنت میں چرنے کے لیے جہاں چاہے گا اڑ جائے گا۔ یہ روایت غریب ہے۔

اہل جنت کے کھانے پینے کا ذکر:

فرمان الہی ہے: ”جو (عمل) تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو“۔ (سورۃ الخاقحہ: 24)

فرمان الہی ہے: ”وہاں نہ بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ۔ ہاں ان کا سلام سلام ہوگا“۔ (سورۃ الواقحہ: 25، 26)

فرمان الہی ہے: ”اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا“۔ (سورۃ مریم: آیت: 62)

① المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۳۳۹/۲ - کنز العمال: ۶۳۴۳ - ۳۵۳۲۳ - تذکرۃ الموضوعات للفتنی: ۱۶۱۔

③ مجمع الزوائد: ۱۰/۳۱۲ - الدر المنثور: ۶/۱۵۵ - تحف السادۃ: ۱۰/۵۴۱ - ④ الترمذی: ۲۵۴۲۔

فرمان الہی ہے: ”اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے۔“

(سورۃ النواقع آیت: 20، 21)

فرمان الہی ہے: ”ان پر سونے کی پرچوں اور پیالیوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے (موجود

ہوگا) اور (اے اہل جنت) تم اس میں بیٹھ رہو گے۔“ (سورۃ الزخرف آیت: 71)

فرمان الہی ہے: ”جو نیلوی کار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کانور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس

میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے (چھوٹی چھوٹی) نہیں نکال لیں گے۔“ (سورۃ الدھر: 6، 5)

فرمان الہی ہے: ”(خدام) چاندی کے برتن لئے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے (نہایت شفاف) گلاس اور

شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔“ (سورۃ الدھر آیتان: 15، 16)

یعنی وہ گلاس ہوں گے چاندی کے لیکن شیشے سے زیادہ صاف و شفاف ہوں گے۔ دنیا میں اس کی کوئی نظر نہیں ہے اور یہ شفافیت

اور چمک ایسی نہ ہوگی جو اللہ کے ولی کی آنکھوں کو خیرہ کرے بلکہ ایک ٹھیک اندازے کے مطابق ہوگی کم نہ زیادہ۔ یہ جنتی کے اکرام

و اعزاز کی دلیل ہے۔ نیز فرمان الہی ہے:

”اور وہاں ان کو ایسی شراب (بھی) پلائی جائے گی جس میں سوٹھ کی آمیزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام

سلسبیل ہے۔“ (سورۃ الدھر آیتان: 17، 18)

فرمان الہی ہے: ”جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا

اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیئے جائیں گے۔“ (سورۃ البقرہ آیت: 25)

یعنی حشم و خدم جب ان کے پاس کوئی پھل وغیرہ لے کر حاضر ہوں گے تو پھلوں کی ظاہری شکل یکساں ہونے کی بناء پر جنتیوں کو

خیال گزرے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی کیونکہ ہر پھل بلکہ ہر لقمہ کا بھی

الگ ذائقہ ہوگا جو کھانے کے بعد معلوم ہوگا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں

سب سے کم مرتبہ والے جنتی کو سات منزلیں، تین سو خادم ملیں گے جو صبح و شام اس کی خدمت میں تین سو سونے کی پلیٹوں میں کھانا لائیں

گے۔ (ہر ایک کھانا تو الگ ہوگا ہی بلکہ) ہر سونے کی پلیٹ کا رنگ بھی دوسری پلیٹوں سے جدا ہوگا اور وہ جس قدر ذائقہ کو پہلی طشتی میں

محسوس کرے گا اسی طرح آخری میں بھی محسوس کرے گا (یعنی دنیا کی طرح اس کا جی نہ بھر جائے گا) اسی طرح مشروبات کے بھی تین سو

برتن اس پر پیش کئے جائیں گے۔

ہر برتن میں ایسا رنگ اور مزہ ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا اور جس طرح پہلے برتن میں بہت لذت پائے گا اسی طرح

آخری برتن میں بھی بہت زیادہ لذت محسوس کرے گا۔ وہ (سب سے کم مرتبہ والا جنتی بارگاہ خداوندی میں) عرض کرے

گا: یارب! اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اہل جنت کو کھلاؤں اور پلاؤں۔ اس سے میری نعمتوں میں کچھ کمی نہ

ہوگی۔ نیز اس کے لیے بہتر جنتی حور عین ہوں گی اور دنیاوی بیویاں الگ ہوں گی۔ ان میں ہر ایک کے لیے بیٹھنے کی جگہ (شان

و شوکت کی وجہ سے) ایک میل تک ہوگی۔^①

اس واقعہ میں اس واقعہ میں منظر، چین اور اس میں نقطہ نظر کا جو حصہ یہ غائب ہے۔ مسند احمد میں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک یہودی شخص کو پیش کیا گیا۔ اس نے آپ ﷺ سے سوال کیا۔ ابوالقاسم! کیا آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ اہل جنت جنت میں ہائیں کے اور نہیں کے؟ راوی لہتے لہتے ہیں اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ اگر آپ (ﷺ) اس کا اقرار کریں گے تو میں آپ کو پھنسا لوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں اقسمت اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی کو کھانے پینے شہوت اور اجماع کرنے میں سو آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ یہودی نے سوال کیا: جو کھاتا اور پیتا اس کو قضائے حاجت بھی پیش آتی ہے؟ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنتیوں کی قضائے حاجت یہ ہوگی کہ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو لائے ہوئے پسینہ پھولے گا اسی سے ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔^②

مذکورہ حدیث کی مؤید ایک دوسری روایت:

مسند احمد میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن وہ پاخانہ کریں گے اور نہ پیشاب۔ نذناک کریں گے اور نہ تھوک ان کے کھانے کا ہضم ڈکار اور مشک کی خوشبو کا پسینہ ہوگا۔^③ امام مسلم نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے اس میں یہ اضافہ ہے: ان کو تسبیح و تمجید الہام کر دی جائے گی جس طرح وہ سانس لیتے ہیں اس طرح تسبیح و تمجید کریں گے۔^④

بعض جنتیوں کی خواہش کہ وہ کھیتی باڑی کریں، ایک دیہاتی کا واقعہ:

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ حدیث بیان فرما رہے تھے اور ایک دیہاتی بھی حاضر مجلس تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک جنتی پروردگار عزوجل سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا۔ پروردگار فرمائیں گے: کیا تیری ہر چاہت پوری نہیں ہو رہی؟ وہ عرض کرے گا بالکل پروردگار! لیکن دل کر رہا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بس وہ بیج ڈالے گا اور نگاہ اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ دانے اُٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے بلند ہو گئے اور خود بخود کٹ کر ان کے ڈھیر پہاڑوں کی مانند ہو گئے۔ تب پروردگار عزوجل اس سے فرمائیں گے: لے ابن آدم! تیرا بیٹ تو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اعرابی نے کہا: ہمارا خیال ہے کہ شخص قریشی یا انصاری ہوگا کیونکہ یہی لوگ کاشتکار ہیں ہم تو کھیتی باڑی والے نہیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں اس پر آپ ﷺ ہنس دیئے۔^⑤ امام بخاری نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے۔

جنتیوں کے سب سے پہلے کھانے کا ذکر:

مسند احمد میں اسماعیل بن علقمہ عن حمید سے صحیح بخاری میں انس بن عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے مختلف سوالات کئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا: وہ سب سے پہلی شے کیا ہے جو جنتی کھائیں گے؟

① مسند احمد: ۲/۲۵۵۰، ۵۳۷/۲۔ ② مسند احمد: ۳/۳۶۷۔ ③ مسند احمد: ۳/۲۶۲۔ ④ المسلم: ۷۰۸۱۔ ⑤ بخاری: ۵۱۹۔ مسند احمد: ۲/۲۴۲۔ ۵۱۱۔

آپ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا: جھلی کے بگڑ کا رائد۔

ایک یہودی کا آپ ﷺ سے مکالمہ

سچا نام میں حضرت نوبان سے حضرت اسماء کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے آپ ﷺ سے کہا: کیا جنتی جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کو کھڑے میں کیا پیش کیا جائے گا؟ فرمایا: جھلی کے بگڑ کا رائد۔ یہودی نے پھر سوال کیا: اس کے بعد جنتیوں کی کیا نوازی ہوگی؟ فرمایا: جنت کا بیل ان کے لیے ذبح کیا جائے گا جو اطراف جنت میں چرتا پھرتا ہے۔ یہودی نے پھر سوال کیا: اس کے اوپر جنتیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ فرمایا: اس چشمہ سے جس کو سلیمان کہا جاتا ہے۔ تب یہودی نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔^① صحیحین میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے عطاء بن یسار کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے روز ساری زمین ایک روٹی ہو جائے گی جس کو جبار اپنے ہاتھ میں لئے ہوں گے۔ جیسے تم میں سے کوئی سفر میں روٹی اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ یہی روٹی اہل جنت کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ (اتنے میں) یہود کا ایک آدمی پیش کیا گیا۔ اس نے عرض کیا: یا ابا القاسم! اللہ آپ کو برکت دے، کیا قیامت کے دن اہل جنت کے لیے کوئی مہمان نوازی ہوگی؟ فرمایا: کیوں نہیں! بتاؤں! قیامت کے دن اہل جنت کے لیے کیا مہمان نوازی ہوگی؟ عرض کیا: ضرور بتائیے! فرمایا: قیامت کے روز ساری زمین ایک روٹی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا: اور کیا تم کو اس کا سالن نہ بتاؤں؟ عرض کیا: ضرور! فرمایا: ”سلام و نون“ عرض کیا: یہ کیا شے ہیں؟ فرمایا: بیل اور جھلی۔ ان میں ایک (یعنی جھلی) کے جگر کے زائد حصہ سے ستر ہزار آدمی کھانا کھائیں گے۔^② امام اعمشؒ، عبداللہ بن مرہ عن مسروق کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ فرمان الہی:

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مُمْتَوِّمٍ حَتَّامُهُ مَسْكٌ﴾

”ان کو شرابِ خالص سربمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔“ (سورۃ المطففین آیتان: 25، 26)

کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ ریحق سے مراد شراب اور ممتوم سے مراد شراب کے آخر میں مشک کی خوشبو پانا۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ فرمان الہی:

﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾

”اور اس میں تسنیم (شراب) کی آمیزش ہوگی۔“ (سورۃ المطففین آیت: 27)

تسنیم اہل جنت کی سب سے اعلیٰ درجہ کی شراب ہے جو خاصانِ خدا ہوں گے ان کو یہ شرابِ خالص ملے گی اور ان کے علاوہ جنتیوں کی شراب میں اس کی معمولی مقدار ملا دی جائے گی۔^③ مصنف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کی وہ صفاتِ جمیلہ بیان فرمائی ہیں جو اہل دنیا کی شراب میں ہو ہی نہیں سکتیں۔ مثلاً فرمایا کہ وہ شراب جاری نہر کی صورت میں ہوگی:

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾

”اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔“ (سورۃ الغاشیہ آیت: 12)

① المسلم ۱۳۔ ② البخاری: ۲۵۲۰۔ ③ تفسیر الطبری: ۱۵: ۱۰۹۔

اسی طرح ۱۰۰۰ بری جگہ فرمائیں

”اس کی صفعت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جو پونٹیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہے اور شہد مسفا کی نہریں ہیں (جس میں حلاوت ہی حلاوت ہے)۔“ (سورہ مدآیت: 15)

اسی طرح یہ شراب جاری نہروں کی صورت میں بے بہا ہوگی۔ بڑے سمندر اور بڑے چشموں سے یہ نہریں نکلیں گی اور وہ جیسے اور سمندر مشک کے پہاڑوں اور ٹیلوں کے نیچے سے نکلیں گے۔ دنیا کی شراب کی طرح بری بری جگہوں میں نہیں بنائی جائے گی۔ نیز جنت کی شراب پینے والوں کے لیے بے انتہا سرور بخش اور لذت افزا ہوگی جس سے سر درد ہوگا اور نہ مدہوشی پیدا ہوگی جب کہ دنیا کی شراب کا ذائقہ کریبہ، عقل میں فتور پیدا کرنے والی، پیٹ کو خراب کرنے والی اور سر کے لیے باعث درد ہوتی ہے اور جنت کی شراب ان سب برائیوں سے پاک صاف ہوگی جیسے فرمان الہی ہے:

”شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا وہ جام رنگ کا سفید ہوگا“۔ (سورۃ الصافات آیت: 45، 46)

”پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہوگی نہ اس میں درد سر ہو اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں“۔

(سورۃ الصفت آیت 26، 27)

شراب سے مقصود سرشاری کی وہ کیفیت ہے جس سے انتہائی سرور اور لذت حاصل ہو۔ یہ کیفیت جنت کی شراب میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے جب کہ شراب سے عقل کا زائل ہونا اس طرح کہ شراب پینے والا حیوان یا پتھر کی طرح بے حس ہو جائے یہ خوبی نہیں بلکہ نقص اور عیب ہے جو کہ دنیا کی شراب سے پیدا ہوتی ہے۔ (جس کی وجہ سے شراب حرام قرار دی گئی ہے) جب کہ جنت کی شراب یہ چیز قطعاً پیدا نہیں کرتی بلکہ اس سے اصل شیء سرور و انبساط اور سرشاری ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہوگی نہ اس میں درد سر ہو اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں“۔ (سورۃ الصافات آیت: 26، 27)

یعنی اس کے پینے کے سبب ان کی عقلیں زائل نہ ہوں گی۔ سورۃ الواقعة میں اس کے متعلق فرمایا:

”نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ (ایک ہی حالت میں) رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے (یعنی) آبخورے اور

آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی“۔

(سورۃ الواقعة آیات: 17، 19)

یعنی اس سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی۔ دوسری جگہ فرمایا:

”اور اس میں تسنیم (کے پانی) کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے (خدا کے) مقرب پئیں گے“۔

(سورۃ التطفیف آیتان: 27، 28)

عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں: اہل جنت کی ایک جماعت شراب کی محفل پر جمع ہوگی جیسے اہل دنیا محفلیں جماتے ہیں۔ ان پر ایک بادل گزرے گا۔ وہ کسی بھی شیء کا سوال کریں گے تو وہ بادل سے ان پر برسے گی۔ حتیٰ کہ ان سے کوئی کہے گا: ہم

یہ ہماری ہم عمر انجبر سے سینوں والی لڑکیاں ہر سب تو وہ بھی ان پر برہمن گی۔^۱ میلے نرہیکا سے کہ جنتی شجر طہ لئی کے پاس جمع ہوں گے اور دنیا کے کھیل اور لہو واجب کو یاد کر کے ان کا ذکر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی ہوا بھیجیں گے جو شجر طہ لئی کو بلا دے گی جس سے ان کی دنیا کی ہر ہونو و عیب کی پیزیں گریں گے جن سے وہ دنیا میں کیستے تھے۔ انہیں آتاریں ہے کہ اہل جنت کی جماعت جنت کی عمدہ سوار یوں پر ہو کر غول کی صورت میں کسی جانب نرہ سے گی تو راستہ کے درخت انہیں بائیں سمت جائیں گے تاکہ جنتیوں کے درمیان عارضی جدائی بھی نہ لائیں۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ اکرام و انعام سب اللہ کے فضل سے ہوگا پس اسی کے لیے تمام تعریفیں اور منتیں ہیں۔

فرمان الہی ہے: ”اور شراب کے پھلکتے ہوئے جام“۔ (سورۃ النہاء آیت: 34)

فرمان الہی ہے: ”وہاں نہ بے ہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ (اور خرافات) (سورۃ النساء آیت: 35)

فرمان الہی ہے: ”وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بے ہودہ کلام نہ سنیں گے“۔ (سورۃ مریم آیت: 62)

فرمان الہی ہے: ”جس (کے پینے) سے نہ بذیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات“۔ (سورۃ الطور آیت: 23)

فرمان الہی ہے: ”وہاں وہ کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے“۔ (سورۃ الغاشیہ آیت: 11)

فرمان الہی ہے: ”وہاں نہ بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گالی گلوچ۔ ہاں ان کا کلام سلام سلام (ہوگا)“۔ (سورۃ الواعدہ آیت: 25-26)

صحیحین میں حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پو اور نہ ان کی بنی ہوئی پلیٹوں میں کھاؤ کیونکہ یہ دنیا میں ان (کافروں) کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں“^۲

اہل جنت کے لباس، زیورات اور حسن و جمال کا ذکر

فرمان الہی ہے: ”ان (کے بدنوں) پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں

گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا“۔ (سورۃ الدھر آیت: 21)

فرمان الہی ہے: ”(ان لوگوں کے لیے) بہشت جاودانی (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور

موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاکیں ریشمی ہوں گی“۔ (سورۃ فاطر آیت: 33)

فرمان الہی ہے: ”(اور) جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے (مخلوں کے) نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان کو وہاں سونے

کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ ہار یک دیا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے (اور) تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں

گے (کیا) خوب بدلہ اور (کیا خوب) آرام گاہ ہے“۔ (سورۃ الکہف آیتان: 30-31)

صحیحین میں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے فرمایا: مؤمن کا زیور وہاں وہاں تک ہوگا جہاں جہاں اس کے وضوء کا پانی پہنچتا ہے“^۳ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: جنت میں زیور و جوہرات مردوں پر عورتوں سے سجلیں گے۔ ابن وہبؒ فرماتے ہیں رسول اللہ

۱ تفسیر الطبری: ۱۵/۱۰۸-۱۰۹۔ ۲ البخاری: ۵۲۳۲-۵۲۳۳-۵۲۳۴-۵۲۳۵۔ الترمذی: ۱۸۷۸۔ ۳ المسلم: ۵۸۵۔

نرابطہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿مَنْ بَانَ بِمَنْعَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ سَبَّ بَنِي سَعْدٍ بَنِي سَعْدٍ بَنِي سَعْدٍ﴾۔ ان کے سروں پر بادشاہوں کی مثل تاج ہوں گے۔ نوحان (دارحی و غیرہ کے) بانوں سے بے نیاز اور سرستیں آنکھوں والے ہوں گے۔ ابن ابی الدنیا میں حضرت عبد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی جنتی اپنے آپ کو دنیا میں ٹکا ہر کرے۔ تو وہ سورج کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔^۱ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو جنت میں داخل ہو گیا تو تازہ رہے گا کبھی ناتواں نہ ہوگا۔ اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور نہ اس کا شباب زائل ہوگا۔ جنت میں وہ وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔^۲

مسند احمد میں حضرت ابورافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے کپڑوں کے باہر سے نظر آئے گا۔^۳ المعجم الکبیر میں حضرت عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلا وہ گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کی چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے دو حور عین ہوں گی۔ ہر حور پر ستر جوڑے ہوں گے۔ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت اور طولوں کے باہر سے نظر آئے گا؛ جس طرح سرخ شراب سفید شیشے کی بوتل سے باہر نظر آتی ہے۔^۴

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کے مثل سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک اپنا سراپا زمین کی طرف کر دے تو آسمان وزمین کا درمیان خوشبو سے بھر جائے اور پوری فضاء خوشی سے مہک اٹھے۔ جنتی عورت کی اور صحنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔^۵ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنتی آدمی بغیر حرکت کئے ستر سال تک نکلے لگائے استراحت میں رہے گا۔ پھر اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی اور اس کے شانوں پر ہاتھ مارے گی۔ جنتی اس کے آئینہ سے زیادہ صاف و شفاف رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا۔ اس کے جسم پر ایک ادنیٰ ساموتی مشرق و مغرب کے درمیان سارے جہان کو روشن کر دے گا۔ وہ اس کو سلام عرض کرے گی۔ جنتی اس کے سلام کا جواب دے گا اور اس سے سوال کرے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی: 'اننا للمزید'۔ میں مزید ہوں۔ (یعنی اللہ کی طرف سے سے بطور مزید انعام کے تجھے دی گئی ہوں) اس پر شجر طوبی سے بنے ہوئے انتہائی سرخ ستر کپڑے ہوں گے۔ جنتی کی نظر ان سب کے پار سے اس کی پنڈلیوں کا گودا دیکھے گی۔ اس حور مزید پر (بیش بہا) تاج ہوں گے جن کا ادنیٰ ساموتی مشرق و مغرب کے درمیان سارے جہان کو روشن کر دے گا۔^۶

ابن وہب نے اپنی سند کے حضرت ابوسعیدؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آیت تلاوت فرمائی:

''(ان لوگوں کے لیے) بہشت جاودانی (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے

۱ مسند احمد: ۱/۱۶۹/۱-۱۷۱/۱-۲ مسند احمد: ۲/۳۶۹/۲-۳۰۷/۲-۳۱۶/۲-۳۸۵/۲ مسند احمد: ۳/۳۸۵/۲

۲ المعجم الکبیر: ۱۰/۱۰۳۲۱/۱۰-المسلم: ۷۰۷-۷۰۸ مسند احمد: ۲/۳۸۲/۲-۳ مسند احمد: ۳/۷۵-الترمذی: ۲۵۶۲

جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔“ (سورۃ فاطر آیت: 33) پھر فرمایا:

ان جنتیوں سے سرسبز و دلنشین رہا، تاج ہوں سے جن ہانک اونٹنی، ممتقی مشرق و مغرب کے درمیان سارے جہاں و روشن کرے گا۔^① مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یہ رسول اللہ ﷺ کے کپڑے یا پیدائے پائیں کے یا بنے جائیں گے؟ اس سوال پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا تم ایک بے چارے جاہل پر کیا ہنستے ہو جو جاننے والے سے سوال کر رہا ہے! پھر آپ آگے کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: کہاں ہے سائل؟ سائل نے عرض کیا: میں یہاں ہوں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ جنت کے پھلوں سے نکلیں گے۔^② آپ ﷺ نے یہ بات تین بار ارشاد فرمائی۔ اسی کے مثل مسند احمد میں حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! طوبی کیا ہے؟ فرمایا: جنت کا ایک درخت ہے جس کی مسافت سو سال ہے۔ اہل جنت کے کپڑے اسی کے شگوفوں سے نکلتے ہیں۔^③ ابن ابی الدنیا میں حضرت ابوامامہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے ہر ایک جو جنت میں داخل ہوگا اسے طوبی کے پاس لے جایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے طوبی درخت کے شگوفے کھول دیئے جائیں گے۔ وہ جیسا رنگ چاہے اپنے لئے پسند کر لے سفید سرخ زرد اور سیاہ جو بھی چاہے۔ ہر رنگ انتہائی گہرا اور رونق افروز اور خوبصورت ہوگا۔ یہ روایت غریب حسن ہے۔^④

ابن ابی الدنیا میں سماک فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا: اہل جنت کے جوڑے کس چیز کے بنے ہوئے ہوں گے؟ فرمایا: جنت میں ایسے درخت ہیں جن پر انار کی مثل پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ جب اللہ کا ولی کوئی نیا لباس زیب تن کرنا چاہے گا تو شجر طوبی کی ٹہنی اس کے قریب آ کر پھٹے گی اور اس سے ستر جوڑے نکل آئیں گے۔ ہر ایک دوسرے سے جدا رنگ میں ہوگا۔ اس کے بعد درخت پہلی حالت پر آجائے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرمایا: جنت کے درختوں کی شانیں زمرد کی ہوں گی اور آگے ان کی ٹہنیاں سرخ ہونے کی ہوں گی اس سے آگ کے انتہائی نرم پتوں اور باریک ٹہنیوں سے جنتیوں کے لباس بنائے جائیں گے۔ اسی سے ان کے استعمال کے چھوٹے اور جوڑے بنیں گے۔^⑤

اہل جنت کے پچھونوں کا ذکر

فرمان الہی: ”وہ (لوگ) بہشت کے پچھونوں پر جن کے استراطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب (جھک رہے) ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹاؤ گے۔“ (سورۃ الرحمن آیات: 54، 55)

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں: جن پچھونوں کے استراطلس کے ہوں ان کے غلافوں کا کیا حال ہوگا! نیز فرمان الہی ہے:

”اور اونچے اونچے فرشوں میں (ہوں گے)۔“ (سورۃ الواقعة آیت: 34)

① مسند احمد: ۳/۵۵۔ الترمذی: ۲۵۶۲۔ مسند احمد: ۱/۴۲۱۔ مسند احمد: ۳/۷۱۔ مصنف نے اس کو اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر فرمایا ہے: ۳/۳۷۸۔

الدر المنثور: ۳/۵۹۔ کنز العمال: ۳۹۲۲۲ تفسیر الطبری: البقرة: الآیۃ: ۶۸۔ الحدیث: ۱۳/۱۵۵۔

مسند احمد اور سنن ترمذی میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَفُورٌ مِّنْ مَّرْفُوعَةٍ﴾

”اور اونچے اونچے فرشوں میں (ہوں گے)۔“ (سورۃ الواقعة آیت: 34)

پھر فرمایا، جس سے اس ذات نبی جس کے ماتھ میں میری جان ہے! ان فرشتوں کی اونچائی آسمان وزمین کے درمیان جتنی ہوگی اور آسمان وزمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔^① امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت غریب ہے کیونکہ ہم اس کو صرف مروی ابن الحارث عن دراج کے طریق ہی سے جانتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں لیکن حرملہ عن ابن وہب سے بھی یہ منقول ہے۔ امام ترمذی مذکورہ روایت کو نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں بعض اہل علم نے فرمایا: اس کا معنی ہے فرش (یعنی بچھونے) جتنی درجات میں بچھے ہوں گے اور وہ درجات آسمان وزمین جتنی بلندی پر ہوں گے۔^② مصنف فرماتے ہیں اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو حضرت ابوسعید خدریؓ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَفُورٌ مِّنْ مَّرْفُوعَةٍ﴾

”اور اونچے اونچے فرشوں میں (ہوں گے)۔“ (سورۃ الواقعة آیت: 34)

اس کے بعد فرمایا: دو بستروں کے درمیان زمین و آسمان جیسا فاصلہ ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں یہ زیادہ محفوظ روایت ہے۔ کعب احبارؓ سے مذکورہ فرمان الہی کے متعلق مروی ہے کہ اونچے اونچے فرشوں سے مراد چالیس سال کی اونچائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر محل اور ہر آرام کی جگہ میں یہ فرش یعنی بستر موجود ہوں گے کیونکہ جنتی جہاں چاہے آرام کر سکے (اور ہر بستر دوسرے سے چالیس سال کی اونچائی پر ہوگا تاکہ ایک حور دوسری کو نہ دیکھ سکے)۔ فرمان الہی ہے:

”اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔ وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آنخوڑے (قرینے سے) رکھے ہوئے اور

گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی۔“ (سورۃ الغاشیہ آیات: 12-16)

یعنی جگہ جگہ گدے بچھے ہوں گے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا:

”سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔“ (سورۃ الرحمن آیت: 76)

نفیس مسند عبقری کا ترجمہ کیا گیا ہے جو عرب میں سب سے نفیس مسند کہلاتی تھی اس سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ معیار زینت رکھا جائے گا۔

حور عین کی صفات اور بنات آدم کی ان پر فضیلت

فرمان الہی ہے: ”(اہل جنت) ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب (قریب جھک رہے) ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں

① الترمذی: ۲۵۴۰۔ مسند احمد: ۳/۷۵۔ ② الترمذی: ۲۵۴۰۔

ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گویا وہ ماقوت اور مرجان ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ (سورۃ الرحمن آیات 64 تا 61)

فرمان الہی ہے: ان میں نیک سیرت (اور) خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ (وہ) حوریں (ایسی ہیں جو) خیموں میں مستور (ہیں) تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو (اہل جنت سے) پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سبز قابینوں اور نیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ (اے محمد!) تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ (سورۃ الرحمن آیات 70 تا 78)

حوروں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟

فرمان الہی ہے: ”وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی“۔ (سورۃ البقرہ آیت: 25)

یعنی حیض، نفاس، بول و برا ز اور ریخت اور تھوک سے بالکل پاک صاف ہوں گی اور وہ حوریں خیموں میں مستور ہیں۔ اس فرمان الہی کے متعلق ابوالاحوص فرماتے ہیں: ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے سے بادل برسے تھے یہ حوریں اس بارش کے قطروں سے پیدا ہوئی تھیں۔ پھر نہر کے کنارے پر ہر ایک پر خیمہ تان کر اسے مستور کر دیا گیا۔ ہر ایک خیمہ کی وسعت اور گنجائش چالیس میل ہے اور کسی خیمہ کا دروازہ نہیں ہے حتیٰ کہ جب جنتی اس خیمہ میں اترے گا تبھی اس میں دروازہ پیدا ہوگا تاکہ اللہ کے دوست کو اطمینان قلب نصیب ہو کہ مخلوق خواہ ملائکہ اور حشم و خدم کیوں نہ ہوں کسی کی نظر اس کے حرم تک نہیں پہنچی۔ پس یہ مطلب ہے مستور ہونے کا۔^۱ فرمان الہی ہے:

”اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے (حفاظت کے ساتھ) تمہارے ہوئے (آب دار) موتی“۔ (سورۃ الواقد)

دوسری جگہ فرمایا: ”گویا وہ محفوظ انڈے ہیں“۔ (سورۃ الصافات آیت: 49)

ایک قول ہے کہ یہاں شتر مرغ کیے ریت میں چھپے ہوئے انڈوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان کو سفیدی عرب کے نزدیک سفید اشیاء میں سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ (آب دار) موتی سے تشبیہ مراد ہے جو ابھی صدف سے نہ نکلے ہوں۔ فرمان الہی ہے:

”ہم نے ان (حوروں) کو پیدا کیا تو ان کو کوناریاں بنایا۔ (اور شوہروں کی) بیاریاں اور ہم عمر (بنایا یعنی) داسنے ہاتھ والوں کے لیے“۔ (سورۃ الواقد آیات: 35 تا 38)

یعنی دنیا میں بڑھاپے، ضعف اور کمزوری کے بعد ہم ان کو جنت میں نوعمر نوجوان لڑکیاں بنادیں گے جو جنتیوں کے بالکل ہم عمر اور محبوب ہوں گی۔

جنتی عورتوں کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوالات اور آنحضرت ﷺ کے جوابات:

ابوہریرہؓ الکبیر اللطیف انی میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں میں نے آنحضرتؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے

۱ تفسیر القرطبی۔ سورۃ الرحمن الآیہ: ۷۰ الحدیث: ۱۸۲/۱۔

فرمان الہی: اور خورعین ہوں گی کے متعلق کچھ بیان فرمائیے تو:

آپ نے فرمایا: ”... جو عورتیں عریضہ اور کھنڈی بنگن، الما مشا، رخصت ہونے پر، الما حور، گنگا، امسلی، عورت کے جسم میں ہیں، میں نے کہا: مجھے اللہ کے فرمان ”نسیحہ“ (حفاظت سے) کہے ہوئے (آب و آہ) موتی کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا: یعنی صفائی میں ایسی صاف ستھری عورتیں جیسے وہ موتی جو اسی صدف سے نہ نکلا، ہوا اور ہاتھوں نے اسے چھوا نہ ہو۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ”ان میں نیک سیرت (اور) خوب صورت میں عورتیں ہیں“ کے متعلق بتائیے؟ آپ نے فرمایا: وہ اخلاق میں اعلیٰ ترین اور انتہائی خوبصورت چہروں والی ہوں گی۔

میں نے عرض کیا: ”وہ گویا محفوظ اندھے ہیں“ کے متعلق فرمائیے۔

آپ نے فرمایا: ان کی جلد کی نرمی و ملائمت اندھے کے اندر کی سفیدی کے ساتھ ملی ہوئی آخری جھلی کی مانند ہوگی۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے ”عربا ترابا“ یعنی پیاریاں اور عمر بنایا کے متعلق بتائیے۔

آپ نے فرمایا: اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیاوی زندگی میں بوڑھی، بہتی آنکھوں والی اور سفید بالوں والی ہونگی تھیں۔ وہ جنت میں فریفتہ کن، محبوبہ اور ہم عمر ہو جائیں گی۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین؟

آپ نے فرمایا: دنیا کی عورتوں کو خضتی حوروں پر وہ فضیلت حاصل ہوگی جو غلاف کو استر پر ہوتی ہے۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟

آپ نے فرمایا: ان کی نماز، روزوں اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر خاص نور طاری فرمادیں گے۔ ان کے جسموں پر ریشم پہنا دیں گے۔ ان کی جلدیں سفید رنگت والی ہوں گی۔ ان کے کپڑے سبز رنگ ہوں گے۔ ان کے زیور زرد ہوں گے۔ ان کی انگلیٹھیاں موتیوں کی ہوں گی۔ ان کی کنگھیاں ونے کی ہوں گی۔ وہ کہیں گی: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہ مریں گی۔ ہمیشہ تروتازہ رہنے والی ہیں، کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ ہمیشہ یہاں رہنے والی ہیں، یہاں سے کبھی کوچ نہ کریں گی۔ آگاہ رہو! ہم ہمیشہ راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوشخبری ہو اس کو جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے بعض عورتیں (یکے بعد دیگرے) دو تین اور چار شادیاں کر لیتی ہیں پھر وہ مرجاتی ہیں اور جنت

میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ سب شوہر بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کس شوہر کے ساتھ رہیں گی؟

آپ نے فرمایا: ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا لہذا وہ اخلاق میں سب سے اچھے کو پسند کر لے گی وہ عرض کرے گی: یا رب! یہ شوہر دنیا

میں میرے ساتھ ان سب شوہروں سے زیادہ اچھا سلوک کرتا تھا لہذا اسی کے ساتھ میری شادی فرمادیجیے۔ اسے ام سلمہ!

حسن اخلاق دنیا و آخرت کی بھلائی کو لے اڑے۔ (المجم الکبیر للطبرانی ۸۷۰/۲۳)

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس انصار کی ایک بڑھیا آئی۔ آ کر عرض کیا:

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

یا رسول اللہ! دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ پھر آپ ﷺ تو مبارک سانسے کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر حضرت عائشہ کے پاس واپس آئے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا میں نے آپ سے آج ہی یہ شدت اور ختی کی بات سنی ہے! آپ نے فرمایا: بات اس طرح درست ہے اللہ تعالیٰ ان (بڑھیوں) کو جنت میں داخل فرمائے سے پہلے ان کو کواہن نو عمر بنادیں گے۔^①

مؤمنین کے جنت میں داخل ہونے سے متعلق روایت میں آیت کہ: ایک جنتی اللہ کی بی بیوں ہوتی بہتر عورتوں اور بیوی عورتوں کے پاس داخل ہوگا۔ اللہ کے فضل سے یہ عورتیں ان بہتر پر فضیلت و برتری رکھیں گی کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی شخص دنیاوی پہلی عورت کے پاس یا قوت کے بالا خانے میں داخل ہوگا۔ سونے کی چارپائی جو موتیوں سے جڑاؤ ہوگی اس پر جلوہ آرا ہوگا۔ سندس اور استبرق (خالص ریشمی کپڑوں کی اقسام) کے ستر صندوق ہوں گے۔ جنتی اپنی اس بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا۔ پھر سامنے کی طرف سے اس کے سینے، کپڑوں، گوشت اور جلد کے پار سے اپنے ہاتھ کو بخوبی دیکھے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کا گودا یوں صاف دیکھے گا جیسے کوئی چاندی کی لڑی کو یا قوت میں سے صاف دیکھ لیتا ہے۔ ابھی وہ اسی منظر میں ہوگا کہ ندائے آئے گی ہم نے جان لیا کہ تو نہ (اس سے) اکتائے گا اور نہ اس کو اکتاہٹ میں ڈالے گا۔ لے مزید سن تیری اس کے علاوہ بھی بیویاں ہیں۔ پس وہ ان کی طرف نکلے گا اور وہ ایک ایک کر کے اس کے پاس حاضر ہوں گی۔ ہر ایک جب آئے گی تو عرض کرے گی: اللہ کی قسم! جنت میں تجھ سے زیادہ کوئی شے حسین نہیں ہے اور میرے نزدیک جنت کی کوئی شے تجھ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔^②

ترمذی میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے کم مرتبہ والے جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ملیں گی۔ نیز اس کے لیے موتیوں، زبرجد اور یا قوت سے ایک قبہ بنایا جائے گا جو جابہ سے صنعا تک وسیع ہوگا۔^③ مسند احمد ابن ماجہ اور ترمذی نے مقدم بن معدی کرب سے روایت کی ہے جس کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ہاں شہید کے تین اعزاز ہوں گے۔ اول یہ کہ اس کے خون کے پہلے قطرہ کے زمین پر گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا۔ خلعت ایمان اس کو پہنائی جائے گی۔ عذاب قبر سے اس کو امن دے دیا جائے گا۔ فزع اکبر (صور پھونکنے جانے کے دن کی گھبراہٹ اور پریشانی) سے مامون ہو جائے گا۔ اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اس تاج کا ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ بہتر عورتوں سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور اس کے اعزاء و اقارب میں سے ستر آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔^④

امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے: ایوب بن محمد نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ فرمایا: کیا ابو القاسم ﷺ نے نہیں فرمایا: بے شک پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چہروں والی ہوگی۔ اس کے بعد داخل ہونے والی جماعت کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان

① ابن ابی شیبہ: ۲/۳۷۵۔ ② البعث والنشور للبیہقی: ۶۶۹۔ ③ الترمذی: ۲۵۶۲۔ ④ الترمذی: ۱۶۶۳۔ ابن ماجہ: ۲۷۹۹۔ مسند احمد: ۳/۱۳۱۔

میں سے ہر ایک کے لیے (دنیا کی) دو عورتیں ہوں گی (حسن کی وجہ سے) جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت پوست سے باہر نظر آئے گا اور جنت میں کوئی بغیر شدائی کے نہیں ہوگا۔^①

یعنی جب دنیا کی دو عورتیں ہوں گی اور جنتی ست عورتیں ہوں گی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں اس صنف کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن یہ روایت صحیحین کی اس روایت کے معارض و مخالف نہیں ہے جس میں آیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا تو وہاں زیادہ تعداد عورتوں کی پائی کیونکہ جنت اور جہنم دونوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوئی منہم ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو۔ پھر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے جنت میں آجائیں تو وہاں بھی ان کی تعداد بڑھ جائے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنتی آدمی بغیر حرکت کے ستر سال تک تکیہ لگائے استراحت میں رہے گا پھر اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی اور اس کے شانوں پر ہاتھ مارے گی۔ جنتی اس کے آئینہ سے زیادہ شفاف رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا۔ اس کے جسم پر ایک ادنیٰ ساموتی مشرق و مغرب کے درمیان سارے جہان کو روشن کر دے گا۔ وہ اس کو سلام عرض کرے گی۔ جنتی اس کے سلام کا جواب دے گا اور اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی: ”انا المزید“ میں مزید ہوں۔ (یعنی اللہ کی طرف سے سے بطور مزید انعام کے تجھے دی گئی ہوں) اس پر شجر طوبی سے بنے ہوئے انتہائی سرخ ستر پکڑے ہوں گے۔ جنتی کی نظر ان سب کے پار سے اس کی پنڈلیوں کا گودا دیکھے گی۔ اس حور مزید پر (بیش بہا) تاج ہوں گے جن کا ادنیٰ ساموتی مشرق و مغرب کے درمیان سارے جہان کو روشن کر دے گا۔^②

امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ مسند احمد ہی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں تم میں سے کسی کے کوزے کی جگہ دنیا اور اس کے مثل سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک اپنا سراپا زمین کی طرف دکھا دے تو آسمان وزمین کا درمیان خوشبو سے بھر جائے اور پوری فضاء خوشی سے گنگنا اٹھے۔ جنتی عورت کی اوڑھنی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔^③

ابن ابی الدنیا میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی جنتی حور آسمان وزمین کے درمیان صرف اپنی ہتھیلی کا حصہ ظاہر کر دے تو ساری مخلوق اس کے حسن کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائے اور اگر وہ حور اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی یوں ماند ہو جائے جیسے چراغ سورج کے سامنے اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے اور اگر وہ حور عین اپنا چہرہ دنیا میں ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کا درمیان روشن ہو جائے۔ ابن وہب محمد بن کعب القرظی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! جس کو سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر ایک حور عین اپنا لنگن عرش کے نیچے سے ظاہر کر دے تو اس کی روشنی آفتاب و ماہتاب کی روشنی کو بھجا دے تو خود اس حور کی صورت کیسی ہوگی؟ اور اللہ نے پہننے والوں کے لیے جو بھی لباس اور زیورات پیدا کئے ہیں ان سب میں سب سے اچھے اس کے جسم پر ہوں گے۔^④

① البخاری: ۳۳۴۲۔ المسلم: ۷۰۷۲۔ ② مسند احمد: ۳/۷۵۔ ③ البخاری کتاب الرقاق: ۱۱/۲۴۲۔ مسند احمد: ۲/۳۸۳۔

④ تفسیر القرظی: ۱۸/۳۶۸۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کو "العینا" کہا جاتا ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو اس کے ارد گرد ستر خزانہ دم سناٹھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے: کہاں ہیں نیکی کا حکم کرنے والے؟ (تفسیر القرطبی) امام قرطبی نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد بن ابی امامہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حور میں زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔^① یہ حدیث قریب ہے۔ حضرت طرمدی نے مراسیل میں ہے کہ حور عین دنیا میں اپنے زندہ شوہروں کے لیے کہتی ہیں: اے اللہ اس کی اپنے عین دنیا میں پیدا فرما۔ اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے اور اے ارحم الراحمین اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا دے۔ مسند امام میں شیخ بن مرہ کی حضرت معاذ سے مرفوعاً حدیث مروی ہے فرمایا: کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو ایذا نہیں پہنچاتی مگر اس کی جنتی بیوی حور میں کہتی ہے: تجھ پر اللہ کی پھونکار ہو اب یہ تیرے پاس کچھ عرصہ کے لیے ہے قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔^②

جنت میں حوروں کے گانے کا بیان

امام ترمذی وغیرہ نے عبدالرحمن بن اسحاق عن نعمان بن سعد کی سند کے ساتھ حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں حور عین کے لیے ایک محفل گاہ ہے۔ وہ وہاں جمع ہو کر ایسی سریلی آواز سے گاتی ہیں جو کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ ہم ہمیشہ تروتازہ رہنے والی ہیں کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ ہم خوش رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کی ہیں۔^③ ابن ذویب نے مسنداً حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت کی بیویاں اپنے شوہروں کو ایسی حسین سریلی آواز سے گاکر سنائیں گی جو کبھی کسی نے نہ سنی ہو۔ ان کے طریقہ گیتوں کے چند الفاظ یہ ہیں: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے گی۔ ہم امن میں ہیں کسی کا خوف نہیں۔ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گی یہاں سے کبھی نہ جائیں گی۔^④

لیث بن سعد یزید بن ابی حبیب عن ولید بن عبدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل رضی اللہ عنہ کو فرمایا: مجھے حور عین کے پاس لے چلو۔ حضرت جبریل رضی اللہ عنہ آپ کو حوروں کے پاس لے گئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا: تم کون ہو؟ وہ بولیں: ہم ایسے لوگوں کی باندیاں ہیں جو آ کر کبھی واپس نہ جائیں گے۔ جوانی کے بعد ان پر کبھی بڑھاپا نہ آئے گا۔ خدا کی پرہیزگاری کے بعد کبھی ان سے گناہ سرزد نہ ہوگا۔ امام قرطبی نے حور عین کے گانے کے بعد دنیا کی جنتی عورتوں کے گیت بھی نقل فرمائے ہیں۔ وہ حوروں کے جواب میں کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والی ہیں اور تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہم روزے رکھنے والی ہیں اور تم نے کبھی روزے نہیں رکھے۔ ہم وضوء کرنے والی ہیں اور تم نے کبھی وضوء نہیں کیا۔ ہم صدقہ خیرات کرنے والی ہیں اور تم نے کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس طرح وہ جنتی حوروں پر غالب آ جائیں گی۔^⑤ واللہ اعلم۔ امام قرطبی نے اسی طرح التذکرہ میں ذکر کیا ہے لیکن اس کو کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کیا۔ واللہ اعلم۔

① مجمع الزوائد: ۱۰/۱۰۱۹۔ المعجم الکبیر للطبرانی: ۸۱۳۔ ۷۔ مسند احمد: ۵/۳۰۶۔ ② الترمذی: ۲۵۶۳۔

③ مجمع الزوائد: ۱۰/۱۰۱۹۔ کنز العمال: ۳۹۳۹۲۔ ④ تفسیر القرطبی: سورة الرحمن الآية: ۷۰۔ الحدیث: ۱۸۱/۱۷۔

اہل جنت کے اپنی عورتوں سے ہم بستری ہونے کا بیان:

فرمان الہی ہے: اہل جنت اس روز تیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ وہ انہی انہی بیویوں کی بیویوں میں آئیں گے جو انہی پر لگائے گئے تھے۔ وہاں ان کے لیے میوے اور خورد و خوراک اور جو وہ چاہیں گے (موجود ہوگا) پروردگار مردمان کی طرف سے ملامت (کنا جائے گا)۔ (سورۃ النہج آیات: 55-58)

فرمان الہی ہے: اہل جنت اس روز تیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ ان کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود ابن عباس اور کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ تیش و نشاط کے مشغلے سے مراد کنواریوں کا پردہ بکارت زائل کرنا ہے۔ نیز فرمان الہی ہے:

”بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے۔ (یعنی) بانگوں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ (وہاں) اس طرح (کا حال ہوگا) اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے (اور کھائیں گے) (اور) پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا (کہ مر چکے تھے) دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔“ (سورۃ الدخان آیات: 51-57)

حضرت ابو داؤد الطیالسیؒ سنداً حضرت انسؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں مؤمن کو اتنے اتنے مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کتنے مردوں کی طاقت دی جائے گی؟ فرمایا: سو آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔^① امام ترمذیؒ نے ابو داؤد کی حدیث سے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح غریب کا حکم لگایا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں سنداً حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ کسی نے سوال کیا: یا رسول اللہ! کیا آدمی جنت میں جماع کرے گا؟ یا یہ سوال کیا: کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں سے صحبت کریں گے؟ آپؐ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جنتی ایک دن میں سو کنواریوں سے جماع کر لے گا۔^② حافظ ضیاء فرماتے ہیں یہ روایت میرے نزدیک صحیح کی شرط پر ہے۔ مسند الہزار میں حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے سوال کیا گیا کہ آدمی جنت میں عورتوں کو چھوئے گا؟ فرمایا: ہاں ایسے عضو کے ساتھ جو تھکے نہیں اور ایسی شہوت کے ساتھ جو ختم نہ ہو۔^③

امام بزار فرماتے ہیں اس روایت کا ایک راوی عبدالرحمن بن زیاد ہے۔ جو تھا تو حسن العقل لیکن شیوخ مجاہیل سیر روایت کرتا ہے جس کی بناء پر اس سے من گھڑت روایات مروی ہیں۔ یہ حدیث بھی اس کی ضعیف احادیث میں شامل ہے۔ حرملہؒ اپنی ابن وہب والی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: کیا ہم جنت میں وطی کریں گے؟ فرمایا: ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زور زور کے ساتھ اور جب آدمی عورت کے پاس سے کھڑا ہوگا تو وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔^④ امام طبرانی نے سنداً حضرت ابو امامہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کیا جنتی لوگ جماع کریں گے؟ فرمایا:

① الترمذی: ۲۵۳۶۔ ② مسند ابی داؤد: ۲۰۱۲۔ الطبرانی فی المعجم الکبیر: ۵/۵۰۰۶۔ ③ مجمع الزوائد: ۱۰/۳۱۷۔ مسند الہزار: ۳۵۳۔ مسند الہزار: ۳۵۲۔

زور زور سے لیکر اس جہان سے مٹی خارج ہوگی اور ان (اس کے) بے آبی، کمیشن کن، انہ انش ہوگی۔^① کیونکہ مٹی کے خروج سے جماع کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور مٹی یعنی شدید خواہش سے زندگی کی لذت بے کیف ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوامرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کیا جنتی لوگ جماع کریں گے؟ فرمایا ہاں ایسے لعلو کے ساتھ ہونگے جنہیں اور ایسی شہوات کے ساتھ جو ختم نہ ہو۔^②

اہل جنت کے لیے بچوں کا ہونا نہ ہونا:

جب کوئی جنتی اولاد کی خواہش کرے گا جیسا کہ دنیا میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے تو آیا اس کو اولاد بھی پیدا ہوگی؟ لہذا مسند احمد میں حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مؤمن بندہ جنت میں بچے کی خواہش کرے گا تو وہ اس بچہ کا حمل اور وضع حمل اسی وقت ہو جائے گا جب وہ خواہش کریگا اور اسی وقت بچہ بڑا بھی ہو جائے گا۔^③ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس کو محمد بن یسار سے روایت کیا ہے۔ نیز امام ترمذی نے اس کو حسن غریب بتایا ہے۔ سفیان ثوریؒ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعیدؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! کیا اہل جنت کو اولاد پیدا ہوگی کیونکہ اولاد کے ساتھ ہی خوشی کامل ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس میں صرف اتنی دیر لگے گی جتنی خواہش کرنے میں اسی وقت حمل ٹھہرے گا اور بچہ پیدا ہوگا اور دودھ کا زمانہ پورا ہو کر غنواں شباب کو پہنچ جائے گا۔ یہ سب آن واحد میں ہو جائے گا۔^④

لیکن یہ روایت امام بخاری اور امام ترمذی کی اس روایت کے مخالف ہے جو انہوں نے حضرت اسحاق بن راہویہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اولاد ہونا نہ ہونا جنتی کی چاہت پر محمول ہوگا۔ اگر جنتی چاہے گا تو اولاد ضرور ہوگی۔ لیکن جنتی چاہے گا ہی نہیں۔ مصنفؒ فرماتے ہیں یہی درست ہے کیونکہ جنت میں دنیا کی طرح جماع سے تو اولاد نہیں ہوگی کیونکہ دنیا تو افزائش نسل کا گھر ہے تاکہ دنیا آباد رہے جب کہ آخرت دارالسلطنت ہے۔ وہاں کسی نے مرنا نہیں ہے جو زندہ ہوں گے انہیں ہی ہمیشہ عیش و عشرت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اہل جنت کے جماع سے مٹی نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی خواہش کرے گا تو اس کو اولاد ضرور پیدا ہوگی کیونکہ فرمان الہی ہے:

”جو چاہیں گے ان کے لیے ان کا پروردگار کے پاس (موجود) ہے نیکو کاروں کا یہی بدلہ ہے“۔ (سورۃ الزمر آیت: 36)

لیکن عام طور سے جنتی اولاد کی خواہش نہیں کرے گا۔ تابعین کی ایک جماعت جن میں امام طاؤسؒ، مجاہد ابراہیم نخعیؒ وغیرہ جیسے حضرات شامل ہیں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی۔^⑤

جنت میں صغریٰ موت آئے گی اور نہ کبریٰ موت:

نیز چھوٹی موت اور عام بڑی موت کہلاتی ہے۔ فرمان الہی ہے:

① الطبرانی فی المعجم الکبیر: ۸/۴۷۹۔ ② الطبرانی فی المعجم الکبیر: ۸/۴۷۹۔ ③ الترمذی: ۲۵۶۳۔ ابن ماجہ: ۲۳۳۸۔ مسند احمد: ۹/۳۱۰۔

④ تقدم تخريجي السابق۔ ⑤ تقدم تخريجي السابق۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

”اور ان میں سے کئی لوگ اپنے آپ کو چمکاتے ہوئے دیکھیں گے اور ان میں سے کئی لوگ اپنے آپ کو مٹی کے ٹکڑے کے طور پر دیکھیں گے۔ (سورۃ النور آیت: ۲۵)“

”جو لوگ ایمان لاتے اور عمل نیک کئے۔ ان کے لیے بہشت کے باغات و مہمانی ہوئی۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلانا نہ چاہیں گے۔ (سورۃ بقرہ آیتان: ۱۰۷-۱۰۸)“

یعنی وہی ایسی عمدہ ترین رہائش ہوگی کہ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ وہ اس میں کبھی تھکیں گے اور نہ اس سے اکتائیں گے جب کہ اہل دنیا خواہ اچھی جگہ ہو لیکن بسا اوقات اکتا جائیں گے جیسے کسی فصیح و ادیب شاعر کا شعر ہے:

”میں تو وہاں سے چلا آیا کیونکہ میرا دل سیاہ ہو چکا تھا اور نہ میں بغاوت کرنے والا نہیں۔ اور نہ کسی حال سے پلٹنے والا ہوں۔“

اور پہلے موت کو ذبح کئے جانے والی روایت گزری ہے جس میں ہے کہ ایک منادی نداء دے گا: اے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ موت کبھی نہیں آئے گی اور اے اہل جہنم! اب تم کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے موت کبھی نہیں آئے گی جو جہاں ہے وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔^۱ مسند احمد میں یحییٰ بن آدم، حمزہ ابو اسحاق الاغر ابو مسلم کے سلسلہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کے ساتھ نداء دی جائے گی تم پر لازم ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو، کبھی نہ مرو۔ تمہارے لیے صحت و سلامتی رکھ دی گئی ہے اب تم کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ تم ہمیشہ نوجوان رہو گے کبھی بڑھا پناہ آئے گا۔ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے کبھی کوئی سختی نہ آئے گی۔ راوی کہتے ہیں: ان چار چیزوں کے ساتھ اس کو خطاب کیا جائے گا۔^۲

امام احمد فرماتے ہیں ہمیں عبدالرزاق نے فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمیں ابو اسحاق نے الاغر کے حوالہ سے حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا: تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے۔ تمہارے لیے صحت و سلامتی رکھ دی گئی ہے اب تم کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ تم ہمیشہ نوجوان رہو گے کبھی بڑھا پناہ آئے گا۔ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے کبھی کوئی سختی نہ آئے گی۔ راوی کہتے ہیں: ان چار چیزوں کے ساتھ اس کو خطاب کیا جائے گا۔^۳ پھر کہا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

” (اس روز) منادی کر دی جائے گی تم ان اعمال کے صلے میں جو (دنیا میں) کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیئے گئے

ہو۔“ (سورۃ الاعراف آیت: ۴۳)

امام مسلم نے اس کو اسحاق بن راہویہ اور عبد بن حمید سے روایت کیا ہے اور ان دونوں بزرگوں نے عبدالرزاق سے روایت کیا ہے۔

① الترمذی فی کتاب صفة الجنة باب ما جاء فی خلود اهل الجنة و اهل النار الحدیث: ۲۵۵۷۔ ② المسلم فی کتاب الجنة و نعمیہا، باب فی دوام نعم اهل الجنة و قول لولہ تعالیٰ (و تودون ان تلکم الجنة و رثتموها کتم تعملون) الحدیث: ۵۷۸۶۔ مسند احمد: ۹۵/۳۔

③ تقدم تحریجه فی السابق۔

اہل جنت کو کبھی نیند نہ آئے گی

حافظ ابو بکر بن مردویہ فرماتے ہیں ہمیں احمد بن القاسم بن صدقہ اُمسری نے مقدم بن داؤد عبد اللہ بن امیر و اسحاق بن الشوریٰ احمد بن احمد ر کے نوالہ سے فرمایا کہ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نیند موت کی بہن ہے۔ لہذا اہل جنت کو کبھی نیند نہ آئے گی۔^① امام ظہرائی نے اس کو مصعب بن ابراہیم بن عمران بن الربیع اُموی من یحییٰ بن سعید الانصاری من محمد بن احمد بن احمد ر سے یوں روایت کیا ہے کہ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ فرمایا: نیند موت کی بہن ہے لہذا اہل جنت کو کبھی نیند نہ آئے گی۔^② امام بیہقی نے بھی اس کو حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد امام بیہقی نے عبد اللہ بن ابی اوفی سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضورؐ سے (نیند کے متعلق) سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا: موت نیند کی شریک ہے اور جنت میں موت نہیں ہوگی (لہذا نیند بھی نہ ہوگی)۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر جنتیوں کو سکون اور راحت کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا: وہاں تھکاؤ کا نام نہیں۔ وہاں ہر کام میں راحت ہی راحت ہے۔^③ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا:

” (جنتی کہیں گے) یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکاں ہی ہوگی۔“ (سورہ نافرآیت: 35)

یہ روایت ضعیف الاسناد ہے۔

جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضاء نصیب ہونے کا بیان:

فرمان الہی ہے: ”جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بونہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں گے جو پینے والوں کے لیے (سراسر) لذت ہے اور شہد مصفا کی نہریں ہیں (جس میں حلاوت ہی حلاوت ہے) اور (وہاں) ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔“ (سورہ محمد: 15)

فرمان الہی ہے: ”خدا نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت ہائے جاودانی میں نفیس مکانات کا (وعدہ کیا ہے) اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔“ (سورہ توبہ آیت: 72)

زید بن اسلم عطاء بن یسار کے سلسلہ سند کے ساتھ ابوسعیدؓ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے اے اہل جنت وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم کیوں راضی نہ ہوں حالانکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو اپنی مخلوق میں آپ نے کسی اور کو نہیں دیا حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کیا تمہیں

① الطبرانی فی المعجم الاوسط: ۹۴۳۔ مسند ابی ابر: ۳۵۱۷۔ البعث والنشور للبیہقی: ۲۸۹۔ ② الطبرانی فی المعجم الاوسط: ۹۴۳۔ مسند ابی ابر: ۳۵۱۷۔ البعث والنشور

للبیہقی: ۲۸۹۔ ③ البعث والنشور للبیہقی: ۲۸۹۔

اس سے بھی اچھی چیز ملانے کو نہ مانا؟ عرض کریں گے اس سے ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمائیں گے تم پر اپنی رضا اتاروں گا (اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں) اس کے بعد بھی تم تنہا رہا نہیں ہوگا۔^① اسی سند سے مالک کی حدیث کو صحیحین میں بھی ذکر کیا گیا ہے ابو بکر بزار نے بھی فرمایا: حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب جنتی بنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں آپ کو اس سے اچھا ملانے کروں؟ عرض کریں گے اے ہمارے رب اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمائیں گے میری رضا سب سے بڑی ہے۔^② یہ حدیث بخاری کی شرط پر ہے اور اس طریق سے ان کے علاوہ دیگر اصحاب کتب نے بیان نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا اہل جنت کو اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تھکا (ان کی طرف سے) سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔“

(سورۃ الاحزاب: 44)

”پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔“ (سورۃ البین: آیت: 58)

سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اہل جنت نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور ظاہر ہوگا، وہ اوپر کودیکھیں گے تو رب تعالیٰ اپنی مہربانی سے اوپر کی جانب سے ان کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے ”السلام علیکم یا اهل الجنة“ فرمایا: ”اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ”سلام قولاً من رب رحیم“ فرمایا پس اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کسی دوسری جانب التفات نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرواتے رہیں گے پھر حق تعالیٰ جواب فرمائیں لیکن ان کا نور اور برکت ان کے اوپر ان کے گھروں میں باقی رہے گی۔“^③

یہی نے اسی حدیث کو اسی طریق سے طویل بیان کیا ہے فرماتے ہیں: اہل جنت اپنی مجلس میں تشریف رکھتے ہوں گے کہ اچانک جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ وہ سہراٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ حق تعالیٰ شانہ جلوہ فرمائیں گے۔ فرمائیں گے! اے اہل جنت مانگو مجھ سے۔ عرض کریں گے! ہم آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمائیں گے میری رضا کی وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے اور میری رضا نے تمہیں مہمان نوازی تک پہنچایا ہے۔ یہ میری داد و دہش کا وقت ہے لہذا مانگو۔ عرض کریں گے ہم مزید چاہتے ہیں تو ان کے سامنے سرخ یا قوت کے خوبصورت اونٹ لائے جائیں گے جن کے زمام سبز زمر دار و سرخ یا قوت کے ہوں گے۔ پس اہل جنت ان پر سواری کریں گے۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھیں گے جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو حور عین میں سے جوان لڑکیاں یہ کہتے ہوئے آئیں گی: ”ہم نرم و نازک ہیں ہم میں سختی نہیں آئے گی۔ ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے کبھی مرنا نہیں ہم ایسے لوگوں کی بیویاں ہیں جو مسلمان ہیں شریف ہیں۔“

پھر ایک ہوا چلے گی جس کو منشرہ کہتے ہیں وہ ان کو جنت عدن لے جائے گی فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب وہ لوگ آگئے تو

① بخاری ۶۵۳۹، مسلم ۷۰۷۔ ② بخاری ۶۵۳۹، مجمع الزوائد: ۱۰/۴۲۰۔ ③ ابن ماجہ: ۱۸۴۔

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: بچوں کو خوش آمدید ماننے والوں کو خوش آمدید فرمایا: پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا پس وہ حق تعالیٰ شانہ کو دیکھیں گے اور رحمان سے نور کے مزے نہیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل سے فرمائیں گے ان کا تھنسا میت ان کی محلات کی طرف لوٹاؤ پھر وہ اس حال میں لوٹیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: ”سُرَّ لَاسِ عَفْوَ دَرَجِيمٍ“ یعنی بخشے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد تہمتی نے فرمایا: ”اسی کتاب (کتاب الرویہ) میں ایسی روایات گزری ہیں جو اس حدیث میں بیان شدہ مضمون کی تائید کرتی ہیں۔“^①

ابوالمعالی جوینی نے الرد علی السجری میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب پردہ ہٹائیں گے اور اہل جنت کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے تو نہریں چل پڑیں گی اور درختوں کے پتے بجنے لگیں گے اور تخت و محلات چرچرانے لگیں گے اور پھوٹے چشموں سے بہتے پانی کی آواز آئے گی۔ ہوا خوب چلنے لگے گی۔ گھر اور محلات خالص مشک اور کافور سے مہکتے لگیں گے۔ پرندے چہچہانے لگیں گے اور حور عین نظارہ کریں گی۔

اس بات کا بیان کہ اہل جنت جمعہ کے دنوں میں حق تعالیٰ کا دیدار ایسی جگہوں میں کریں گے جو خالص اس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہوں گی :

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“ (سورۃ القیامہ: 22-23)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہرے پر نعمتوں کی تازگی دیکھ لو گے۔“

(سورۃ المطففین: 22-24)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو جنتیں ایسی ہیں کہ اس کا سب کچھ چاندی کا ہے۔ لوگوں اور دیدار رب میں جنت عدن میں کبریائی کی چادر حائل ہے (جس کی وجہ سے وہ دیدار نہیں کر سکتے) ایک اور حدیث میں ابن عمر سے مروی ہے کہ جنتوں میں اونچے درجے کا وہ ہے جو دن میں دو مرتبہ اللہ کا دیدار کرے۔^② صحیحین میں اس مضمون کا شاہد بھی ہے۔ قیامت کے دن مومنین کے دیدار اللہ عزوجل کے بیان میں جریر سے مرفوعاً روایت ہے۔ جیسے وہ سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا: پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا: ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ“ اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور صبح بخاری میں ہے کہ تم اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھو گے۔^③

① تہمتی: ۲۹۳۔ ② بخاری: ۲۰، ۶۵۳۹، مسلم: ۲۲۳۵۔ ③ بخاری: ۴۲۳۵، ۴۲۳۶۔

اس سیاق نے یہ بتا دیا کہ دیدارِ سموات کے اوقات میں ہوگا تو گویا اچھے لوگ صبح و شام رب کا دیدار کرتے ہیں اور یہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ وہ اپنے تنوں اور دونوں پہیوں میں کایا دیدار کرنے میں جیسا کہ ایسی حالت میں چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ عام آدمیوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جیسا جمعہ کے دن کہ اس دن میں اہل جنت ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں جو کہ سفید مشک کی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے گھروں کے حساب سے بیٹھتے ہیں (جیسے گھر ملے ہیں بہت میں اس حساب سے اس وادی میں بھی نہیں لیں گے) بعض نور کے منبروں پر ہوں گے اور بعض سونے کے منبروں پر وغیرہ لک۔ پھر ان کے اوپر العمامت کی بارش ہوگی۔ ان کے سامنے خوان رکھے جائیں گے۔ جن میں مختلف قسم کی اشیاء ہوں گی کھانے اور پینے کے لیے۔ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ پھر اس طرح مختلف قسم کے عطر استعمال کریں گے اور مختلف قسم کا اکرام ہوگا کہ جس کا انہوں نے سوچا تک نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور ان میں سے ایک ایک سے گفتگو فرمائیں گے جیسا کہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ عنقریب ان احادیث کو ذکر کیا جائے گا۔

بعض علماء نے عورتوں کے بارے میں اختلاف نقل کیا ہے۔ کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گی جیسا کہ مرد کریں گے۔ کہا گیا کہ وہ دیدار نہیں کریں گی کیونکہ وہ خیموں میں محصور رہتی ہیں اور کہا گیا وہ دیدار کریں گی کیونکہ خیموں میں دیدار سے کوئی مانع نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”نیک لوگ بہشت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے دیدار کریں گے“۔ اور فرمایا: ”وہ اور ان کی بیویاں سیاہوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے“ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ تم اپنے پروردگار عزوجل کو ایسا دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھتے ہو۔ دیدار میں کچھ شک نہیں کرتے ہو اگر تم سے ہو سکے تو طلوع و غروب سے قبل نماز پر مواخبت کیا کرو۔ اور یہ مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے۔“^① بعض علماء نے تیسری بات بھی فرمائی ہے وہ یہ کہ عورتیں عید کے دنوں میں دیدار کریں گی کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ تجلی عام فرمائیں گے تو وہ اس حال میں دیدار کریں گی دیگر احوال میں نہیں اس تیسرے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”جن لوگوں نے نیکو کاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید براں بھی“ (سورہ یونس: 26)

ایک جماعت نے زیادت کی تفسیر دیدارِ الہی سے کی ہے۔ ان کے اسماء گرامی حضرت ابو بکر صدیق۔ ابی بن کعب۔ کعب بن عجرہ۔ حدیفہ بن یمان۔ ابوموسیٰ اشعری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم۔ سعید بن مسیب۔ مجاہد۔ عکرمہ۔ عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ۔ عبدالرحمن بن سابط۔ قتادہ۔ ضحاک۔ سدی۔ محمد بن اسحاق۔ ان کے علاوہ بھی سلف و خلف سے یہی تفسیر مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین ٹھکانا عطا فرمائیں۔ آخرت میں مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے اس کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے۔ اس کو صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان کی طویل حدیث گزر چکی ہے اور ان میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کی حدیث یعقوب بن سفیان روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت

① بخاری، ۵۵۴، مسلم، ۱۳۳۲، ابوداؤد، ۴۷۹۹۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

ہر جمعہ کو اپنے رب کا دیدار کریں گے اور پھر پوری حدیث ذکر کی جس میں یہ ہے کہ: جب بھی (حق تعالیٰ شانہ) پر وہ بٹائیں گے تو گویا اس سے پہلے ان کو نہ دیکھا گیا ہو۔^۱
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۳۵)

اور اسی کو روایت کرنے والے صحابہ میں ابی بن لعب انس بن مالک، بریدہ بن حصیب، جابر بن عبد اللہ، خذیفہ زید بن ثابت، سلمان فارسی، ابوسعید سعد بن مالک بن سنان، خدری، ابوامامہ، باہلی، صہیب رومی، عبادہ بن الصامت، عبد اللہ بن عباس، ابن عمر، عبد اللہ عمرو، ابوموسیٰ، عبد اللہ بن قیس، عبد اللہ بن مسعود، عدی بن حاتم، عمار بن یاسر، عمارہ بن روبیع، ابورزین، عقیلی، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔

بہت سی احادیث ان میں سے گزر چکی ہیں اور حسب مناسبت مقام کچھ کا ذکر انشاء اللہ آئے گا۔ اللہ ہی پر اعتماد اور توکل ہے۔

جمعہ کا دن یوم المزید ہے

امام احمد نے فرمایا: (عقنان، حماد بن مسلمہ، ثابت بنانی، عبد الرحمن بن ابی سلمہ) حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

”یعنی نیکو کاروں کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں بھی“ (سورہ یونس: ۲۶)

اور فرمایا: جب اہل جنت کو جنت اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ترازو دوزخی نہیں کئے گئے؟ کیا ہمارے چہرے چمکدار نہیں بنائے گئے؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا گیا؟ کیا ہمیں دوزخ سے دور نہیں کیا گیا (یہ سب کچھ تو ہو گیا اب مزید کیا باقی ہے؟) فرمایا کہ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا پس وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ پس اللہ کی قسم! جنتیوں کے لیے اس سے پیاری کوئی نعمت نہیں ہوگی اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور مسلم نے حماد بن سلمہ کے طریق سے اس طرح روایت کیا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا (ابوبکر القافی، ابوتیمیمہ، انجیمی) بصرہ کے منبر پر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل جنت کی طرف ایک فرشتہ بھیجیں گے وہ کہے گا اے اہل جنت کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ تو اہل جنت اپنا جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ کپڑے ہیں، سامان آرائش ہے، بیویاں اور نہریں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اللہ نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے یہ بات تمیں بار کہیں گے۔ فرشتہ کہے گا نہیں ابھی کچھ باقی ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”نیکو کاروں کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں بھی“۔ (سورہ یونس: ۲۶)

۱ مسلم: ۳۹، ۴۲۸، ترمذی: ۲۵۵۲، ابن ماجہ: ۱۸۷۔

سنو! بھلائی تو جنت ہے اور جس کو مزید فرمایا گیا ہے وہ ہے اللہ کا دیدار^① یہ روایت موقوف ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اسی طریق سے یوں روایت کا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک منادی (فرشتہ) کو بھیجے گا جو یہ آواز دے گا اس کی ایسی آواز ہوگی جس کو تمام جنت والے سیں گے وہ کہے گا اے اہل جنت اللہ تعالیٰ نے آپ سے حسنیٰ (بھلائی) اور زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حسنیٰ تو جنت ہے اور زیادہ دیدار الہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”للذین احسنوا الحسنیٰ و زیادہ“ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ حسنیٰ جنت ہے اور زیادہ دیدار الہی ہے۔^②

ابن جریر روایت کرتے ہیں (ابن حمید، ابراہیم بن مختار، ابن جریر، عطاء) حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”للذین احسنوا الحسنیٰ و زیادہ“ کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے حسنیٰ ہے اور وہ جنت اور زیادہ (جس کا ذکر آیت میں ہے) اللہ کا دیدار ہے۔ (طبری) حضرت امام شافعی اپنی مسند میں فرماتے ہیں (ابراہیم بن محمد، موسیٰ بن عبیدہ ابواز ہر معاویہ بن اسحاق بن طلحہ، عبید عمیر) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت جبرئیل ایک سفید آئینہ لے کر آئے جس میں ایک نقطہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا: جمعہ اس کے ذریعے آپ کو اور آپ کی امت کو فضیلت دی گئی ہے اور دیگر لوگ اس میں آپ کے تابع ہیں۔ اس میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو بھی آدمی اللہ سے خیر مانگے گا اللہ اسکو قبول فرمائیں گے اور وہ ہمارے ہاں یوم المیزید کہلاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرئیل بتاؤ یہ یوم المیزید کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کے رب نے جنت الفردوس میں ایک بڑا میدان پیدا فرمایا ہے جس میں مشک کے ٹیلے ہیں۔

جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اور ملائکہ کو نازل فرماتے ہیں۔ منبر کے نور ہوتے ہیں جن پر انبیاء کے بیٹھنے کے لیے جگہیں ہوتی ہیں۔ ان منبروں کو سونے کی کرسیوں کے گھیرا گیا ہے۔ جن پر یاقوت اور زبرجد جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان پر شہداء اور صدیقین بیٹھیں گے۔ وہ انبیاء کے پیچھے ان نیلوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا رب ہوں۔ میں نے تم سے کیا گیا وعدہ سچا کر دکھایا۔ مانگو میں دوں گا۔ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! ہم آپ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ فرمائیں گے۔ میں تم سے راضی اور یہ مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے۔ آپ کے لیے وہ کچھ جو آپ چاہو اور مزید بھی۔ اسی وجہ سے اہل جنت جمعہ کے دن پسند کرتے ہیں کیونکہ اس دن ان کو خیر دیا جاتا ہے اور یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ (اپنی شان کے مطابق) عرش پر جلوہ افروز ہوئے اور اسی میں آدم کو پیدا کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔^③

بزار روایت کرتے ہیں (جہضم بن عبد اللہ، ابو طیبہ، عثمان بن عمیر) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبرئیل آئے ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا۔ میں نے پوچھا اے جبرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ جمعہ ہے آپ کے رب کی آپ کو پیشکش۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہے۔ آپ پہلے اور یہود و نصاریٰ

① طبری: ۱۰۵/۷- تفسیر سورہ یونس۔ ② طبری۔ ③ مندا مام شافعی۔

آپ کے بعد۔ آپ نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ جواب دیا کہ ایک ایسی گھڑی کہ جس میں جو بھی مومن خیر کی دعا کرے گا رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور اگر قسمت نہ تین کھتا ہو تو اس سے بہتر اس کے لیے قیامت میں دنیہ کہہ دیا جائے گا۔ اور اس کے کن بلا سے پناہ مانگی سے اور وہ اس کے لیے لکھی جا چکی ہے تو اسے قیامت کے دن اس سے بڑی بلا سے پناہ میں رکھے جائے گا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ سیاہ کتہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہوگی اور جمعہ کا دن ہمارے (ملائکہ کے) ہاں تمام دنوں کا سردار ہے اور آخرت میں ہم اس کو یوم المرزیدہ نہیں گے۔ پوچھا یوم المرزیدہ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے سفید مشک سے ایک وسیع وادی بنائی ہے۔ جمعہ کے دن حق تعالیٰ علیین سے نزول فرمائیں گے اور اپنی کرسی پر جلوہ فرمائیں گے۔ کرسی کے ارد گرد نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء تشریف فرما ہوں گے۔ منبروں کے گرد سونے کی کرسیاں ہوں گی جن پر صدیقین اور شہداء تشریف رکھیں گے پھر عام اہل جنت (مشک کے) ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ پھر رب تعالیٰ جلوہ افروز ہو کر دیدار کرائیں گے اور فرمائیں گے میں وہ ہوں کہ جس نے اپنی بات سچی کر دکھائی اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام فرمائیں۔ یہ میری کرامت کی جگہ ہے پس مجھ سے مانگو پھر وہ اتنا مانگیں گے کہ مزید ان کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس وقت کچھ عطا فرمائیں گے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ دیدار اتنی دیر رہے گا جتنی دیر میں لوگ جمعہ سے واپس آتے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف لے جائیں گے اور صدیقین اور شہداء بھی (اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں گے) راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایسا ہی فرمایا اور محلات والے اپنے محلات میں چلے جائیں گے جو سفید موتی کے بنے ہوئے ہوں گے یا سرخ یا قوت سے یا سبز زبرجد سے۔ اس میں اس کے کمرے اور دروازے بھی ہوں گے جن پر کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ اس میں پھلوں سے بوجھل درخت ہوتے ہیں۔ ان محلات میں ان کی بیویاں اور خادم ہوتے ہیں اور وہ تمام نعمتوں سے زیادہ جمعہ کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو اور دیدار سے فیض یاب ہوں اور اسی وجہ سے جمعہ کے دن کو یوم المرزیدہ کہا جاتا ہے۔^①

پھر بزار نے فرمایا ہمیں کوئی ایسا شخص معلوم نہیں کہ جس نے اس حدیث کو حضرت انسؓ سے اس طریق مذکور پر نقل کیا ہو۔ ایسا ہی فرمایا: اور ہم نے اس حدیث کو زیادہ بن خشمہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ پھر اسی سیاق سے حدیث کو مع طوالت ذکر کیا۔ اور حضرت امام شافعی کی روایت جو انہوں نے عبداللہ بن عبید سے کی پہلے گزر چکی ہے اس میں راویوں کا اس (عثمان) کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض راوی تدلیس سے کام لیتے ہیں تاکہ حقیقت حال کا پتہ نہ چلے اور یہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ضعیف ہیں۔ واللہ اعلم اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت انسؓ کی روایت سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔^② اور حضرت انسؓ سے روایت کے یہ اچھے طریق ہیں جو عثمان بن عمیر کی روایت کے لیے شاہد ہیں۔ حافظ ابوحسن اور دارقطنی نے کئی طریق سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حافظ ضیاء فرماتے ہیں کہ ایک اچھے طریق سے بھی اس کو روایت کیا گیا ہے انس بن مالک سے اور طبرانی نے احمد بن زہیر کے طریق سے اس کو روایت کیا ہے۔^③

حضرت انسؓ کے علاوہ صحابہ سے بھی روایت کیا گیا ہے بزار کہتے ہیں (ابراہیم بن مبارک، قاسم بن مطیب، اعمش، ابووائل)

① مسند بزار ۱۹/۱۸۱-۳۵۱۸-② مسند ابویعلیٰ ۷/۳۲۲۸-③ طبرانی ۳۵-

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبرئیل میرے پاس آئے اور یوم المیزید کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حائنین عوش (فشتون) کو عزم فرمائیں گے کہ پردے بناؤ تو اہل جنت حق تعالیٰ کا پہلا قلام یہ تھیں گے، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری فرمانبرداری کی، لہذا انہوں نے مجھے: یگانہ تمام ہے۔ سوا ان کی اتباع کی، اور میرے علم کی تصدیق کی مجھ سے مانگو کہ آج کا دن یوم المیزید ہے۔ تو اہل جنت اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ہم آپ سے راضی ہیں آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ جو اب فرمائیں گے جنت والو! اگر میں آپ سے راضی نہ ہوتا تو آپ کو جنت میں نہ ٹھہراتا۔ یہ یوم المیزید ہے پس مجھ مانگو۔ پس وہ ایک بات متفقہ طور پر کہیں گے اور وہ یہ کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا دیدار کرائیے پس اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور اپنے بعض نور کے ساتھ تجلی فرمائیں گے وہ نور ایسا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ہمیشہ زندگی ہے موت نہیں تو یہ نور ان کو جلا (کر ختم کر) دیتا۔ پھر ارشاد ہوگا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ پس وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور ہر سات دنوں میں ان کے لیے ایک دن (انعام و اکرام کا) ہوگا اور وہ جمعہ کا دن ہے۔^۱

جنت کے بازار کا ذکر:

(حافظ ابو بکر بن ابی عاصم ہشام بن عمار عبد الحمید بن حبیب اوزاعی حسان بن عطیہ سعید بن مسیب)

سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ملاقات جنت کے بازار میں کرائے (ہم جنت کے بازار میں جمع ہوں) میں نے پوچھا کیا جنت میں بازار ہے؟ فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ جب اہل جنت اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائیں گے تو ان کو اجازت دی جائے گی جمعہ کے دن کے بقدر پس وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ ان کے لیے مختلف قسم کے منبر رکھے جائیں گے نور کے، بعض لولو کے، بعض زبرجد کے، بعض یاقوت کے، بعض سونے کے اور بعض چاندی کے ہوں گے اور ادنیٰ جنتی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر تشریف فرما ہوں گے ان کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ ان کی بیٹھک دیگر لوگوں کی بیٹھک سے کم درجہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا کیا تم سورج اور چودھویں رات کے چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا ایسے ہی رب تعالیٰ کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ کلام فرمائیں گے فرمائیں گے اے فلاں بن فلاں کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے دنیا میں فلاں دن فلاں فلاں کام کئے تھے وہ کہے گا ہاں، کیا آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی؟ فرمائیں گے کیوں نہیں میری مغفرت ہی کی وجہ سے تو تو اس درجہ کو پہنچا ہے۔ فرمایا اسی اثناء میں اوپر سے ایک بدلی ان کو ڈھانپ لے گی اور ان کے اوپر ایسا عطر برسائے گی کہ اس کی سی خوشبو انہوں نے کبھی نہ سونگھی ہوگی۔ فرمایا: پھر ہمارے رب تعالیٰ شانہ فرمائیں گے جو کرامت (عزت) میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے اس کی طرف جاؤ اور جو پسند ہو لے لو پھر وہ ایسے بازار پالیں گے جن کے گرد ملائکہ ہوں گے اور بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی جن کو نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ

دلوں پر ان کا خیال گزرا۔ فرمایا: پھر ہم جو چاہیں گے لایا جائے گا اور اس بازار میں خرید و فروخت نہیں۔ اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے نہیں کے۔ اونچے درجوں والے نیچے درجے والوں سے بیس سے تان تان کا لباس اور ان کی ہیئت پسند آنے کی (پس وہ آپس میں گفتگو شروع کر رہے) پس ان کی بات (جس کو انہوں نے شروع کیا تھا) ختم ہونے کو نہیں آئے گی کہ اس (کلمہ و وجہ والے) کی ہیئت اس سے بھی اچھی ہو جائے گی اور اس سے اونچے درجے والے کو غم نہ ہوگا کیونکہ وہاں کسی کو غمگین ہونا نہیں۔ فرمایا پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ہمیں ہماری بیویاں ملیں گی تو کہیں گی ہمارے محبوب کو خوش آمدید۔ آپ ایسی حالت میں تشریف لائے کہ آپ کا حسن و جمال اور خوشبو اس حالت سے بہتر ہے جس میں آپ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب عزوجل کا دیدار کیا ان کی مجلس میں شریک ہوئے ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔^۱ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ذکر کیا اور ترمذی نے بھی۔^۲

امام مسلم فرماتے ہیں (ابو عثمان سعید بن عبد الجبار، حماد بن سلمہ ثابت) حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک بازار ہے ہر جمعہ کو اہل جنت وہاں جاتے ہیں پس شمال کی ہوا چلتی ہے اور ان کے چہروں اور کپڑوں کو لگتی ہے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے وہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹتے ہیں وہ کہتی ہیں خدا کی قسم آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ کہیں گے واللہ تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوا ہے۔^۳ احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ جنت میں ایک بازار ہے جس میں مشک کے ٹیلے ہیں اہل جنت جب وہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہوا چلتی ہے۔ پھر پوری حدیث ذکر کی ہے۔^۴

جنت کی زمین اور جنت کی خوشبو کی مہک:

(ابو یکر بن شیبہ، عمر و عطاء بن وراذ سالم، ابو الحسن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کی زمین سفید ہے اس کا صحن کا فور کی چٹانوں کا بنا ہوا ہے۔ جس پر مشک نے احاطہ کیا ہے جیسا کہ ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ اس میں نہریں بہتی ہیں۔ اہل جنت وہاں جمع ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا بھیجتے ہیں۔ یہ ہوا مشک کی خوشبو کو پھیلا دیتی ہے۔ پس آدمی اپنی گھر والی کی طرف لوٹے گا اور اس کا حسن اور خوشبو بڑھ چکی ہوگی۔ بیوی کہے گی۔ میاں! آپ یہاں سے نکلے تو میں آپ کو چاہتی تھی اب تو میں آپ کو زیادہ چاہتی ہوں۔^۵

ترمذی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں۔ ہاں اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی جو جس صورت کو چاہے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ (یعنی ویسی شکل ہو جائے گی) یہ حدیث غریب ہے جیسا کہ امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدمی آدمیوں کی صورت و شکل اور عورت عورتوں کی شکل و صورت میں داخل ہونا پسند کرے گی اور اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث سے کی جائے گی جیسا کہ 'جنت کا بازار' کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کے معنی شکل ہیئت اور لباس بیان کئے گئے ہیں۔ حدیث یہ ہے: ایک بڑھیا

① السنن: ۲۷۵، ② ابن ماجہ: ۲۳۳۶، ترمذی: ۲۵۲۹، ③ مسلم: ۵۰۷۵، ④ مستدرج: ۳/۲۸۵۔

⑤ اتحاف: ۱۰/۵۳۱، درمنثور: ۱/۱۳۸، ترغیب ترہیب: ۲/۵۱۸، ⑥ ترمذی: ۲۵۵۰۔

لباس والا آئے گا اور اپنے سے کم درجہ والے سے ملاقات کرے گا۔ وہ کم درجے والا جب اس کے لباس و ہیئت کو دیکھے گا تو اسے اچھا لگے گا اب وہ بات کو حتم نہ کر چکے ہوں گے کہ اس پر اس سے بھی اچھی ہیئت آجائے گی اور یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کوئی رکن دوسرے کے رتبے اور بڑائی کی وجہ سے (مغلیں نہیں ہوگا) ^۱ اگر حدیث کے الفاظ محفوظ ہوں۔ حالانکہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ الفاظ محفوظ نہیں کیونکہ اس کو صرف عبدالرحمان بن اسحاق نے روایت کیا ہے اپنے والد مامون نعمان بن سعد اور شامی سے اور ایک جماعت سے جن میں حفص بن غیاث عبداللہ بن ادریس اور ہشام ہیں۔

امام احمد اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ منکر ہے اور نعمان بن سعد کی روایت میں اس کی تکذیب کی۔ نیز یحییٰ بن معین، محمد بن سعد، یعقوب بن سفیان بخاری، ابوداؤد ابوحاتم، ابوزرعہ نسائی، ابو خزیمہ اور ابن عدی وغیرہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تکمیل میں نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ اس جیسے آدمی کی روایت ناقابل قبول ہے جس کو صرف یہ روایت کرے خاص طور پر مذکورہ روایت کیونکہ یہ بہت ہی منکر ہے۔ اس آدمی کی طرح تو سب سے بہترین حالت یہ ہے کہ کچھ نہ سنے اور سمجھ نہ سکے پوری طرح پھر اس مطلب کی تعبیر ایک ناقص عبارت سے کر دے اور اصل حدیث وہی ہے جس کو ہم نے ”جنت کا بازار“ کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے۔ اس کو ایک اور غریب طریق سے روایت کیا گیا ہے (محمد بن عبداللہ حضرمی، احمد بن محمد، محمد بن کثیر، جابر جعفی، ابو جعفر، علی بن حسین) حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جگہ جمع تھے جناب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت! جنت میں بازار ہے جس میں نہ خرید ہے نہ فروخت ہاں کچھ صورتیں ہیں جس کو جو بھی صورت مرد یا عورت کی پسند آجائے گی اس میں داخل ہو جائے گا۔ ^۲

جنت کی ہوا، اس کی خوشبو، اس کا پھیلنا، یہاں تک کہ وہ خوشبو کئی سال کی مسافت سے سونگھی جاسکے گی:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا اور ان کی حالت درست کرے گا اور ان کو داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کو ان کے لیے خوشبوؤں سے مہکایا گیا ہے۔“

(سورہ محمد آیات: 4-6)

بعض مفسرین نے ”عرفھا لہم“ کو ”عرف“ یعنی خوشبو سے لیا ہے اور یوں تفسیر کی ہے ”طیبھا لہم“ یعنی ان کے لیے جنت کو خوشبوؤں سے مہکایا گیا ہے۔ (ابوداؤد طیالسی شعبہ حکم مجاہد) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا حالانکہ پچاس برس کی مسافت سے اس کی خوشبو سونگھی جاتی ہے۔ ^۳ اور مسند امام احمد میں ستر سال کا ذکر ہے۔ ^۴ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کا ظاہر کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی

① ترمذی: ۲۵۳۹۔ ② ترمذی: ۲۵۵۰۔ ③ بخاری: ۳۱۶۶۔ ④ ابن ماجہ: ۲۶۸۶۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

مسافت سے محسوس ہوتی ہے اور فرمایا جو مجھ پر قصد آجھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ امام بخاری فرماتے ہیں (قیس بن جعفر بن عبد اللہ بن زید بن حسن بن عرار مجاہد) حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا حالانکہ چالیس سال کی مسافت کے بقدر جنت کی خوشبو پائی جاتی ہے۔^۱ اور اس طرح ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔^۲ امام احمد فرماتے ہیں (اسماعیل بن محمد، ابراہیم المعقب، مروان بن معاویہ، حسن بن عمر، مجاہد، جنادہ بن ابی امیہ) حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اہل ذمہ میں سے کسی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو سال بھر کی مسافت کی مقدار پھیلتی ہے۔^۳

طبرانی میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے بغیر حق کے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ایک سال کی مسافت کی بقدر سونگھی جاتی ہے۔^۴ اور ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ستر سال کی روایت بھی نقل کی ہے۔^۵ عبدالرزاق فرماتے ہیں (معمر، قتادہ، حسن) حضرت ابو بکر (آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت کی خوشبو سو سال کی مسافت تک سونگھی جاسکتی ہے) سعید بن ابی عروبہ حضرت قتادہ سے پانچ سو سال روایت کرتے ہیں۔ حماد بن سلمہ نے بھی یونس بن سعید سے ایسی روایت کی ہے۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی صفحہ الحجۃ میں روایت کرتے ہیں (ربیع بن بدزید ضعیف ہے، ہارون بن ریاب، مجاہد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔^۷ موطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایسی عورتیں جو بہنتی ہیں (پھر بھی) ننگی رہتی ہیں (کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر اس لیے ننگی رہتی ہیں) خود بھی ماہل ہوتی ہیں (مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف) ماہل کرنے والی ہوتی ہیں ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔^۸ حافظ عبد البر کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن نافع نے حضرت مالک سے مرفوعاً اس کو روایت کیا ہے۔

طبرانی (محمد بن عبد اللہ حضرمی، محمد بن احمد طریف، محمد بن کثیر، جابر جعفی، ابو جعفر، محمد علی) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت کی مقدار میں پائی جاتی ہے اللہ کی قسم نافرمان (والدین کا) اور قطع رحمی کرنے والا اس کو نہیں پائے گا۔^۹

صحیحین میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے دن حضرت انس بن نضر کے پاس سے گزرے جب ان کو شہید کیا گیا تھا تو رخصوں کی وجہ سے ان کو نہ پہچان سکے۔ ان کی بہن صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچان سکی۔ ان کو کچھ اوپر اسی زخم لگے تھے جن

① مسند احمد ۲/۱۸۶۔ ② مسند احمد ۵/۳۶۔ ③ ابوداؤد: ۲۷۶۰۔

④ درمنثور ۲/۱۹۵۔ ⑤ درمنثور ۲/۱۹۵۔ ⑥ موطا امام مالک: ۱۷۴۰۔

⑦ ابوداؤد: ۲۲۷۴۔ ⑧ مسند احمد ۲/۱۹۴۔ ⑨ مستدرک حاک: ۱۲۶/۲۔

میں تلوار کی ضرب، نیزوں اور تیروں کے زخم تھے جن سے اس موقع پر حضرت سعد نے فرمایا کہ اُنس نے جنت کی خوشبو پائی حالانکہ وہ زمیں میں تھے اور خوشبو آئی۔ اُنس نے کہا کہ کہا جائے کہ اس دن ہر امت کے لوگوں کے قریب آگئی تھی۔ واللہ اعلم۔

جنت کی روشنی اس کا حسن اور اس کے صحن کی خوبی اور صبح و شام اس کا خوبصورت منظر:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور جب تو دیکھے وہاں تو نعمت اور سلطنت بڑی اوپر کی پوشاک ان کے کپڑے ہیں باریک ریشم کے سبز گاڑھے اور ان کو

پہنائے جائیں گے لنگن چاندی کے اور پلائے ان کو ان کا رب شراب جو پاک کرے دل کو“۔ (سورۃ الدھر: 20-21)

اور فرمایا: ”سدا رہا کریں ان میں خوب جگہ ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی“۔ (سورۃ الفرقان: 76)

اور فرمایا: ”تجھ کو یہ ملا کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ تنگ اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے اور نہ دھوپ“۔ (سورۃ طہ: 118-119)

اور فرمایا: ”نہیں دیکھتے وہاں دھوپ اور نہ ٹھنڈک“۔ (سورۃ الدھر: 13)

ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں (سید بن سعید، عبد ربہ حنفی) زمیل نے اپنے والد سماک کو یہ کہتے سنا کہ وہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ملے جب ان کی بینائی جا چکی تھی تو پوچھا اے ابن عباس جنت کی زمین کیسی ہے؟ فرمایا وہ چاندی کے سفید مرمر سے ہے گویا کہ وہ آئینہ ہے۔ پوچھا اس کی روشنی؟ فرمایا ایسی جیسے سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہوتی ہے۔ ہاں نہ اس میں گرمی ہے اور نہ سردی۔ ہم نے حدیث میں ذکر کیا جیسا کہ آئے گا ان شاء اللہ۔ ابن صیاد نے جو جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کیا اس میں بھی گزرا کہ وہ سفید ہے خالص مشک کی۔ (مسلم حدیث: 7280) (احمد بن منصور، کثیر بن ہشام، ہشام بن زیاد، حبیب بن شہید، عطاء بن ابی رباح) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا فرمایا اور سفیدی اللہ کا محبوب لباس ہے۔ پس زندوں کو سفید پہنا چاہیے اور مردوں کو اسی میں کفن دو۔^①

پھر آپ ﷺ نے بکریاں چرانے والوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا وہ جمع کئے گئے آپ نے ان سے فرمایا جو سیاہ بکریوں والا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سفید بکری ملائے پس ایک عورت آئی اور عرض کیا اے رسول اللہ! میں نے کالی بکریاں رکھ لی ہیں ان کی افزائش نہیں ہوتی فرمایا ان کے ساتھ سفید بکری ملاؤ۔ (ابو بکر بزاز، احمد بن فرج حمصی، عثمان بن سعید، محمد بن مہاجر، ضحاک مغافری، سلمان بن موسیٰ، کریب) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا جنت کے لیے کوئی تیاری کرنے والا نہیں؟ کیونکہ جنت کی کوئی مثال نہیں اور وہ خدا کی قسم چمکتا نور ہے مہکتا ریحان، مضبوط محما، چلتی بہتی نہریں، کپکپھل، خوبصورت خور و بیویاں، ہمیشہ رہنے کی جگہ، میں بہت سی پوشاک، سلامتی والے گھر میں میوے۔ اور سرسبزی و شادابی، خون، باش، و خوش نغس، پڑوسی اور بیش بہا نعمتیں ایک عمدہ خوبصورت دلکش مقام (یہ سب کچھ جنت میں) ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تیاری کرنے والے ہیں فرمایا کہو انشاء اللہ لوگوں نے کہا انشاء اللہ۔^② پھر بزاز نے کہا ہمیں اس حدیث کا صرف یہی طریق معلوم ہے۔

① مسلم ۱۳۸، ترمذی ۳۲۰۰۔ ② مسند احمد ۱/۲۴۷۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی عار و ایت کیا گیا ہے۔ جنت کی سرزمین سفید ہے اس کا صحن کافور کی چٹانوں کا بنا ہوا ہے۔ ارد گرد مشک نے احاطہ کیا ہوا ہے جیسے ریت کے لیے۔ اس میں چاقی سہریں ہیں۔ انہی جنت جن ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو پیچھے لے لیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا بھیجتے ہیں وہ مشک کی خوشبو کو مہکاتی ہے تو آدمی اس حالت میں واپس ہوتا ہے کہ وہ حسن اور خوشبو میں ترقی حاصل کر چکا ہوتا ہے بیوی کہتی ہے میاں! آپ جب نکلے میں آپ پر فریفتہ تھی اب تو میں زیادہ فریفتہ ہوں۔

حصول جنت کی کوشش کا حکم اللہ کا اپنے بندوں کو اس کی ترغیب دینا اور ایک دوسرے سے سبقت لے

جانے کا حکم فرمانا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اللہ دار السلام (جنت) کی طرف بلاتا ہے“۔ (نہس: 25)

اور فرمایا: ”اور بڑھو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین (کے برابر) ہے تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے“۔ (آل عمران: 133)

”سبقت کرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسی زمین و آسمان کی چوڑائی۔ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والے ہیں“۔ (سورۃ الحدید: 21)

اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے خریدا ہے وہ اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں“۔ (توبہ: 111)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے آپ سو رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ (پھر آپ کے بارے میں فرمانے لگے کہ) آپ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا پھر اس میں دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا پس جس نے بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور دستر خوان میں سے کھایا۔ لوگوں نے اس کی تفسیر آنحضرت ﷺ کے لیے کی اور بعض نے کہا آپ سو رہے ہیں بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے دل بیدار ہے۔ پس کہا گھر جنت ہے بلانے والے محمد (ﷺ) ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔^①

اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: ایک دن رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا جیسے جبرئیل میرے سر کی طرف اور میکائیل پاؤں کی طرف ہے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے اس کی مثال بیان کرو اس نے کہا سنو! آپ کے کان سن لیں اور سمجھو تمہارا دل سمجھ لے آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے گھر بنایا اور پھر اس (بڑے گھر)

① ابن ماجہ: ۴۳۳۲۔

میں ایک مکان بنایا پھر دعوت کی۔ پھر ایک ایچی بھیجا جو لوگوں کو بادشاہ کی دعوت کی طرف بلاتا ہے۔ بعض نے ایچی کی بات مانی اور بعض نہ مانی۔ پس اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں اور اسلام گھر ہے اور جنت (گھر کے اندر کا) مکان ہے اور آپ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپس ہیں جو آپ کی بات مانے گا اسلام میں داخل ہوگا اور جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ جنت کے پھل کھائے گا۔^① ترمذی میں حضرت ابن مسعود سے بھی ایسے روایت کیا گیا ہے جس کو ترمذی نے صحیح قرار دیا۔ درمنثور میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک آقا نے گھر بنایا اور دعوت کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا۔ جس نے بلانے والے کی اطاعت کی گھر میں داخل ہوا اور دعوت کھائی اور آقا ان سے راضی ہوا، سنو! یہ آقا تو اللہ ہیں اور گھر اسلام ہے اور دعوت دینے والے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ (درمنثور: 3/3051)

جو آگ اللہ کی پناہ مانگے گا اللہ اس کو پناہ دیں گے اور جو جنت کا طلبگار ہوگا

اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے بشرطیکہ نیت صادق اور عمل صحیح ہو

مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بھی کوئی بندہ آگ سے تین مرتبہ پناہ مانگے۔ آگ کہتی ہے اے رب! آپ کا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دیجیے اور جب بھی کوئی بندہ سات مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے جنت کہتی ہے اے رب! آپ کے فلاں بندے نے مجھے مانگا ہے اس کو مجھ میں داخل کر دیجیے۔^② ترمذی اور نسائی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی جنت کو تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ! اسے جنت میں داخل فرما اور جو آگ سے تین مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو آگ کہتی ہے اے اللہ! اس کو آگ سے پناہ دے۔^③

جنت اور دوزخ ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت قبول کی گئی ہے:

حسن بن سفیان فرماتے ہیں (مقدمی عمر بنی بن عبید اللہ عبید اللہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کا سوال کثرت سے کیا کرو اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کیونکہ یہ دونوں شفاعت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت قبول کی گئی ہے اور جب بندہ کثرت سے جنت کا سوال کرتا ہے جنت کہتی ہے اے رب! آپ کے اس بندہ نے مجھے آپ سے مانگا ہے میرے اندر اس کا ٹھکانہ بنا دیجیے اور آگ کہتی ہے اے رب! آپ کے اس بندے نے مجھ سے آپ کی پناہ مانگی اس کو پناہ دے دیجیے۔

اپنی طاقت بھر جنت کی طلب کرو اور اپنی طاقت بھر دوزخ سے بھاگو:

ابو بکر شافعی فرماتے ہیں کہ کلیب بن حرب نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حتی الوسع جنت کی تلاش میں رہو اور حتی الوسع دوزخ سے بھاگو کیونکہ بلاشبہ جنت ایسی ہے کہ اس کو طلب کرنے والا نہیں سوتا اور دوزخ ایسی ہے کہ اس

① درمنثور: ۱/۱۳۷ اجماع السادة السعديين ۱۰/۵۳۱۔ ② مسند احمد: ۳/۱۱۷ مسند ابو یعلیٰ: ۱۱/۶۱۹۲۔ ③ ترمذی: ۲۵۷۲۔ نسائی: ۵۵۳۶۔ ابن ماجہ: ۴۴۲۰۔

سے بھاگنے والا نہیں سوتا۔ آج آخرت کو ناگوار یوں نے اور دنیا کو شہوات نے گھیر رکھا ہے لہذا یہ شہوات ہرگز تمہیں آخرت سے غافل نہ
 ۱۔

جنت کو ناگوار یوں نے گھیر رکھا ہے اور دوزخ کو شہوات نے گھیر رکھا ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کو ناگوار یوں اور دوزخ کو شہوات نے گھیر رکھا ہے۔^۱ اس کو صرف امام احمد نے روایت کیا۔ جید حسن ہے کیونکہ اس کے شواہد موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرئیل کو بھیجا اور فرمایا اس کو دیکھو اور وہ کچھ دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے۔ پس وہ آئے جنت اور اہل جنت کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کو دیکھا اور کہا تیری عزت کی قسم جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا پھر حکم فرمایا تو جنت کو ناگوار یوں میں چھپایا گیا پھر اس کو دیکھنے کا حکم دیا جبرئیل جب دیکھے گئے تو دیکھا کہ جنت کو ناگوار یوں میں چھپایا گیا ہے واپس ہو کر کہا آپ کی عزت کی قسم مجھے تو ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور جہنم و اہل جہنم کے لیے تیار کرو عداہوں کو دیکھو انہوں نے جا کر دیکھا تو آگ ایک دوسرے پر چڑھی چلی جا رہی تھی۔ جبرائیل واپس آئے اور کہا جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر حکم الہی ہوا اسے شہوات سے ڈھانپ دیا گیا تو جبرائیل نے کہا آپ کی عزت کی قسم مجھے تو ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم سے نجات نہیں پائے گا۔^۲

اس کو صرف امام احمد نے روایت کیا اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عام طور پر انسان کو آگ میں داخل کرنے والی دو کھوکھلی چیزیں ہیں: ^۳ شرمگاہ اور منہ۔ اور اکثر جس کے ذریعے جنت میں جاتا ہے (دو چیزیں ہیں) تقویٰ اور اچھے اخلاق۔ یاد رکھو! دوزخ شہوات سے ڈھانپی گئی ہے اور اس کے اندر تمام تکلیف دہ چیزیں اور حشرات ہیں اور جنت ناگوار یوں سے ڈھانپی گئی ہے اور اس کے اندر ایسی خوشی اور لذت کی چیزیں ہیں جس کو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا جس طرح کہ ہم اس کے بارے میں آیات و احادیث ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی ہمیشہ نعمتوں اور دائمی لذتوں میں ایک وہ سرور ہے کہ ایسا سرور کبھی کانوں نے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”پس جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کئے وہ جنت میں ہوں گے لذت و سرور سے بہرہ اندوز ہوں گے۔“ (سورۃ الروم: ۱۵)

اوزاعی یحییٰ بن ابوکثیر سے نقل کرتے ہیں کہ جس سرور کا ذکر آیت شریفہ میں ہے اس سے مراد گانا ہے۔

اللہ کی جنت میں حور کا گیت:

حضرت علی رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت میں حور عین کے لیے جمع ہونے کی ایک جگہ سے وہ ایسی آواز

① طبرانی ۲۰۰/۱۹۔ ② مسلم ۷۰۶۱۔ ③ ترمذی ۲۵۵۹۔ ④ مسند احمد ۲/۲۶۰۔ ⑤ مسند احمد ۲/۳۹۲۔ ⑥ مسند احمد ۲/۳۳۲۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

گاتی ہیں کہ ایسی آوازیں کبھی لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی وہ کہتی ہیں ہم سدا رہنے والیاں ہیں کبھی ختم ہونا نہیں ہم نرم و ملائم ہم ہم میں کبھی ختم نہیں آئے گی۔ ہم راضی رہنے والیاں ہیں کسی ناراض نہ ہوں گی۔ خوشترن اس کے لیے ہو جو راہ اور ہم اس کی ہیں۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ ابو سعید اور انسؓ سے بھی روایات منقول ہیں۔ نیز عبداللہ بن ابی اوفیٰ ابن عمر اور ابوامامہؓ سے بھی منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ جنت میں ایک لہر ہے جس کی لمبائی جنت یعنی ہے اس کے دونوں کناروں پر دو تیز آئیں کنواریاں ایک دوسری کے آمنے سامنے کھڑی رہتی ہیں وہ ایسی آواز سے گاتی ہیں جس کو تمام خلایق سنتے ہیں۔ ان کے خیال میں جنت میں اس جیسی کوئی لذت نہ ہوگی راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ابو ہریرہؓ وہ کیا گارہی ہوں گی۔ فرمایا وہ اللہ کی تسبیح بزرگی اور پاکیزگی کے گن گائیں گی۔ انشاء اللہ^۲

حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور شاخیں زبرجد اور لولوکی ہیں اس پر ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے بجنے لگتے ہیں۔ سامعین نے اس سے زیادہ لذت والی چیز کبھی نہ سنی ہوگی^۳ اور حضرت ابن عباسؓ نے جنت کی روایت میں گزرا ہے کہ ہوا اس کو حرکت دے گی تو دنیا میں موسیقی کی جتنی قسمیں تھیں ان سب کی آوازیں اس میں آئیں گی۔ اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں حور عین گاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم خوب و حوریں ہیں ہمیں شریف خاندنوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔^۴ حضرت ابن ابی اوفیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر آدمی کی شادی چار ہزار کنواریوں آنھ ہزار بے خاوند عورتوں (چاہے ان کے خاوند مر گئے ہوں یا انہوں نے شادی ہی نہ کی ہو) اور سو حوروں سے ہوگی ہر سات دنوں میں ایک مرتبہ وہ جمع ہوتی ہیں اور ایسی خوبصورت آواز سے گاتی ہیں کہ ایسی آوازیں مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوں گی (کہتی ہیں) ہم سدا رہنے والیاں ہیں فنا ہونے والیاں نہیں نرم ہیں سخت نہیں راضی رہنے والیاں ہیں خفا ہونے والیاں نہیں ادھر مقیم ہیں یہاں سے جانے والیاں نہیں خوشخبری اس کے لیے جس کی ہم ہیں اور وہ ہمارا ہے۔^۵

حضرت ابن عمرؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے سامنے گاتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہمیں مرنا نہیں مامون ہیں کوئی خوف نہیں ٹھہری ہیں جانا نہیں۔^۶ حضرت ابوامامہؓ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ جنت میں جاتا ہے تو دو حور عین اس کے سر اور پاؤں کی طرف سے آتی ہیں اور خوبصورت آواز سے گاتی ہیں جس کو تمام انس و جن سنتے ہیں اور ان کا یہ گانا مزامیر شیطان نہیں۔^۷ ابن وہب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن ابویوب نے بتایا کہ ایک قریشی آدمی نے ابن شہاب سے پوچھا کیا جنت میں گانا ہوگا کیونکہ مجھے گانا پسند ہے فرمایا ہاں خدا کی قسم جنت میں ایک درخت ہے جس کو لولو اور زبرجد نے اٹھایا ہے۔ اس کے نیچے دو تیز حوریں ہوتی ہیں جو قرآن کو حسن صوت میں پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نرم ہیں سخت نہیں ہوں گی ہم سدا زندہ ہیں ہم کو مرنا نہیں۔ جب درخت اسے سنتا ہے تو اس کے بعض حصہ بعض سے بجنے لگتے ہیں۔ یہ لڑکیاں اس بجنے کی آواز کو پسند کریں گی پھر یہ معلوم ہوگا

① ترمذی: ۲۵۶۳۔ ② اتحاف: ۱۰/۵۲۸۔ ③ ترغیب ترہیب: ۳/۵۲۳۔ ④ کنز العمال: ۳۹۳۶۰ المطالب العالیہ: ۳۶۸۳۔

⑤ اتحاف: ۱۰/۵۲۶ درمنثور: ۴۰/۳۰۔ ⑥ طبرانی: ۴۳۳۔ ⑦ کنز العمال: ۳۹۳۲۴۔

کہ لڑکیوں کی آواز اچھی سے یاد رخت کی۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ ہمیں لیث نے خالد بن زید سے روایت کر کے بتایا کہ لڑکیاں اپنے مادروں کو کلمات یوں کہیں گی اور کہیں گی ام یحییٰ اور نوسورت ہیں۔ شریف نو ہوانوں کی بیویاں ہیں۔ م سدا رہنے والیاں ہیں۔ ہم نہیں مریں گی ہم ملائم ہیں سخت نہیں راضی ہیں خفائیں ہوں گی مقیم ہیں جائیں گی نہیں ان میں سے ایک کے سینہ میں لکھا ہوا ہوگا آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوب میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ ابن مبارک کہتے ہیں مجھے اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کر کے بتایا کہ حورین جنت کے دروازوں کے پاس اپنے شوہروں کو ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا ہم راضی ہیں خفائیں ہوں گی اور مقیم ہیں جائیں گی نہیں سدا رہنے والیاں ہیں مریں گی نہیں۔ خوبصورت آوازوں کے ساتھ گائیں گی۔ حور اپنے شوہر سے کہے گی میں آپ کی محبوب آپ میرے محبوب۔ آپ کے علاوہ کسی کا ارادہ نہیں اور آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں۔ (ابن ابی الدنیا، ابراہیم بن سعید، علی بن عاصم، سعید بن ابی سعید) فرمایا کہ جنت میں سونے کے محلات ہوں گے جس کو لو لٹھائے ہوئے ہوں گے جب اہل جنت کوئی آواز سنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان محلات پر ہوا کو بھیجیں گے پس وہ ہر آواز لائے گی جو انہیں پسند ہو۔

حماد بن سلمہ فرماتے ہیں (ثابت بنانی، حجاج بن اسود، شہر بن حوشب) اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں میرے بندے دنیا میں خوبصورت آواز کو پسند کرتے تھے لیکن میری وجہ سے اس کو چھوڑتے تھے۔ پس میرے بندوں کو سناؤ پس وہ تہلیل، تسبیح اور تکبیر کو ایسی خوبصورت آواز سے پڑھیں گے کہ ایسی آواز کبھی نہ سنی گئی ہوگی۔ ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں (داؤد بن عمر، عبداللہ بن مبارک مالک بن انس، محمد بن منکدر) جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہول و لعب کی مجلسوں اور شیطانی موسیقی سے بچاتے تھے ان کو مشک کے باغات میں ٹھہراؤ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا اس کو میری حمد اور پاکی سناؤ۔^۱ ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں (دھشم بن فضل قریشی، داؤد بن جراح۔ اوزاعی) مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اسرافیل سے زیادہ خوبصورت آواز والا کوئی نہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ سنانا شروع فرمائیں گے پس وہ آسمان میں موجود ہر فرشتہ کی نماز کو توڑ دے گا جب تک اللہ چاہیں گے ذہ اس حالت میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم! اگر بندے میری عظمت و بڑائی سے واقف ہوتے تو میرے غیر کی ہرگز عبادت نہ کرتے۔

مالک بن دینار، وان له لزلفی وحسن مآب“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اونچے منبر کا حکم دیا جائے گا وہ جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر آواز دی جائے گی اے داؤد اس آواز سے میری پاکی بیان کیجیے جس سے آپ دنیا میں میری پاکی بیان کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بلند ہوگی جو تمام اہل جنت کو شامل ہوگی۔ بس اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں:

﴿وان له لزلفی وحسن مآب﴾

”یعنی اور ان کے لیے ہے بڑا مرتبہ اور اچھا ٹھکانہ“۔ (ص: 40)

جنت میں اللہ کے حضور جنتیوں کے لیے بعض جگہیں بنائی گئی ہیں جس میں وہ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہوتے ہیں

① السنۃ: ۱/۱: ۲۸۰ العلل المتناہیۃ: ۱/۱: ۲۶۳۔

اور وہ کلام الہی سنتے ہیں اور جب وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اس کو ہم نے ”سلام قولاً من رب رحیم“ کے تحت بیان کیا ہے اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی کتر چلی ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی ہر روز اللہ کے حضور حاضر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن سناتے ہیں اور ہر آدمی اس جگہ بیٹھا ہوگا جو اس کے بیٹھنے کے لیے متعین ہوگی۔ موتیوں کے منبروں یا قوت زبرد سونے اور زمر کے منبروں پر (سب مرتبہ) بیٹھے ہوں گے۔ کسی چیز سے ان کی آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک نہیں ملے گی جیسے اس (کلام اللہ کے سننے) سے اور نہ انہوں نے کبھی اس سے اچھی چیز سنی ہوگی۔ پھر وہ اپنی اپنی جگہوں کو ٹھنڈی آنکھوں سے جاتے ہیں اور اس طرح (اس مذکورہ دن کے بعد) کل کو بھی ان کی آنکھیں اس طرح ٹھنڈی ہوں گی۔^①

ابو نعیم ابو ہریرہ اسامہ سے مروی روایت کرتے ہیں کہ اہل جنت صبح کو ایک کپڑے میں ہوں گے اور شام کو دوسرے کپڑے میں جس طرح تم میں سے کوئی بادشاہ کی زیارت کے لیے صبح وشام جاتا ہے اس طرح اہل جنت بھی صبح وشام بارگاہ الہی میں حاضر دیں گے ان کے لیے وقت مقرر ہوگا اور وہ اس کو جانتے ہوں گے۔ وہ اس گھڑی سے واقف ہوں گے جس میں اللہ کے حضور حاضر دینی ہے۔

جنت کے گھوڑے

ترمذی میں ہے کہ حضرت سلیمان اپنے باب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا (ہاں) جب اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کریں گے تو تو جب گھوڑے پر سواری کرنا چاہے گا تو تجھے سرخ یا قوت کے ایک گھوڑے پر سواری کیا جائے گا وہ تجھے دہاں لے اڑے گا جہاں تو چاہے گا۔ فرمایا اور ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا مجھے گھوڑے پسند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں تیز ترین تیز رفتار عمدہ جسم والے گھوڑے اور اونٹ ہیں اہل جنت اس پر سواری ہو کر جہاں چاہیں گے ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے۔^② حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے گھوڑے پسند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا تو تیرے سامنے یا قوت کا ایک گھوڑا لایا جائے گا جس کے دو پر ہوں گے تجھے اس پر سواری کیا جائے گا پھر تو جہاں چاہے گا وہ تجھے لے اڑے گا۔^③

ترمذی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ کئی علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے اور بخاری نے اس کو منکر کہا ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں سب سے کم درجہ والا وہ شخص ہوگا جو سواری کرے گا اور اس کے ساتھ دس لاکھ خوبرو ہمیشہ رہنے والے لڑکے خادم ہوں گے اس کی سواری سرخ یا قوت کا گھوڑا ہوگا جس کے پر سونے کے ہوں گے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ... الآية﴾

”جب آپ وہاں دیکھیں گے نعمتیں اور سلطنت بڑی“۔

① مسند احمد ۴/۳۹۲- ② ترمذی ۲۵۴۳- ③ ترمذی ۲۵۴۴۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عبدالرحمان بن زید اور حسن کے درمیان انقطاع ہے اور عبدالرحمان ضعیف بھی ہیں نیز حدیث مرسل ہے۔^① حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے سرفوعا روایت ہے کہ اہل جنت سفید اونٹوں پر سواری کریں گے تو یا کہ وہ یاقوت ہے جنت میں گھوڑوں اور اونٹوں کے سوا جانور نہیں۔ (مجمع الزوائد: 66/4: کنز العمال: 35234)

عبداللہ بن مبارک حمام سے وہ قنادہ سے اور عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں عمدہ گھوڑے اور بہترین اونٹ ہیں اہل جنت ان پر سواری کریں گے۔ یہ الفاظ حصر پر دلالت نہیں کرتے جیسا کہ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نیز وہ اس حدیث کے بھی معارض ہے جس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بکری بھی جانوروں میں سے ہے۔^② اور یہ منکر ہے اور مسند بزار میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بکریوں سے بھلائی کرو اور تکلیف کو اس سے دور کرو کیونکہ وہ جنتی جانوروں میں سے ہے۔^③

حضرت جابر بن عبداللہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے پاس سرخ یاقوت کے گھوڑے آئیں گے جس کے پر ہوں گے وہ پیشاب اور لید وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ سوار ہو جائیں گے وہ ان کو جنت میں لے اڑیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے جب وہ دیدار کریں گے تو سجدہ میں گر جائیں گے ارشاد ہوگا: سرائھاؤ یہ عمل والا دن نہیں یہ نعمتوں اور عزت کا دن ہے وہ سرائھائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر خوشبوؤں کی بارش نازل فرمائیں گے۔ پھر یہ سواریاں ان کو مشک کے ٹیلوں کی طرف لے جائیں گی اللہ تعالیٰ ان ٹیلوں پر ہوا بھیجیں گے۔ وہ مشک کو پھیلائے گی ان کے اوپر تو وہ اس حالت میں گھروں کو واپس لوٹیں گے کہ ان کے بال مشک آلودہ بکھرے ہوئے ہوں گے۔^④

حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد اقدس نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر اور نیچے سے سونے کے گھوڑے نکلتے ہیں جس کے زین اور لگام موتیوں اور یاقوت کے ہوں گے وہ لید پیشاب نہیں کرتے ان کے پر ہیں۔ وہ منہجائے نظر پر قدم رکھتے ہیں۔ اہل جنت اس پر سواری کرتے ہیں وہ اس کو اڑالے جاتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ نچلے درجے والے (جنتی) کہتے ہیں آپ کے بندے اس مرتبے کو کیسے پہنچے؟ ارشاد ہوتا ہے وہ رات کو نماز پڑھتے تھے کم سوتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے تم کھاتے پیتے تھے وہ خرچ کرتے تھے تم بخل کرتے تھے وہ لڑتے تھے تم ڈرتے تھے۔^⑤

اہل جنت کا ایک جگہ جمع ہونا ایک دوسرے کی زیارت کرنا اور اچھے و برے اعمال کا تذکرہ کرنا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور متوجہ ہوئے ایک دوسرے کی طرف پوچھتے ہوئے کہا ہم اس نے پہلے ڈرتے رہتے تھے اپنے اہل میں اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہمارے اوپر اور ہمیں لو کے عذاب سے بچایا، ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے بے شک وہی نیک سلوک والا مہربان ہے۔“ (طور: 25-28)

① اتحاف: ۱۰/۵۵۱ درمنثور: ۶/۱۵۱۔ ② ابن ماجہ: ۲۳۰۶۔ ③ مجمع الزوائد: ۶۶/۳۔ ④ کنز العمال: ۳۰۵۲۳۳۔ ⑤ الشریعہ: ۳۶۷۔ ⑥ اتحاف: ۱۰/۵۳۳۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

حضرت انس رضی اللہ عنہما ارشاد نبوی لقل فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور بھائی (اور دوست و احباب) ایک دوسرے (کی ملاقات) کے مشتاق ہو جائیں گے تو اس کا تخت اس کے پاس چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک جگہ میں مل جائیں گے ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب بخشا؟ اس کا ساتھی کہے گا کہ ہم فلاں جگہ میں تھے اور اللہ کو پکارا پس اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی۔^① اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور ایک دوسرے پوچھنے لگے آپس میں متوجہ ہو کر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ بھلا آپ ایسی باتوں کا یقین کرتے بھلا جب ہم مرجائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر بھی ہمیں جزا ملے گی (اس کہنے والے نے اپنے ساتھیوں سے) کہا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ (کہ وہ کس حال میں ہے) پھر وہ دیکھے گا تو اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھے گا خدا کی قسم! تو تو مجھے ہلاکت میں ڈالنے والا تھا اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں (گناہ کی پاداش میں قید ہو کر سزا کے لیے) حاضر کئے جانے والوں میں سے ہوتا! بھلا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں مرنا سوائے پہلی بار دنیا میں مرنے کے اور (یہ کہ) ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا بلاشبہ یہ بڑی کامیابی ہے اس جیسی کامیابی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو جدوجہد کرنی چاہیے۔“ (الصافات: 50-51)

یہ کامیابی جن و انس کو شامل ہے۔ یہ کہے گا کہ میرا ساتھی کفر کے وسوسے سے ڈالتا تھا اور آخرت کے معاملے کو ناممکن بتاتا تھا۔ اللہ کی رحمت سے میں خلاصی پا گیا پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دے گا کہ وہ آگ میں دیکھیں تو وہ اس کو دوزخ میں پڑا پائیں گے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے پس نجات پانے پر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (وہ جنتی کہے گا اپنے دوزخی ساتھی سے) خدا کی قسم! قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں حاضر کئے جانے والوں میں سے ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہا کیا اب ہمیں پہلی بار مرنے کے سوا مرنا نہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جنت میں داخل ہو کر اب ہم مرنے اور عذاب سے نجات پا گئے ہیں بلاشبہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایسی کامیابی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ اس جنتی کا کلام ہو اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے:

”اور اس میں آگے بڑھنے والوں کو بڑھنا چاہیے۔“ (سورۃ المطففین: 26)

اس کی بہت سی مثالیں ہیں بعض کو ہم نے تفسیر میں ذکر کر دیا ہے۔ بخاری کے شروع کتاب الایمان میں حضرت حارثہ بن سراقہ کی حدیث میں ہے جب اس سے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا تم نے کس حال میں صبح کی۔ جواب دیا اللہ پر حق ایمان کے ساتھ۔ پوچھا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا راتوں کو جاگا اور دن کو پیا سارہا (روزہ رکھا) اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو کہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور اہل جہنم کو (دیکھ رہا ہوں) کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایک بندہ ہے جس کے دل کو اللہ پاک نے منور فرمایا ہے۔^② سلیمان بن مغیرہ حمید بن

① مجمع الزوائد: ۱۰/۵۳۳۔ ② مجمع الزوائد: ۱/۵۷ الضعفاء: ۴/۳۵۵۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

ہلال سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں اوپر درجے والا نچلے درجے والے کی زیارت کرے گا اور نچلے درجے والا اوپر والے کی زیارت نہ کر سکے گا۔ اسکے دو معنی ہو سکتے ہیں:

- (۱) نچلے درجے والا اوپر کو جان سکے گا، اس کا اہل نہیں۔
- (۲) (وہ اس لیے اوپر نہ جا سکیں گے) تاکہ وہ غمگین نہ ہوں ان نعمتوں کو دیکھ کر جو ان کو حاصل نہیں ہیں اور (قاعدہ یہ ہے کہ جنت میں غم نہیں۔ ایک حدیث مرفوعہ میں بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے اور اس میں کچھ زیادتی بھی ہے چنانچہ طبرانی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا، کیا جنتی باہم ملاقات کریں گے؟ فرمایا: بڑے رتبے والے نچلے رتبے والوں کی زیارت کریں گے اور نچلے رتبے والے اونچے درجے والوں کی زیارت نہ کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے وہ جنت میں جہاں چاہیں گے اونٹوں پر سوار ہو کر جایا کریں گے۔^①

شقی بن ماتع رسول کریم ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ساریوں اور عمدہ اونٹوں پر ایک دوسرے کی ملاقاتیں کرتے ہیں اور جنت میں ان کے سامنے زین لگے ہوئے لگام شدہ گھوڑے لائے جائیں گے جو بول و براز سے پاک ہوں گے۔ وہ اس پر سواری کریں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پہنچ جائیں گے پھر بادل جیسی کوئی چیز آئے اس میں وہ کچھ ہوگا جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا پس وہ کہیں گے ہمارے اوپر برس، وہ برسے گی یہاں تک کہ ختم ہو پھر اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیجیں گے جو تکلیف نہیں دے گی وہ مشک کے ٹیلوں کو ان کے دائیں بائیں بکھیر دے گی۔ یہ مشک ان کے گھوڑوں کے ماتھوں، سروں اور جوڑوں میں پایا جاتا ہے اور ان میں سے ہر آدمی جو چاہے گا وہ اس کو بلا مشقت ملے گا مشک ان سے اور ان کے گھوڑوں سے مس ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کپڑوں وغیرہ کو لگے گا پھر واپس جائیں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچیں گے جہاں اللہ کی مشیت ہوگی۔ عورتیں ان میں سے بعض کو پکاریں گی اے اللہ کے بندے! کیا آپ کو ہماری حاجت نہیں؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تمہاری بیوی اور محبوبہ وہ کہے گا مجھے آپ کی جگہ معلوم نہیں تھی، وہ کہے گی تجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان معلوم نہیں؟

”پس کسی نفس کو معلوم نہیں جو تیار کی گئی ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔“^②

(سورۃ السجدہ: ۱۷)

وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب کی قسم تو شاید وہ اس وقت کے بعد چالیس سال تک مشغول رہے گا نہ التفات کرے گا اور نہ واپس ہوگا۔ اس کو اس عورت سے وہ نعمتیں اور عزتیں جس میں وہ ہے مشغول نہیں کرتیں۔ اور یہ حدیث مرسل ہے اور بہت غریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل جنت عمدہ سفید اونٹوں پر سوار ہو کر ایک دوسرے کی زیارت کریں گے ان اونٹوں کے اوپر سونے کے کجاوے ہوں گے ان کی ناک کی جڑوں پر مشک کا غبار ہوگا ان میں سے ایک کی لگام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔^③ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا:

① معجم کبیر: ۲۹۲/۸۔ ② ترغیب ترہیب: ۵۳۲/۳۔ ③ مسند امام احمد: ۲/۳۳۵۔

”اور صورت پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مگر جسے اللہ چاہے“۔ (الزمر: 68)

جواب دیا کہ وہ شہدائے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ارد گرد سے اس حال میں اُنہیں اٹھائے گا کہ وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ ملائکہ ان کے سامنے محشر سے سفید یا قوت کی اونٹنیاں لائیں گے۔ سانس کے کجاہوں کے ساتھ۔ ان کے اگام باریک اور دین (دونوں قسم کے) ریشم ہوں گے اور اس کے گدیے ریشم کے ہوں گے اس کا قدم وہاں پڑے گا جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ وہ جنت میں اپنے گھوڑوں پر چلتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلائق کے درمیان کیسے فیصلے فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان (شہداء) پر ہنستے ہیں اور جس پر اللہ نئے اس سے حساب نہیں ہوگا۔^①

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: بلاشبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے۔ اگر کوئی سوار عمدہ گھوڑے پر سفر کرے تو سو سال تک اس کے سایہ میں چلے اس کا ورق سبز زرد ہے اور اس کے پھول زرد پکڑے ہیں اور اس کی ٹہنیاں باریک اور دبیر ریشم ہیں اس کا پھل زیورات ہیں اور اس کا گوند زنجبیل اور شہد ہے اور اس کی کنکریاں سرخ یا قوت اور سبز زرد ہے اور مٹی اس کی مشک ہے اور اس کا گھاس ایسا زعفران ہے جس کی خوشبو بغیر جلائے پھیلتی ہے اور اس کا سایہ اہل جنت کی ایک مجلس ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں اور سب اس میں آپس میں باتیں کرتے ہیں کسی دن باتوں کے دوران ملائکہ یا قوت کی اونٹنی جس میں روح ڈال دی گئی ہوگی لائیں گے جس کے لگام سونے کی زنجیریں ہوں گی اس کے چہرے فانوس جیسے ہوں گے اس کے اوپر کجاوے ہوں گے جس کے تختے درو یا قوت کے ہوں گے اور لولو و مرجان اس میں جڑے ہوں گے اس کا اندرونی حصہ زرد سونے کا ہوگا جس پر عبقری اور ار جوان (ایک پھول کا نام) چڑھائے گئے ہوں گے تو وہ ان اونٹنیوں کو بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہیں زیارت کے لیے طلب کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے اور تم اس کو اور تاکہ تم اس کو سلام کرو اور وہ تم کو اور تاکہ تم اس سے بات کرو اور وہ تمہیں اپنے وسیع فضل سے مزید عطا فرمائے وہ وسیع رحمت اور بڑے فضل والا ہے۔

پھر ہر کوئی اپنی سواری کی طرف جائے گا اور وہ ایک معتدل صف بنا کر جائیں گے کوئی کسی سے نہیں پھڑے گا۔ سواری کا کان سوار کے کان سے اور سواری کا گھٹنا گوار کے گھٹنے سے جدا نہیں ہوگا اور وہ جنت کے جس درخت سے بھی گزریں گے وہ انہیں پھلوں کا تحفہ دے گا اور راستے سے ہٹ جائے گا تاکہ ان کی قطار خراب نہ ہو اور وہ کسی آدمی اور اسکے دوست کے درمیان آڑ نہ بنے۔ جب وہ دربار عالی میں پہنچیں گے تو رب کریم اپنے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹائے گا اور عظیم بڑائی میں تجلی فرمائیں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! آپ سلام ہیں آپ کی طرف سے سلامتی ہے آپ کو جلال اور اکرام کا حق ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے میں سلام ہوں مجھ سے سلامتی ہے اور میرے لیے عظمت اور اکرام کا حق ہے۔ خوش آمدید میرے ان بندوں کو جنہوں نے میری وصیت کو محفوظ رکھا اور میرے حق کی رعایت کی اور مجھ سے بن دیکھے خائف رہے اور وہ ہر حال میں مجھ سے ڈرتے ہیں وہ کہیں گے آپ کی عزت اور بلند مقام کی قسم! ہم نے آپ کی کما حقہ قدر نہ کی اور آپ کا پورا حق آپ کو ادا نہ کیا ہمیں سجدہ کی اجازت دیجیے رب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے عبادت کی مشقت تم سے

① الطاب العالیہ: ۲۱: ۳۷۷-۳۷۸: ۲/۳۷۷۔

بشادی ہے اور تمہارے بدن کو راحت دی ہے۔ تم نے میرے لیے بہت اپنے بدن کو تھکا یا اور اپنے چہروں کو گڑا۔ اب میری رحمت کرامت اور راحت تک پہنچے ہو مگر میں دوں کا تمنا کرو تمنا نہیں پورن کروں گا۔ آج میں تمہیں تمہارے برے اعمال کی بقدر تیس بلکہ اپنی رحمت کرامت شان اور عظمت کی بقدر دوں گا۔ پس ان کو ان کی تمنا میں انعامات برابر ملتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سب سے کم تمنا کرنے والے ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا کی تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگوں نے تمنا میں کرنے میں کمی کی اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو گئے جو کچھ تم نے مانگا ہے اور تمنا کی ہے وہ تو ملے گا ہی اور میں نے تمہاری اولاد کو بھی تمہارے درجوں تک پہنچا دیا ہے اور تم وہ بھی لے لو جس تک تمہاری تمنا میں نہ پہنچ سکیں۔^① (اللہم اجعلنا من اهل الجنة) اور یہ حدیث مرسل ہے ضعیف ہے غریب ہے اور اچھا حال اس کا یہ ہے کہ کسی بزرگ کا کلام ہے اس کے کسی راوی کو وہم ہو تو اس کو مرفوع بنایا حالانکہ ایسا نہیں۔ واللہ اعلم۔

جنت کے متعلق ایک جامع باب اور مختلف احادیث:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کا اتباع کیا ایمان لا کر ہم نے ان کی اولاد کو ان کے درجے تک پہنچا دیا اور کچھ کم نہ کیا ان کے اعمال میں سے“۔ (الطور: 21)

اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے درجہ کو آباء کے درجے تک پہنچا دیں گے اگرچہ وہ (اولاد) ان کے بقدر اعمال نہ کر چکے ہوں آباء کے اعمال میں کمی نہیں ہوگی ان کو اور ان کے بیٹوں کو جمع کرنے کے لیے اس جنت میں جس کے آباء مستحق ہیں۔ نچلے درجہ والے کو اونچے درجے کے برابر کیا جائے گا تا کہ وہ اونچے درجے میں جمع ہوں اور ان کی آنکھیں جمع ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ مومن کی اولاد کو ان کے درجے تک پہنچا دیا جائے گا اگرچہ وہ اتنا عمل نہ کر چکے ہوں جتنا کہ ان کے آباء کر چکے ہیں اور یہ اس لیے ہوگا تا کہ آباء کی آنکھیں اپنی اولاد کو (اونچے درجے میں) دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا: ”والذین آمنوا..... الآية“ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں ایسا ہی روایت کیا ہے حضرت ثوری سے۔ ابن جریر، عمرو، سعید، ابن عباس موقوف اور مسند بزار میں ہے قیس بن ربیع، عمرو، سعید، ابن عباس عن رسول اللہ۔

اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ لوگ (جس کا آیت میں ذکر ہے) مومن کی اولاد ہوں گے جو ایمان پر مریں گے پس اگر ان کے درجے ان کے آباء کے درجوں سے کم ہوں گے تو ان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا اور اسکے لیے آباء کے اعمال میں کوئی کمی نہ ہوگی۔^② اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے والدین بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا (کہ وہ کہاں ہیں؟) اس سے کہا جائے گا کہ وہ آپ کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے کہہ گا پروردگار میں نے تو عمل اپنے لئے اور ان کے لیے کیا تھا پس حکم ہوگا کہ اس کی اولاد کو ان کے درجے تک پہنچا دیا جائے اور

① الترغیب والترہیب: ۴/۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵ درمنثور: ۴/۵۰/الشریہ: ۲۲۰-۲۲۱ مجمع الزوائد: ۱/۵۷۱ الضعفاء: ۴/۲۵۵۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”والذین آمنوا واتبعتہم..... الآیة“^① عوفی حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اولاد دینمان پر مرن اور انہوں نے میری امت کی ہیں ان کو بہت میں آنکے آباء کے ہاں پہنچاؤں گا اور ان کی نالغ اولاد کو بھی ان کے ہاں پہنچا دیا جائے گا۔ ذریعہ کی تفسیر میں جو اقوال کہے گئے یہ ان میں سے ایک ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”ان کی ذریت میں داؤد اور سلیمان ہیں“۔ (انعام: 84)

اور فرمایا: ”اور ان لوگوں کی ذریت جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا“۔ (اسراء: 3)

یہاں پر ذریت چھوٹوں اور بڑوں سب کو شامل ہے اور عوفی نے جو تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے وہ بھی دونوں کو شامل ہے اور اسی کو واحدی نے اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے جو وہ اولاد پر آباء کے اعمال کی وجہ سے فرمائیں گے۔

اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے آباء پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے درجہ کو جنت میں بلند فرماتے ہیں وہ عرض کرتا ہے اے رب! یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا ارشاد ہوتا ہے آپ کے لیے آپ کے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے۔^② حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو تین کے علاوہ باقی (سب) اعمال بند ہو جاتے ہیں۔

(1) صدقہ جاریہ۔ (2) علم نافع۔ (3) نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔^③

جنت اور دوزخ موجود ہیں

اور جنت دوزخ ابھی موجود ہیں اپنے اپنے اصحاب کے لیے تیار کی گئی ہیں جس طرح قرآن اور متواتر احادیث سے ثابت ہے اور یہ ان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے جنہوں نے مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے یعنی قیامت تک مشعل راہ سنت پر ہیں بخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو ابھی تک پیدا نہیں کیا گیا۔ قیامت کے دن پیدا کیا جائے گا اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو صحیحین اور مشہور و معروف کتب کی متفق علیہ احادیث پر مطلع نہیں جب کہ وہ روایات ایسی ہی ہیں کہ شہرت اور تواتر کی وجہ سے ان کا رد ممکن نہیں حالانکہ صحیحین میں ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کی رات جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا۔^④ اور ارشاد فرمایا کہ دوزخ نے رب تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے رب میرے بعض حصوں نے بعض دیگر حصوں کو کھالیا (اللہ بچائے) پس اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ آپ (موسم سرما میں) جو زیادہ سخت سردی محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کی سردی میں سے ہے اور (موسم گرما) میں جو سخت گرمی محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کی گرمی میں سے ہے۔ جب گرمی کا موسم ہو تو نماز کو

① معجم کبیر: ۲۹۲/۸۔ ② مسند احمد: ۵۰۹/۲۔ ③ مسلم: ۱۳۱۹۹، ابوداؤد: ۲۸۸۰، ترمذی: ۱۳۷۶۔ ④ بخاری: ۳۳۹۹، ۳۳۳۲، ۱۶۳۶، مسلم: ۳۰۹۔

(کچھ موخر کر کے) ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔^① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں تلک اور سنگلی ۱۰۰ داغ لگانے کا میرے لیے منگلیں اور منجھریں کو ناس کیا گیا ہے جنات نے کہا کیا وہ بت میرے اندر گزرد اور گزرتے پڑے لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے ان رحم کروں گا اور دوزخ سے فرمایا تو میرے غصے کی جگہ ہے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ تم دونوں کو بھردیا جائے گا۔ پس آگ اس وقت تک نہ بھرے گی جب تک حق تعالیٰ شانہ اس میں اپنا قدم نہ رکھ لیں پس (جب اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھ لیں گے تو) وہ کہے گی: بس بس! اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے بعض حصے دیگر حصوں کی طرف سمت جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں کسی پر ظلم نہ فرمائیں گے اور رہی جنت تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے۔^②

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دوزخ میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے اور وہ کہتی رہتی ہے آپ کی عزت و کرامت کی قسم اور ہے اور ہے۔ اور جنت میں خالی جگہ باقی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے اور خالی جگہ کو بھر دیں گے۔^③ اور رہی وہ حدیث جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے لیے جس کو چاہیں پیدا فرمائیں گے اور وہ کہے گی ہل من مزید؟ (کیا مزید کچھ ہے؟) اس میں جو اشکال پیدا ہو رہا ہے اس کے جواب میں بعض حفاظ نے فرمایا ہے کہ یہ بعض راویوں کو غلطی ہے گویا کہ اشتباہ ہو گیا اور ایک لفظ کو دوسرے میں داخل کر کے اس حکم کو جنت سے دوزخ کی طرف منتقل کر دیا۔ واللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں کہ اگر (غلطی نہ بھی ہوئی ہو اور حدیث کے الفاظ) محفوظ ہوں تو اس کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہوں جیسا کہ ان لوگوں کا امتحان لیں گے جن کے اوپر دنیا میں حجت قائم نہ ہوئی جو نافرمانی کرے گا اس کو آگ میں اور جو اطاعت کرے گا اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

”ہم جب تک کوئی رسول نہ بھیجیں عذاب نہیں دیتے“۔ (الاسراء: ۱۵)

اور ارشاد ہے: ”بھیجا رسولوں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے بنا کرتا کہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی

حسرت نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے“۔ (سورۃ النساء: ۱۶۵)

جنت والوں کی بعض صفات اور دوزخ والوں کی بعض صفات:

سابق میں اہل جنت میں بیان کر چکے ہیں کہ کیسے جنت میں آئیں گے کیسے داخل ہوں گے اور یہ کہ وہ ساتھ گزریں اور سات گز چوڑے ہوں گے اور یہ کہ ان کے چہروں پر بال نہ ہوں گے اور آنکھیں سرگیں ہوں گی اور تینتیس سال جوانی کا زمانہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے طول یعنی ساٹھ گز اور یوسف علیہ السلام

① بخاری: ۵۳۷، مسلم: ۱۴۰۰، مسند احمد: ۲/۲۲۸۔ ② بخاری: ۲۸۵۰، مسلم: ۴۱۰۴، مسند احمد: ۲/۳۱۴۔ ③ بخاری: ۶۶۶۱، مسلم: ۱۰۶، ترمذی: ۳۲۷۲۔

کے حسن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر یعنی 33 سال اور حضرت محمد ﷺ کی زبان والی صفات کے ساتھ جائیں گے۔^① حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔^② مقدم ام ابن معدنہ رب بنی ہاشم حضور ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ہر آدمی چاہے وہ زچگی میں مراہو (چھوٹی عمر میں) یا بوڑھا ہو کر (مراہو) اس کو 30 سال اور ایک روایت کے مطابق 33 سال کی عمر میں اٹھایا جائے گا اگر وہ چستی میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت اور حضرت ایوب علیہ السلام کے قلب الطہر کی صفت کے ساتھ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ چہرے پر داڑھی نہ ہوگی اور آنکھوں میں سرمہ لگائے ہوئے ہوں گے اور اگر دوزخی ہے تو اس کو پہاڑ برابر موٹا کر دیا جائے گا اور ایک روایت میں ہے۔ ان کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان کے ہاتھ کی کھال چالیس گز ہوگی اور ان کی ایک داڑھ اچھ پھاڑ کے برابر۔ (نعوذ باللہ من جہنم)^③

اور ثابت ہو چکا ہے کہ چستی کھائیں گے پھیں گے اور پاخانہ پیشاب کی حاجت نہ ہوگی البتہ ان کو ایسا پسینہ آئے گا جس سے خالص مشک کی سی بو آئے گی (جس کی وجہ سے پاخانہ کی ضرورت نہ پڑے گی) اور ان کے سانس اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کریں گے۔^④ سب سے پہلی جماعت جنتیوں کی چاند جیسی ہوگی ان کے بعد والوں کی روشنی چمکتے ستارے کی شعاعوں جیسی ہوگی وہ جماع کریں گے اور نسل نہیں ہوگی ہاں مگر جو چاہیں گے وہ مریں گے نہیں سونیں گے کیونکہ ان کی زندگی زیادہ لذتوں کی وجہ سے کمال تک پہنچ گئی جائے گی اور کھانوں کے بعد کھانے اور مشروبات پر مشروبات کے مزے لیں گے۔ جتنا بھی زمانہ گزرتا جائے گا ان کے حسن و جمال، جوانی و قوت اور کمال میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جنت ان کے لیے خوبصورتی دکھائی اور روشنی اور ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتی جائے گی اور وہ مزید رغبت کریں گے جنت میں ان کی جنت کی حرص بڑے گی اس لیے جنت ان کو بہت عزیز ہوگی مزے والی ہوگی قیمتی اور لذیذ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ (جنت میں) سدا رہیں گے وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے۔ (کہف: 108)^⑤



① تفسیر ابن کثیر حدیث: ۳۱۲/۳۔ ② مجمع الزوائد: ۵۳/۱۰۔ ③ بیہقی: ۳۶۶۔

④ مسلم: ۸۱۱۷ اور اورد: ۳۷۱۲ مستدرک امام احمد: ۳۶۲/۳۔

⑤ مستدرک امام احمد: ۲۷۳/۲۔ مستجدی: ۱۱۴۳۔

فصل

ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے رسول اللہ ﷺ اور امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) ہے اور اس امت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں اور یہ امت جنت کے دو تہائی کے برابر ہوگی جیسا کہ حدیث گزری ہے۔ اہل جنت کی 120 صف ہوں گی۔ 80 اس امت کی ہوں گی۔^①

فقراء میروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ فقراء امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے اور وہ 500 سال کے برابر ہے۔^② اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے اور ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اور طبرانی میں بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً ایسا ہی نقل کیا گیا ہے۔^③ ترمذی نے ابو سعید سے مرفوعاً ایسا ہی نقل کیا پھر اس کو حسن کہا۔ عبداللہ بن عمرؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین اغنیاء سے چالیس سال قبل جنت میں جائیں گے۔^④ اور ترمذی نے بھی جابر بن عبداللہ سے مرفوعاً ایسا نقل کیا ہے اور اس کو صحیح فرمایا ہے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی نقل کرتے ہیں اور اس کو غریب کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اول (حدیث) محفوظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقراء میں سے اول اور اغنیاء میں سے آخری شخص کے درمیان 40 سال کا زمانہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد نبوی نقل فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ان تینوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور ان تینوں کو بھی جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ جنتی تو یہ ہیں: (1) شہید (2) وہ غلام جس کو غلامی نے اللہ کی اطاعت سے نہ روکا ہو۔ (3) اور وہ فقیر جس کے اہل و عیال ہوں اور وہ محفف ہو (سوال نہ کرتا ہو اور دیگر حرام ذرائع اختیار نہ کرتا ہو) اور جہنم میں جانے والے: (1) ظالم مسلط حاکم۔ (2) وہ غنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ (3) اور فخر کرنے والا فقیر۔^⑤ اور ترمذی نے اس کو ابن مبارک کی طریق سے روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے لیکن انہوں نے جہنم کے تین آدمیوں کا ذکر نہیں کیا۔

① ترمذی: ۲۵۵۶/۱ ابن ماجہ: ۶۲۸۹/۵ مسند احمد: ۳۳۷/۵۔ ② ترمذی: ۳۵۳۶/۱ ابن ماجہ: ۳۱۲۲/۲ مسند احمد: ۳۳۳/۲۔

③ معجم کبیر: ۱۲/۱۲۲۳۔ ④ مسلم: ۲۳۲۸/۲ ترمذی: ۲۳۵۵/۲ مسند احمد: ۱۶۹/۲۔

⑤ ترمذی: ۱۶۳۲/۲ مسند احمد: ۳۳۵/۲۔

حماد مجاشعی حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت تین قسم کے لوگ ہیں: انصاف والا خرچ کرنے والا بادشاہ اور وہ آدمی جس کو مال میں بہت قسمت والا رکھے لیے رحم ہے اور عفت والا مسلمان اور اہل جہنم پانچ قسم کے لوگ ہیں: ۱۔ ضعیف جسم کی کوئی عظم نہیں۔ ۲۔ اس کو برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکے جو اپنے میں تابع ہو کر رہتے ہیں نہ اہل طلب کرتے ہیں اور نہ مال۔ اور وہ خائف کو معمولی طبع لی وجہ سے جسی خیانت کرے اور وہ آدمی جو تنگ شام آپ کو آپ کے اہل خیال کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے۔ اور (پھر) غل یا جھوٹ کو ڈر کر کیا اور یہ بڑھ اور بے حیا ہو اس بکنے والا۔^①

حارث بن وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر کمزور جس کو لوگ ضعیف سمجھتے ہیں اگر اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمادے۔ کیا میں آپ کو جہنم والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سختی کرنے والا تکبر کرنے والا جفا کرنے والا۔^② عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہنم والے ہر بد خلق سختی کرنے والے تکبر کرنے والے زیادہ جمع کرنے والے اور منع کرنے والے ہیں اور جنت والے مغلوب ضعیف ہیں۔^③

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے اچھے اوصاف سے اور اس سے اپنے کانوں کو بھریا اور دوزخ والے وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے برے اوصاف سنتے ہوئے اپنے کان بھرے۔^④ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو جنتیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، نبی صدیق شہید وہ جو اللہ کے لیے اپنے ایک بھائی کی زیارت کو ملک کے ایک کونے میں جاتا ہے اور جنت کی عورتوں کے بارے میں تم کو بتاتا ہوں۔ زیادہ بچے جننے والی جب ان کا خاوند غصہ ہوتا ہے تو یہ اپنا ہاتھ ان پر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو میں پلک نہیں جھپکوں گی۔^⑤ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اہل جنت کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اکثریت ان میں فقراء کی ہے اور اہل جہنم کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اکثریت اغنیاء کی ہے۔^⑥

جنت میں جانے کے لیے اول جن کو پکار جائے گا وہ غمی و خوشی میں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے

ہوں گے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ مرفوع حدیث گزر چکی ہے کہ سب سے پہلے جن کو جنت میں جانے لیے بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے۔^⑦

① مسلم: ۱۲۶۲/۳، مسند احمد: ۱۶۲/۳، ۲۶۹۔ ② بخاری: ۳۹۱۸، مسلم: ۱۱۲/۲، ترمذی: ۳۶۵۰، مسند امام احمد: ۱۶۹/۳۔

③ بخاری: ۳۹۱۸، مسلم: ۱۱۲/۲، ترمذی: ۳۶۵۰۔ ④ مسند امام احمد: ۱۶۹/۳۔

⑤ ابوداؤد: ۲۵۲۱، مسند احمد: ۱/۱۸۸، مجمع الزوائد: ۳۱۲/۳۔ ⑥ بخاری: ۶۳۳۹، مسلم: ۶۸۳۔

⑦ مستدرک حاکم: ۱/۵۰۲۔

امت محمدیہ کی جنت میں اکثریت اور بلند درجے اور مرتبے:

اس امت کی اکثریت ہوگی اور ان کے درجے بلند ہوں گے اور وہ پہلے داخل ہونے والے ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سترین کی صفت میں بیان فرمایا:

”وہ بہت سے اگلے لوگوں میں ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں“۔ (سورۃ الواقعہ: 13-14)

اور اہل عین کی صفت میں بیان فرمایا:

”وہ بہت سے اگلے لوگوں میں اور بہت سے پچھلے لوگوں میں ہوں گے“۔ (سورۃ الواقعہ: 39-40)

اور صحیحین میں ہے تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے پھر ان کے بعد والے پھر انکے بعد والے پھر آسمان یا سورج کے نیچے ایسے لوگ ہوں گے جو نذرانہ نہیں گے اور پورا نہیں کریں گے اور حاضر ہوں گے لیکن ان کی گواہی نہیں لی جائے گی (ان پر اتنا اعتماد نہ ہوگا کہ وہ حق گواہی ادا کریں) خیانت کریں گے امانت داری نہیں کریں گے۔^①

صحابہ رضی اللہ عنہم کی پہلی جماعت اس امت کی بہترین جماعت ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آپ میں سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی اقتداء کرے جو اس جہاں کو سدھار چکے ہیں اور وہ ہیں آپ کے صحابہ سب سے زیادہ ایمان والے دل میں اور سب سے عظیم علم کے لحاظ سے اور بہت کم تکلف والے وہ ایک ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی صحبت کے لیے اختیار کیا اور اپنے دین کی نصرت کے لیے ان کو چنانچہ ان کی قدر پہچانوا اور ان کی اقتداء کرو کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔

امت محمدیہ کی ایک بڑی تعداد بغیر حساب کے جنت میں جائے گی:

گزر چکا ہے کہ اس امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور صحیح مسلم میں ہے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار جائیں گے اور احمد کی روایت میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ اور طرق کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی وہ ستر ہزار ہوں گے ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے پس عکاشہ رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا اے رسول اللہ! دعا فرمائیے اللہ ان میں سے مجھے بھی کر دیں آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد ایک انصاری کھڑے ہوئے اور کہا اے رسول اللہ! میرے لیے بھی دعا فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ عکاشہ اس دعا کو لے کر آپ سے سبقت لے گئے۔^②

① بخاری ۲۶۵۱، مسلم ۶۲۲۲۔

② بخاری ۶۵۳۲، مسلم ۵۲۱۱۔

صحیحین میں حضرت سہل بن سعد کی روایت سے بھی ایسا نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس حضور ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اتوں کوچیں لیا گیا میں نے ایک ہی دیکھا بن نے ساتھ چھا آدمی تھے اور ایسا نبی کیسی بن نے پاس ایک آدمی تھا دو تھے اور ایسا نبی بھی دیکھا جن کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں تھا پھر میں نے ایک بڑے مجمع کو دیکھا گمان کیا کہ یہ میری امت ہے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ہاں آپ افق کی طرف دیکھنے میں نے دیکھا تو ایک عظیم مجمع دیکھا تو مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار وہ بھی ہیں جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نہ کان لگا کر چپکے سے دوسروں کی بات سنتے ہیں نہ بدفالی لیتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں تو عکاشہ جنیذہ کھڑے ہو گئے پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔ (بخاری: 5705- مسلم: 523)

نور اور مسلم میں محمد بن سیرین کے طریق سے حضرت عمران بن حصین سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو نہ داغ لگاتے ہیں اور بدفالی لیتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ (مسلم: 523) حضرت ابوامامہ آپ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے نہ ان سے حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا اور میرے رب عزوجل کی مٹھیوں میں سے تین لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔

(ترمذی: 2437، ابن ماجہ: 428، مسند احمد: 16/4)

ابوبکر بن عاصم نے بھی حضرت ابوامامہ جنیذہ کی اس حدیث کو ایسا نقل کیا بسند ذیل: ابوبکر بن عاصم، عجم، ولید بن مسلم، صفوان بن عمرو ابوسلیم بن عامر ابوالیمان عامر بن عبداللہ ابوامامہ اور طبرانی نے عقبہ بن عبدسلمی کی روایت سے ایسا نقل کیا ہے۔^① اور طبرانی نے ایک اور طریق سے اس کو ذکر کیا ہے اس میں تین مٹھیوں کا ذکر نہیں۔

جنت اور دوزخ موجود ہیں ان کو پیدا کیا جا چکا ہے نہ یہ کہ وہ تاہنوز وجود میں نہیں آئیں جیسا کہ بعض

اہل باطل کا خیال ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور بڑھو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین (کے برابر) ہے وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے“۔ (آل عمران: 133)

اور فرمایا: ”سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی۔ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے

① بخاری: ۷۵۰۵- مسلم: ۵۲۳۔

اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔“ (سورۃ الحدید: ۲۱)

اور فرمایا: اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (آل عمران: ۱۳۱)

اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا:

”وہ صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل

کردو۔“ (سورۃ غافر: ۴۶)

اور فرمایا: ”پس کسی نفس کو معلوم نہیں جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلان ان اعمال کا جو وہ کرتے

تھے۔“ (سورۃ سجدہ: ۱۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ذخیرہ ہے اس کے سوا جو تمہیں معلوم ہے۔“

پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی: ”فلا تعلم نفس..... الا یہ“ ① صحیحین میں مالک کی روایت سے حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دوزخی ہے تو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے۔ ② صحیح مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی ہیں پھر عرش میں فانوس میں آ جاتی ہیں۔ ③ حضرت مالک رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مومن کی روح جنت کے درختوں میں معلق پرندے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ ④ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی ﷺ منقول ہے کہ جنت کا احاطہ ناگوار یوں نے اور دوزخ کا احاطہ شہوات نے کر رکھا ہے۔ ⑤

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ جنت کو دیکھو۔ ⑥ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ بولو تو وہ بولی کہ مومن فلاح پاگئے۔ ⑦ ابو سعید رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے ارشاد نبوی ﷺ نقل فرماتے ہیں کہ جنت و جہنم میں تکرار ہوئی۔ ⑧ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً منقول ہے کہ بخار جہنم کی گرمی میں سے ہے۔ ⑨ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے تو ذرا ٹھنڈک میں پڑھو کیونکہ سخت گرمی جہنم کی تپش میں سے ہے۔ ⑩

① مسلم: ۵۲۳۔ ② ترمذی: ۲۳۳۷، ابن ماجہ: ۳۲۸، مسند احمد: ۱۶/۳۔ ③ معجم: ۵۲۰/۸۔

④ بخاری: ۴۷۷۹، مسلم: ۶۵، ابن ماجہ: ۳۲۲۸۔ ⑤ بخاری: ۱۳۷۹، مسلم: ۴۱۰، نسائی: ۲۰۷۱۔

⑥ مسلم: ۲۸۶۲، ترمذی: ۳۰۱۱، ابن ماجہ: ۲۸۰۱۔ ⑦ ترمذی: ۱۶۴۱، نسائی: ۲۰۷۲، مسند امام احمد: ۳/۳۵۵۔

⑧ مسلم: ۵۰۶۱، ترمذی: ۲۵۵۹۔ ⑨ ابوداؤد: ۴۷۳۳، مستدرک حاکم: ۱/۲۷۱، مسند احمد: ۲/۳۰۸۔ ⑩ اتحاف: ۵۶۳/۷۔

قیامت قائم ہونے کے بعد کے حالات و واقعات کے بیان میں

صحیحین میں ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور نیز حدیث معراج میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس رات جنت و جہنم کا مشاہدہ فرمایا۔^①
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور دیکھا ایک اور بار پرلی حد کی بیڑی کے ساتھ وہاں جنت المناویٰ ہے“۔ (سورۃ النجم: 13-15)

اور سورۃ المنتہی (پرلی حد کی بیڑی) کی صفت میں فرمایا: اس کی جڑوں میں سے دو نہریں ظاہر اور دو نہریں باطن نکلتی ہیں اور دو باطن کی جنت میں ہیں۔ صحیحین میں ہے مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو دیکھا کہ لوگو کی چٹانیں ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: میں جنت میں سیر کر رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک نہر ہے جس کے دونوں طرف جوف دار موتی ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے۔^②

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے ایک محل میں ایک لڑکی کو وضو کرتے دیکھا پوچھا تو کس کے لیے ہے۔ جواب ملا عمر کے لیے پھر میں نے محل کے اندر جانا چاہا لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آئی یہ سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کے معاملہ میں بھی غیرت کروں گا؟^③

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے پاؤں کی آہٹ سنی اس لیے مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا ہو اور تم کو اسکے بارے میں زیادہ امید (قبولیت کی) ہو۔ حضرت بلال نے عرض کیا میں اپنے اس عمل سے زیادہ امید دہندہ عمل نہیں پاتا کہ میں رات دن کے کسی حصے میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس سے کچھ نفل ضرور پڑھتا ہوں جتنا میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہو اور (راوی کہتے ہیں کہ) آپ نے مجھے رمیصاء کے بارے میں بتایا کہ آپ نے اس کو جنت میں دیکھا ہے۔^④

اور صلوة الکسوف کے دن بتایا کہ جنت اور دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور جنت آپ کے قریب ہو گئی اور آپ نے ارادہ کیا کہ انکو رکھ دے لیکن اور فرمایا اگر خوشہ لے لیتا تو تم لوگ رات دن دنیا تک اس میں سے کھاتے۔

(مشیۃ المعبود: 717 حلیۃ الاولیاء: 6/684)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن لُحی (وہ جس نے عرب میں بت پرستی کی داغ بیل ڈال دی تھی) کو جہنم میں اپنی آنسوں کو گھیٹتے ہوئے دیکھا۔^⑤ اور ایک حدیث میں ہے میں نے جہنم میں صاحب العین کو دیکھا (معین ٹیڑھی لٹھی کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی تھا جس کے پاس ٹیڑھی لٹھی ہو کرتی تھی۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتا اور راگیروں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کے سامان میں سے یکے بعد دیگرے چیزیں نکالنا شروع کر دیا کرتا تھا کسی کو پتہ چلتا تو کہتا کہ بغیر

① بخاری: ۳۸۵۰، مسلم: ۱۰۰۳۔ ② بخاری: ۳۶۳، مسلم: ۵۷۱۵۔ ③ بخاری: ۵۳۵، مسلم: ۱۳۹۔

④ بخاری: ۱۹۸۹، مسلم: ۲۳۹۲۔ ⑤ بخاری: ۶۵۸۱، ترمذی: ۳۳۶۰۔

ارادے کے لاشی آپ کے سامان میں پھنس گئی۔^① اور فرمایا ایک عورت جہنم میں اس لیے گئی کہ اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی نہ اسے ٹھلایا نہ پلایا اور نہ آزاد چھوڑا تا کہ وہ خود زمین کے پیداوار میں سے کھائے پئے اور میں نے اسے دیکھا کہ آگ اسے جلا رہی ہے۔^② اور اس آدمی کے بارے میں بتایا جو کانٹے دار زنبی کو راستے سے دور کرتا تھا فرمایا میں نے اس کو دیکھا کہ اس پر بشت میں سایہ کیا جا رہا ہے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسرے الفاظ میں مروی ہے۔

اور حضرت عثمان بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں اکثریت فقیروں کی تھی اور روزخ کو دیکھا تو ان میں اکثریت عورتوں کی تھی۔^③ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں کہ اگر تم وہ دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ کہا اے رسول اللہ! آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا: جنت اور جہنم۔^④

اور فرمایا: وضو کرنے والا جب وضو کے بعد تشہد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (حضور ﷺ کے صاحبزادے) ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا: بلاشبہ جنت میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے۔^⑤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مومنوں کی اولاد جنت میں ایک پہاڑی میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہا ان کی کفالت کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کو ان کے آباء کے حوالے کریں گے۔^⑥ اور کوہج نے بھی سفیان ثوری سے ایسا نقل کیا ہے۔ اس میں احادیث بہت ہی زیادہ ہیں اکثر کوہم نے ذکر کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اور کہا ہم نے اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔“

(سورۃ البقرہ: 35)

جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ جنت المادوی کا ذکر ہے اور ایک جماعت کا مذہب ہے کہ وہ زمین میں ایک جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا اور پھر وہاں سے نکالا اور ہم نے قصہ آدم میں اس کو اس کتاب میں تفصیل سے ذکر کر دیا ہے جسے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین قیامت کے دن اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔^⑦ اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آدھا یعنی پانچ سو سال پہلے جائیں گے۔^⑧ میں کہتا ہوں اگر اس کے الفاظ محفوظ ہیں جیسا کہ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ فاصلہ (500 سال) سب سے پہلے فقیر اور آخر غنی کے درمیان ہوگا اور چالیس سال سب سے آخری فقیر اور پہلے غنی کے درمیان ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اور قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ فقراء اور اغنیاء کے مختلف احوال کی وجہ سے ہوگا ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے جس کو ہم ذکر کر چکے۔ زہری

① بخاری: ۵۲۲۷۔ ② بخاری: ۱۱۳۹۔ ③ بخاری: ۶۲۷۳۔ ④ مسلم: ۱۲۲۲۔

⑤ مسند احمد: ۳/۳۱۸۔ ⑥ بخاری: ۶۳۳۹۔ ⑦ مسلم: ۱۳/۱۳۱۳۔ ⑧ نسائی: ۱۳۶۲۔

⑦ بخاری: ۱۳۸۲۔ مسند احمد: ۴/۲۹۷۔ ⑧ ترمذی: ۲۳۵۳۔

فرماتے ہیں کہ اہل جنت کا کام عربی ہوگا اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن لوگ سریانی بولیں گے جب جنت میں جائیں گے تو عربی بولیں گے۔

www.KitaboSunnat.com

کئی شوہروں والی بیوی جنت میں اس کے ساتھ ہوگی جو عمدہ اخلاق کا مالک ہوگا:

قرطبی نے تذکرہ میں امام مالکؒ سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ اپنے والد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوفؓ کی شکایت لے کر آئیں تو حضرت صدیقؓ نے فرمایا: اے میری بیٹی! صبر کرو کیونکہ زبیر اچھا آدمی ہے اور ہو سکتا ہے وہ جنت میں تمہارا شوہر ہو۔^۱ اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو آدمی کسی عورت کے ساتھ کنوارے پن میں شادی کرے تو وہ جنت میں بھی اس سے شادی کرے گا۔ ابن عربی فرماتے ہیں یہ غریب حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ عورت آخری شوہر کے ساتھ ہوگی اور یہ بھی آیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوش خلق کے ساتھ ہوگی۔ حضرت حمید بن انسؓ سے روایت ہے کہ ام حبیبہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ عورت جس کے دو شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ فرمایا دنیا میں اس کے ساتھ جس کے اخلاق زیادہ اچھے تھے ان دونوں میں سے۔ پھر فرمایا اے ام حبیبہؓ اچھے اخلاق دنیا و آخرت کی خیر لے اڑے اور حضرت ام سلمہؓ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔



التماس سورہ فاتحہ برائے تمام مرحومین

۱ [شیخ صدوق	۱۳ سید حسین عباس فرحت	۲۵ بیگم داغلاک حسین	۳۷ سید محمد علی
۲ [علامہ مجلسی	۱۴ بیگم وسیدہ جعفر علی رضوی	۲۶ سید ممتاز حسین	۳۸ قلام مجاہد بخش
۳ [علامہ اسماعیل حسین	۱۵ سید قلام حسین زیدی	۲۷ بیگم وسیدہ اختر عباس	۳۹ بیگم وسیدہ شمشاد حسین
۴ [علامہ سید علی نقی	۱۶ سیدہ نازیرہ	۲۸ سید محمد علی	
۵ [بیگم وسیدہ عابد علی رضوی	۱۷ سیدہ رضویہ خاتون	۲۹ سیدہ رضیہ سلطان	
۶ [بیگم وسیدہ اسماعیل رضوی	۱۸ سید نعم الحسن	۳۰ سید مظفر حسین	
۷ [بیگم وسیدہ رضا احمد	۱۹ سید مبارک رضا	۳۱ سید باسط حسین نقوی	
۸ [بیگم وسیدہ علی حیدر رضوی	۲۰ سید ثبیت حیدر نقوی	۳۲ قلام نبی الدین	
۹ [بیگم وسیدہ سید حسن	۲۱ بیگم مرزا محمد ہاشم	۳۳ سید ناصر علی زیدی	
۱۰ [بیگم وسیدہ مردان حسین جعفری	۲۲ سید باقر علی رضوی	۳۴ سید وزیر حیدر زیدی	
۱۱ [بیگم وسیدہ چار حسین	۲۳ بیگم وسیدہ باسط حسین	۳۵ ریاض الحق	
۱۲ [بیگم مرزا اتو حید علی	۲۴ سید عرفان حیدر رضوی	۳۶ خورشید بیگم	